

# شمرة العقاد

اس کتاب میں، ضرورت کی تقریباً 350 عقیدے ہیں  
 اور ہر ہر عقیدے کے لئے دس آیتیں اور دس دس حدیثیں ہیں  
 بلکہ ان سے بھی زیادہ ہیں  
 اس کتاب میں 563 آیتیں ہیں اور 373 حدیثیں ہیں

## مؤلف

حضرت مولانا ثمیر الدین قاسمی صاحب دامت برکاتہم

ناشر:- مکتبہ ثمیر، مانچیستر، انگلینڈ

Mobile (0044) 7459131157

جملہ حقوق بحق مؤلف محفوظ ہیں

نام کتاب ----- شِرْقَةُ الْعَقَادِ  
نام مؤلف ----- مولانا سمیر الدین قاسمی  
ناشر----- مدرسہ شریۃ العلوم، گھٹٹی  
طبعات----- باراول مارچ ۲۰۱۸ء  
چھپائی کے لئے رابطہ کریں مولانا شمس الحق باڑی  
فون----- نمبر 07811720145

مؤلف کا پتہ

Maulana Samiruddin Qasmi

70 Stamford Street , Old trafford

Manchester,England -M16 9LL

E samiruddinqasmi@gmail.com

Mobile (00 44 ) 07459131157

website samiruddinbooks.co.uk

## ملنے کے پتے

صفہ نمبر	فہرست مضمایں	نمبر
18	شمرة العقاد ایک قبل قدر کتاب خدا کرے کہ سب مل جائیں	
21	ا۔ اللہ کی ذات	1
25	صرف اللہ ہی روزی دینے والا ہے	
41	اللہ ہی پچھو دینے والا ہے	
44	اللہ ہی شفاذیتا ہے	
46	۲۔ اللہ پر جزا یا سزادیا واجب نہیں ہے	2
48	۳۔ دہریوں کو خدامان لینا چاہئے	3
53	آپ جوان رہ کر دھلانیں	
55	۴۔ رویت باری	4
57	۵۔ حضور ﷺ کو 10 بڑی بڑی فضیلیں دی گئیں ہیں	5
67	[۵] حضور ﷺ خاتم النبیین ہیں کوئی اور نبیں ہیں	
74	۶۔ حضور ﷺ بشر ہیں	6
82	لیکن اللہ کے بعد تمام کائنات سے افضل ہیں	
85	حضور ﷺ سے اعلان کروایا گیا کہ میں انسان ہوں	
97	قرآن میں نور 5 معانی میں استعمال ہوا ہے	
100	حقارت کے طور پر رسول کو بشر کہنا بالکل ٹھیک نہیں ہے،	

صفہ نمبر	فہرست مضامین	نمبر
103	حضور ﷺ نے خود فرمایا کہ مجھے بڑھا چڑھا کر بیان نہ کرو ۔ حضور ﷺ قبر میں زندہ ہیں	7
104	آپ کا جسم اطہر قبر میں بالکل محفوظ ہے ۔ حاضر ناظر	8
122	حضور ﷺ ہر جگہ حاضر نہیں ہیں	
147	مختار کل صرف اللہ ہے	9
147	اختیارات کی 4 قسمیں ہیں حضور ﷺ سے اعلان کروایا گیا کہ میرے ہاتھ میں	
156	نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں ہے	
166	علم غیب	10
172	حضور ﷺ سے اعلان کروایا گیا کہ مجھے علم غیب نہیں ہے	
175	حضور سے اعلان کروایا گیا کہ، علم غیب ہوتا تو مجھے کوئی نقصان ہی نہیں پہنچتا	
203	صرف اللہ ہی سے مدد مانگ سکتے ہیں	11
206	دعا صرف اللہ ہی سے مانگنی چاہئے	
209	حضور سے اعلان کروایا گیا کہ میں بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں	
221	وسیلہ	12
221	وسیلہ کی 5 صورتیں ہیں	
223	[۱] دعا اللہ ہی سے کرے لیکن کسی کے طفیل کا واسطہ دے	

صفحہ نمبر	فہرست مضامین	نمبر
234	۱۳۔ یہ ۵ عقیدے اتنے اہم ہیں	13
234	یہ ۵ عقیدے یہ ہیں	
240	۱۴۔ شفاعت کا بیان	14
241	قیامت میں سفارش کرنے کی ۸ صورتیں ہیں	
248	۱۵۔ تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے	15
253	سب نبیوں کے دین میں تھا کہ اللہ ایک ہے	
255	اب حضور ﷺ پر ایمان لانا ضروری ہے	
261	۱۶۔ رسول ﷺ کی گستاخی	16
262	حضور ﷺ کی گستاخی بہت بڑا و بال ہے	
275	۱۷۔ [۲] غیر مسلم ملک میں رسول کی گستاخی	
277	گستاخ رسول اس دور میں ایک بڑا مسئلہ ہے	
279	۱۸۔ تمام صحابہ کرام کا احترام بہت ضروری ہے	17
280	ہر صحابی کی عزت کرنا اور دل سے محبت کرنا ضروری ہے	
282	صحابہ کی فضیلت کے بارے میں یہ ۸ آیتیں ہیں	
292	صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہوا ہمیں اس میں نہیں پڑنا چاہئے	
293	یہ دس صحابی ہیں جنکو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی ہے	
294	۱۸۔ اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کا جز ہے	18
295	اہل بیت میں کون کون داخل ہیں	

صفہ نمبر	فہرست مضامین	نمبر
302	اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کا جز ہے	
305	سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت	
306	سیدہ حضرت فاطمہؓ کو وراثت کیوں نہیں دی گئی	
309	حضرت ابو بکرؓ نے عہد کیا کہ اہل بیت کو جی بھر کر کر دیں گے	
310	حضرت علیؑ حضرت ابو بکرؓ کے گلے ملے	
312	امیر المؤمنین حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ کی فضیلت	
314	حضرت علیؑ گوحد سے زیادہ بڑھانا بھی ہلاکت ہے	
322	امام المؤمنین حضرت عاصیؓ کی فضیلت	
325	امیر المؤمنین حضرت ابو بکرؓ کے فضائل	
329	حضرت ابو بکرؓ ان صحابہ میں سے افضل تھے	
330	حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ حضورؐ کے خسر ہیں	
331	امیر المؤمنین حضرت عمرؓ کے فضائل	
332	حضرت عمرؓ حضرت علیؑ کے داماد ہیں	
334	امیر المؤمنین حضرت عثمانؓ کے فضائل	
339	میرے اسامیہ نے کتنا احترام سکھایا!	
340	19۔ خلافت کا مسئلہ	19
341	خود حضرت علیؑ نے فرمایا کہ مجھے خلافت کی وصیت نہیں کی ہے	
348	سب نے مل کر حضرت ابو بکرؓ کو خلیفہ منتخب کیا	

صفہ نمبر	فہرست مضامین	نمبر
349	حضرت علیؑ نے حضرت ابو بکرؓ سے بیعت کی تھی پانچ خلیفوں کی خلافت کی مدت	
352		20
354	ولی کس کو کہتے ہیں	
356	ولی کی علامت یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر خدا یاد آئے	
357	جو شریعت کا پابند نہیں وہ ولی نہیں ہے	
361	۲۱۔ فرشتوں کا بیان	21
369	۲۲۔ جن کا بیان	22
371	جنات انسان کو پریشان کرتا ہے لیکن اتنا نہیں ہے جتنا آج کل کے زمانے میں اس میں غلو ہے	
372	جنات کے ٹھیکے داروں سے چونکا رہیں	
374	۲۳۔ حشر قائم کیا جائے گا	23
381	۲۴۔ میزان حق ہے	24
383	۲۵۔ اللہ نے جنت کو پیدا کر دیا ہے	25
391	۲۶۔ قرآن اللہ کا کلام ہے	26
397	قرآن میں نہ تحریف ہوئی ہے اور نہ ہو گی	
401	۲۷۔ اللہ کہاں ہیں	27
408	عرش ایک بہت بڑی مخلوق ہے	
423	۲۸۔ قلم کیا چجز ہے	28

صفحہ نمبر	فہرست مضامین	نمبر
426	۲۹۔ ایمان کی تفصیل	29
426	چھ چیزوں پر ایمان ہوتا آدمی کو موسیٰ قراردیا جائے گا	
434	ان چھ چیزوں میں سے کسی ایک کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا	
435	دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرنے کا نام ایمان ہے	
441	۳۰۔ تقدیر	30
445	جو جیسا ہوتا ہے ویسا ہی کام کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے	
446	تقدیر کے بارے میں زیادہ بحث نہیں کرنی چاہئے	
447	۳۱۔ استطاعت، خلق اور کسب، کیا ہیں کسبُ	31
453	۳۲۔ شرک تمام آسمانی کتابوں میں منوع ہے	32
457	شرک کو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے	
460	اللہ کی عبادت میں شریک کرنا حرام ہے	
462	اللہ کے علاوہ کسی کے لئے سجدہ، اور رکوع جائز نہیں ہے	
470	گناہ کبھی کو حلال سمجھے گا تو وہ کافر ہو جائے گا	
473	۳۳۔ مسلمان مرتد کب بناتا ہے	33
474	مرتد کو قاضی شرعی قتل کی سزا دے گا	
479	آدھے جملے سے مشرک نہ بنا سکیں	
481	۳۴۔ اہل قبلہ کون لوگ ہیں	34
486	اسلام میں تشدید بھی نہیں ہے، اور بہت ڈھیل بھی نہیں ہے،	

صفہ نمبر	فہرست مضمایں	نمبر
488	۳۵۔ پیری مریدی	35
491	پیر خدا ترس ہو تو اس کا زیادہ اثر پڑتا ہے	
493	دنیا طلب کرنے کے لئے پیر بنا، یا مرید بنا اچھی بات نہیں ہے	
498	حضور غورتوں سے بیعت کرتے تھے لیکن انکے ہاتھ کو نہیں چھوٹے تھے،	
499	پیر صاحب آپ کو کوئی معنوی فیض دے دیں گے ایسا نہیں	
500	۳۶۔ تعویذ پہننا کیسا ہے	36
500	تعویذ کی ۷ سات فتمیں ہیں	
501	بعض تعویذ کرنے والوں کا مکر	
503	جس گھر میں تعویز کاررواج ہو جاتا ہے، اس کی جان نہیں چھوٹتی	
504	تعویذ سے ذہنی طور پر تھوڑی تسلی ہو جاتی ہے	
513	تعویذ نہ لٹکائے اور صبر کرے تو یہ تقویٰ کا اعلیٰ درجہ ہے،	
514	کبھی کبھار تعویذ لٹکالی جس سے تسلی ہو جائے تو اس کی تھوڑی سی گنجائش ہے	
517	لیکن تعویذ کا دھندا بنا لینا ٹھیک نہیں ہے	
521	[۵]۔ جادو کرنا حرام ہے	
524	عraf کے پاس جانے سے چالیس دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی	
526	[۷]۔ جنات نکالنا	
527	۳۷۔ قبروں کی زیارت	37
529	حضور نے قبروں کی حد سے زیادہ تعظیم کرنے سے منع فرمایا	

صفحہ نمبر	فہرست مضامین	نمبر
531	قب پر اس لئے جانے کی اجازت ہے کہ وہاں آخرت یاد آنے لگے	
533	سات 7 شرطوں کے ساتھ قبر پر جانے کی اجازت ہے	
533	[۱] اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے	
534	[۲] قبر والوں سے نہ مانگے	
538	[۳] پردے کے ساتھ جائے، بے پردگی کے ساتھ ہرگز نہ جائے	
546	عام حالات میں عورتوں کو قبر پر جانا منع ہے	
548	قب پر عمارت بنانا مکروہ ہے	
550	حضور ﷺ کی قبر مبارک پر قبہ کیوں ہے	
562	جنکے یہاں موت ہوئی ہے انکے یہاں کھانا کھانا مکروہ ہے	
568	۳۸۔ قبر پر عرس جائز نہیں ہے	38
572	گانا اور ڈھوک، طبلہ بجانا حرام ہے	
574	گنگنا کر گیت گانا بھی مکروہ ہے	
579	۳۹۔ فیض حاصل کرنا	39
585	قبوں اور مردوں سے کون سا فیض حاصل ہوتا ہے	
591	۴۰۔ قبر کے پاس ذبح کرنا منوع ہے	40
591	ذبح کرنے کی چار صورتیں ہیں	
597	[۳] چوتھی صورت، اللہ کے نام پر کرے اور قبر سے دور کرے	
599	۴۱۔ ماتم کرنا حرام ہے	

صفہ نمبر	فہرست مضامین	نمبر
600	مصیبت کے وقت قرآن نے صبر کرنے کو کہا ہے اویلاً کرنا منوع ہے	
603	۴۲۔ ایصال ثواب ایک مستحب کام ہے	
606	اس وقت کی افراتفری	
609	ایصال ثواب کی ۳ صورتیں ہیں	
610	[۱] مال خیرات کر کے ثواب پہنچانے سے میت کو ثواب ملتا ہے	
611	[۲] بدنی عمل کر کے میت کو ثواب پہنچاسکتے ہیں	
614	[۳] قرآن پڑھ کر اور دعا کر کے میت کو ثواب پہنچاسکتے ہیں	
615	کچھ حضرات کی رائے ہے کہ ثواب نہیں پہنچاسکتے	
619	قبر پر خرافات	
622	[۱] میت کا سننا	43
624	[۲] جو حضرات کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے ہیں	
625	لیکن اللہ جتنا چاہے تو سنادیتے ہیں	
630	[۳] یہ دس چیزیں علامت قیامت میں سے ہیں	44
632	هم ان علامات قیامت پر ایمان رکھتے ہیں	
633	حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر آتیں گے	
634	کچھ اور چیزیں بھی علامت قیامت میں سے ہیں	
643	تمت بالخیر	
644		

## شرۃ العقامد کی خصوصیات

کتاب بہت آسان انداز میں لکھی گئی ہے	1
آج کل ضرورت کی جو عقامد ہیں، انہیں کوڈ کر کیا گیا ہے	2
ہر عقیدے کے لئے صرخ آیتیں، اور صحیح احادیث لائی گئیں ہیں	3
کوشش یہ کی گئی ہے کہ تمام مسالک کے لوگ اس پر متفق ہو جائیں	4
جماعہ میں تقریر کرنے والے خطبیوں کے لئے یہ آسانی ہے کہ یہاں سے آیت اور احادیث لیں اور تقریر فرمائیں	5
کتاب بہت سنجیدہ انداز میں لکھی گئی ہے، اور ہر مسلک والوں کے لئے مفید ہے	6
ہر عقیدے کو ثابت کرنے کے لئے کتنی آیتیں ہیں، اور کتنی حدیثیں ہیں، انکو گن کر بتائی گئی ہے، اور ہر آیت اور ہر حدیث کا پورا حوالہ دیا گیا ہے	7
اس کتاب میں، ضرورت کی تقریباً 350 عقیدے ہیں، اور ان عقیدوں کو ثابت کرنے کے لئے دس دس آیتیں اور دس دس حدیثیں ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ ہیں البتہ ضرورت کے موقع پر کم بیش بھی ہے	8
ان عقیدوں کو ثابت کرنے کے لئے 563 آیتیں ہیں اور 373 حدیثیں ہیں	9
اور کل عنوانات 465 ہیں۔، اور کل بڑے عقیدے 44 ہیں	

## دعائیہ کلمات

از: حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب دامت برکاتہم

مہتمم دارالعلوم دیوبند

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حضرت مولانا شمس الدین قاسمی مقیم ناچیستر، انگلینڈ، کی متعدد تصانیف پہلے بھی دیکھنے اور پڑھنے کا موقع ملا، خاص طور پر، شمرہ المیراث، اور شیری کلینڈر سے بہت سی معلومات حاصل ہوئیں

شمرہ العقادہ مولانا دامت برکاتہم کی تازہ تصنیف ہے، جس میں اسلام کی بنیادی عقائد کو ۲۳۳ مرکزی عنوانات کے تحت ثابت اور سادہ انداز میں اس طرح درج فرمایا ہے کہ ضروری تفصیلات اور آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے عقیدہ کا اثبات بھی ہو جائے، اس کتاب میں اہل سنت والجماعت کے عقائد حقہ کے بیان کے ساتھ را اعتمدار سے مخرف جماعتوں کے عقائد پر گرفت بھی گئی ہے، اور اپنے دعوؤں کو دلائل کے ذریعہ ثابت بھی کیا گیا ہے

امید ہے کہ عقیدہ جیسے نازک مسئلہ میں حضرت کی یہ کتاب بہترین رہنمای ثابت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کتاب کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور امت کو استفادہ کی توفیق بخشے

(حضرت مولانا مفتی) ابوالقاسم نعمانی، غفرلہ

مہتمم دارالعلوم دیوبند

۸ مطابق ۱۴۲۷ھ ستمبر ۲۰۱۹ء

## تہ دل سے مبارک بادی

از:- حضرت مولانا عبدالخالق مداراسی صاحب دامت برکاتہم

نائب مہتمم دارالعلوم دیوبند

حامدا و مصلیا، و مسلما اما بعد

گرامی قدر حضرت مولانا ثمیر الدین صاحب قاسمی ان موفق بالجیل لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ رب العزت فی خیر اور سعادت کی توفیق ارزانی نصیب فرمائکی ہے، حضرت مولانا ثمیر الدین قاسمی، علمی تعمق، مسلکی تصلب اور مزانِ استقامت کے مالک ہیں، وسیع النظری ان کی فطرت ہے جب کبھی مسلک اہل حق کے خلاف کوئی نظریہ سامنے آتا ہے تو مولانا کا دل مضطرب ہو جاتا ہے، اور ان کا قلم حرکت میں آ جاتا ہے، موجودہ دور میں مسلک اہل حق کے مقابلے میں نت نئے فرقے اور نظریات وجود میں آ گئے ہیں

اس لئے مولانا کا قلم اس کی طرف متوجہ ہوا اور شمرة العقائد، کے نام سے ایک ضخیم کتاب منصہ شہود میں آ گئی، اس کتاب میں نصوص قطعیہ اور احادیث نبویہ سے اہل حق کے تین سو پچاس عقائد (۳۵۰) ثابت کئے گئے ہیں اور ثابت انداز میں تحریر کئے گئے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دگر کتابوں کی طرح یہ بھی قبولیت عامہ حاصل کرے گی، ان شاء اللہ

میں مولانا ثمیر الدین صاحب قاسمی کو مبارک با پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس کو مقبول عام و خاص بنائے، آمین یا رب العالمین  
(مولانا) عبدالخالق مداراسی

، استاد حدیث و نائب مہتمم، دارالعلوم دیوبند۔ ۵ محرم الحرام، ۱۴۲۳ھ

## اس کتاب کو قبولیت عامہ سے نوازے

از:- حضرت مولانا عبدالحالق سنبلی صاحب دامت برکاتہم

نائب مہتمم دارالعلوم دیوبند

حامدا و مصلیا، و مسلما اما بعد

گرامی مرتبہ حضرت مولانا ثمیر الدین قاسمی زید مجدہ، انگلینڈ میں پیٹھ کر مسلک اہل حق اور مسلک دیوبند کی ترجمانی پر کر رہتے ہیں، جب بھی اکابر دیوبند کے نظریات پر گرد پڑتی ہوئی نظر آتی ہے وہ مضطرب ہو جاتے ہیں، اور ان کا قلم جنبش میں آ جاتا ہے، ابھی حال ہی میں مختلف مقابلاتی نظریات و فاسد عقائد کے رد میں مدلل اور عام فہم اسلوب میں نہایت مبسوط، شمرة العقائد، نامی کتاب تصنیف فرمائی ہے، جس میں اہل حق واکابر دیوبند کے ۳۵۰ عقائد مبسوط و مدلل پیش کئے گئے ہیں،

میں ارباب دارالعلوم اور قاسمی برادری کی طرف سے مبارک باد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دیگر کتابوں کی طرح اس کتاب کو بھی محض اپنے فضل و کرم سے قبولیت عامہ تامہ سے سرفراز

فرمائے، آمین یا رب العالمین

(مولانا) عبدالحالق سنبلی

استاد حدیث و نائب مہتمم دارالعلوم دیوبند، ۵ محرم الحرام ۱۴۲۱ھ

## اس کتاب کو عقائد کی درستگی کا ذریعہ بنائے

از:- حضرت مولانا منیر الدین صاحب دامت برکاتہم

استاد دارالعلوم دیوبند

حامدا و مصلیا، و مسلما اما بعد

حضرت اقدس گرامی مرتبت مولانا ثانیمیر الدین قاسمی صاحب زید معاکیم، ان منتخب و چنیدہ فرزندان دارالعلوم میں سے ایک ہیں جس کو مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے علمی تعلق، مسلکی تصلب، اکابر کا ورع و تقوی، سنت نبوی کا اتباع، واقفہ، اور احیاء سنت کا وافر حصہ عطا ہوا ہے۔

چنانچہ جب فسادو بگاڑنے امت مسلمہ کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تو مولانا کا پھر کتا ہوا دل اس طرف مائل ہوا اور عقائد کی درستگی کی فکر کو اپنے اوپر اور ٹھلیا کہ شب و روز ایک کر دیا، کیا دن کی یارات معلوم ہوتا ہے کہ باب عقائد میں نصوص قطعیہ کی طلب اور حجتوں میں ہیں، یہاں تک کہ علماء اہل سنت والجماعت اہل حق اور اکابر دیوبند کے تین سو پچاس عقائد کے مستدلات قطعیہ، صحیح اور صریح کی طلب پر کامیاب ہوجاتے ہیں، اور خوب کامیاب ہوتے ہیں، جس کے نتیج میں ایک مبسوط فہیم، شمرة العقائد، نامی کتاب وجود میں آتی ہے، ثابت اور سہل انداز میں آتی ہے، فالحمد لله علی ذالک۔

یہ عاجز حضرت اقدس مولانا ثانیمیر الدین صاحب قاسمی کو اپنی طرف سے تمام اہل حق اور قاسمی برادری کی طرف سے دل کے نہایت خانے سے تہنیت پیش کرتا ہے، اور دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کتاب کو قبولیت تامہ سے نوازے، اور ملت اسلامیہ میں عقائد کی درستگی کا ذریعہ بنائے، آمین یارب العالمین

(حضرت مولانا) منیر الدین عثمانی نقشبندی، مجددی، استاد دارالعلوم دیوبند ۵ محرم الحرام ۱۴۲۳ھ

قرآن و حدیث کے حوالوں سے بھرپور  
 اس کتاب کی طرح اور کوئی کتاب نظر نہیں آئی  
 از۔ حضرت مولانا مرغوب صاحب لاچپوری، دامت برہم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نوٹ:- حضرت مولانا مرغوب صاحب لاچپوری، ایک جید عالم ہیں، تقریباً ۳۰۰ رسائل کے مصنف ہیں، اور دسیوں کتابیں اسکے قلم سے آچکی ہیں، اور بہت مقبول بھی ہیں، بہت صحیح رائے رکھتے ہیں، اور صحیح مشورہ دیتے ہیں، مجھے یہ کہنے میں جھگج نہیں ہے کہ وہ میرے شاگرد ہیں، لیکن مجھ سے کہیں آگے بڑھ کچے ہیں، اسی لئے میں نے اپنی کتاب انکو صحیح کے لئے دیا، انہوں نے بہت اچھی تجویز کی اور بہت مفید مشوروں سے نوازہ، انہیں کی تجویز کے ساتھ یہ کتاب شائع کی جا رہی ہے۔۔۔ ادارہ

ایمان کی حفاظت کے لئے صحیح عقائد پر مشتمل استاد محترم حضرت مولانا ثمیر الدین قاسمی صاحب مدظلہ نے ایک شخصیم کتاب ”شمرة العقاد“ مرتب فرمائی، مولانا نے اپنی عادات اور اس زمانہ کی ضرورت اور طرز کے مطابق ہر عقیدے کے اثبات پر بطور دلائل قرآن کریم کی آیات اور احادیث نبوی ﷺ کا ایک معتمدہ حصہ جمع فرمادیا، ہر عقیدے کے تحت اولاً آیات قرآنی پھر آپؐ کے ارشادات مع مکمل حوالوں کے ایک عمدہ ترتیب پر لکھے ہیں، جنہیں پڑھ کر ہر صاحب ایمان اپنے عقائد کو درست کر سکتا ہے۔  
 یہ کتاب بہت آسان انداز میں لکھی گئی ہے، اور جن عقائد میں زیادہ خلجان تھے ان میں آیات بہت لائے ہیں، اور احادیث بھی بہت جمع کئے ہیں تاکہ اس عقیدے کے بارے میں تشفی ہو جائے، البتہ جن عقائد میں زیادہ خلجان نہیں تھے ان میں کم آیات لائے ہیں اور کم احادیث پیش کی ہے

حضرت اپنی عادت کے مطابق اشارہ میں بھی کسی پر طنز نہیں کرتے، اور نہ کسی کی بات پیش کر کے اس پر رد کرتے ہیں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو اور کتاب بھی نہ ہو جائے، انہوں نے عقیدہ پیش کیا ہے، اور اس کے لئے آیات اور احادیث پیش کی ہیں، جو امت کی ایک اہم ضرورت ہے

رقم کو الحمد للہ پوری کتاب کے مطالعہ کا شرف حاصل ہوا، ماشاء اللہ ہر طرح اس کو مفید پایا، اگر اہل علم اس کو مطالعہ میں رکھیں اور گاہ گاہ مساجد میں اس کا خلاصہ سناتے رہے تو انشاء اللہ ہمارے عوام کے عقائد بھی درست رہیں گے اور وہ ہر طرح کی گمراہی سے محفوظ رہیں گے۔

عقائد پر اردو زبان میں بہت سی کتابوں کو دیکھنے اور ان کے مطالعہ کی توفیق ہوئی، ان کی افادیت کے اقرار کے باوجود جامعیت اور قرآن و حدیث کے حوالوں سے بھر پور اس کتاب کی طرح اور کوئی کتاب نظر نہیں آئی، واقعی یہ کتاب بہت مفید ہے، والعلم عند الله۔

اللہ تعالیٰ اس کتاب کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اللہ کرے کہ یہ عقائد کی درستگی کا بہترین ہتھیار ثابت ہو، اور مولانا کو دارین میں بہتر اجر عطا فرما کر ذخیرہ آخرت وذریعہ نجات بنائے، آمین۔

كتبہ: (حضرت مولانا) مرغوب احمد لاچپوری

۳۷ ربیعہ ۱۴۳۹ھ مطابق ۲۱ اپریل ۲۰۱۸ء سنپر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## کتاب لکھنے کا مقصد

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم - اما بعد

ایک مرتبہ پچھ طالب آئے اور کہنے لگے کہ، مولانا عقاد ندیں کوئی ایسی کتاب لکھ دیں جو ہم جیسے طالب علموں کو آسانی سے سمجھ میں آجائے، ہم لوگ سنتے ہیں کہ عقاد ند کے لئے نص قطعی چاہئے، یعنی آیت اور صحیح حدیث سے استدلال کیا گیا ہو، اس لئے ایسی کتاب لکھیں جس میں صرف آیت سے اور صحیح حدیث سے عقیدہ ثابت کیا گیا ہو، پھر عام فہم آیات، اور احادیث لائیں جن کو تمام مسلک والے مان لیں، کتاب بہت آسان انداز میں لکھیں جس سے عام طالب بھی سمجھ سکیں، کتاب میں وہ عقاد ند زیادہ ہوں جن کی ضرورت آج کل بہت پڑتی ہے۔

میں بہت دنوں تک اس بات پر غور کرتا رہا، پھر کچھ دنوں کی محنت کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے یہ مجموعہ تیار ہو گیا، اللہ اس کو قبول فرمائے، اس کے تیار کرنے میں، مکتبہ شاملہ سے کافی مدد لی گئی ہے اس کتاب میں طالب علم کی درخواست کی پوری رعایت کی گئی ہے۔ مثلاً، اس میں صرف آیات اور احادیث سے عقاد ند ثابت کئے گئے ہیں، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جس عقیدے میں اختلاف زیادہ تھا، اس میں آیات اور احادیث زیادہ لائی گئی ہیں تاکہ ناظرین کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ اور جن عقاد ند میں زیادہ اختلاف نہیں تھا ان میں حدیثیں، یا آیتیں کمالائی گئیں ہیں، تاکہ کتاب لمبی نہ ہو جائے، اور پڑھنے والے اکتا نہ جائیں

میں علماء کے اقوال، قول صحابی، قول تابعی، اجماع، اور قیاس کو دل سے مانتا ہوں، اور ان کی قدر کرتا

ہوں، لیکن طالب علم کی خواہش یہ تھی کہ زیادہ تر قرآن اور حدیث ہو، اس لئے آیت اور حدیث سے ہی زیادہ تر استدلال کیا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ عقائد کے ثبوت کے لئے نص قطعی چاہئے [یعنی آیت، اور حدیث صحیح چاہئے] اس لئے بھی اسی پر زور دیا ہوں کتاب کو آسان انداز میں لکھتا کہ ہر آدمی پڑھ کے، اور انہیں عقائد کو ترجیح دی جن کی ضرورت آج کل زیادہ پڑتی ہے۔ کتاب میں لفظی بحث نہیں کی تاکہ کتاب لمبی نہ ہو جائے

## خدا کرے کہ سب مل جائیں

آیت اور حدیث پر اس لئے بھی زور دیا کہ یہ اصل ہیں، تمام مسلک والے ان کو مانتے ہیں، سب کے عقائد کی بنیاد بھی یہی قرآن اور احادیث ہیں، اس لئے امید کی جاسکتی ہے کہ ان عقائد پر متفق ہو جائیں اور اختلاف کے یہ توے کم سے کم ہو جائے، اور مسلمانوں میں اتفاق ہو جائے، یا کم سے کم بڑے بڑے عقیدے پر اتفاق کر لیں، اور جزیاتی مسائل کے لئے یہ راستہ کھلا رکھیں کہ ہر مسلک والا اپنے اپنے انداز میں عمل کر لیں

یہ بہت اچھی بات ہو گی کہ سب مسلک والے کم سے کم مسلمانوں کے ملی مسائل کے لئے سال میں ایک مرتبہ جمع ہو جائیں، اس میں ایک دوسرے پر طرفہ کریں، ہنگامہ اور انتشار نہ کریں، بلکہ ملی اور مشترکہ مسائل پر مل کر غور کریں اور سب جمع ہو کر ایک فیصلہ کریں تاکہ حکومت پر زور دینے میں آسانی ہو۔ یہ بہت بڑا الیہ ہے کہ ایک مسلک والا کچھ کہتا ہے، دوسرا کچھ کہتا ہے، اور حکومت انتشار، اختلاف سمجھ کر کسی پر عمل بھی عمل نہیں کرتی، بلکہ ہمیں کمزور سمجھ کر نظر انداز کر دیتی ہے

بس اسی اتفاق کے خاطر اس کتاب کو لکھنے کی سعی کی ہے، خدا کرے کہ ناچیز کا یہ مقصد پورا ہو جائے، اور لوگ مجھے دعا ہمیں دیں۔ آمین یا رب العالمین

دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، جنت، جہنم ان سب کی حقیقت آیت اور حدیث سے ہی معلوم ہوگی، کسی کے کہنے سے نہیں ہوگی، اسی لئے علماء فرماتے ہیں کہ عقیدے کے لئے نص قطعی چاہئے، یعنی آیت اور حدیث ہی چاہئے، میں نے اسی لئے صرف آیتیں اور احادیث جمع کی ہیں، اور انہیں سے سارے عقیدوں میں استدلال کیا ہے

### دل سے معافی مانگتا ہوں

عقائد کا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے، اس بارے میں بہت اختلاف بھی ہے، اور ہر ایک کے دلائل بھی بہت ہیں، اس لئے میرے لئے یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ میں نے سارے عقائد صحیح لکھے ہیں، اور انکے لئے دلائل بھی بالکل صحیح دئے ہیں، بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ اس میں غلطی ہوئی ہوگی، اس لئے اس کتاب میں کسی کو غلطی نظر آئے تو ضرور مجھے اس کی اطلاع دیں۔ اور کسی کو تکلیف ہوئی ہو تو مجھے دل سے معاف کر دیں، میں بہت شکرگزار ہوں گا

اتنا خیال ضرور کھیں کہ آیت کی صراحة سے، یا صحیح حدیث کی صراحة سے کوئی بات ثابت ہوتی ہو، اور میں نے اس کے خلاف لکھ دیا ہے، تو ضرور مجھے اطلاع دیں، کیونکہ آیت، یا صحیح حدیث کے خلاف عقیدہ پیش کر کے مجھے گناہ میں مبتلا نہیں ہونا ہے، اور یہ بوجھ لیکر دنیا سے نہیں جانا ہے ہاں علماء کی رائیں مختلف ہوں تو میں ان کا بھی بہت احترام کرتا ہوں، اور دل سے مانتا ہوں، لیکن اس سے کتاب بھی ہو جائے گی، اس لئے اس کو چھوڑ دیا ہوں

## حضرت عبد اللہ بن عباس کی تفسیر سے حل پیش کیا

آیت کا کوئی لفظ مغلق ہو تو اس کے حل کے لئے حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کی تفسیر، تنویر المقياس، سے اس لفظ کو حل کیا ہے، کیونکہ اس تفسیر کی نسبت کم سے کم ایک عظیم صحابی کی طرف ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ان کی تفسیر کافی صحیح ہوتی ہے، اس لئے دوسری تفاسیر کا مجھے انکار نہیں ہے، لیکن حل کے لئے اسی کا انتخاب کیا گیا ہے۔

آیت کا ترجمہ، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے آسان ترجمہ قرآن سے لیا ہوں۔ اور احادیث کا ترجمہ، مجھے خود کرنا پڑا، کیونکہ احادیث کی تمام کتابوں کے لئے کوئی اردو ترجمہ میسر نہیں تھا

## طز و مزاح سے اختراز کیا ہوں

اس کتاب میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ کسی کا نام نہ آئے تاکہ اس کو بر امعلوم نہ ہو، کسی کے بارے میں اشارہ اور کنایہ بھی نہیں کیا ہوں، تاکہ اس کی توبین نہ ہو اور اختلاف نہ بڑھ جائے، پھر بھی کسی کو بر امعلوم ہو تو دل سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیں۔

## شکریہ

اس کتاب کے لکھنے میں جن حضرات نے مدد کی ہے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں  
خاص طور پر میری اہلیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کہ انہوں نے ہر قسم کی سہولت پہنچائی جس کی بنا پر میں یہ کتاب لکھ سکا۔ اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہانوں میں اس کا ہترین بدلہ عطا فرمائے

حضرت علامہ اختصار صاحب، اور حضرت مولانا عبد الرؤوف صاحب، لاچپوری دامت برکاتہم، کا بھی

خاص شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ہمیشہ میری بہت افزائی کی، اور میری کتاب سے خاص دل چھپی رکھی، اور مفید مشوروں سے نوازتے رہے

حضرت مولانا مرغوب صاحب لاچپوری دامت برکاتہم نے تو میری پوری کتاب کی اصلاح بھی فرمائی، اور اچھی اصلاح فرمائی اس لئے ان کا بھی خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے ان حضرات کو بہترین بدله عطا فرمائے، اور جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین

### میرے لئے دعا فرمادیں

علماء اور صلحاء کی خدمت میں عرض ہے کہ میری آخرت درست ہو جائے، اور اللہ پاک تمام گناہوں کو معاف کر کے، جنت الفردوس عطا کر دے، اس کی دعا کر دیں، میں اس وقت اڑسٹھ سال کا ہو چکا ہوں، بڑھاپے کا وقت ہے، ہاتھ بالکل خالی ہے، پتہ نہیں کب بلا و آجائے، اس لئے جب بھی یاد آئے بشرط سہولت میرے لئے دعا کر دیا کریں، بس اتنی سی گزارش ہے

دعا کا محتاج، احقر ثمیر الدین قاسمی، غفرله، ماچیستر، انگلینڈ، 13 / 2 / 2018

مباہل نمبر 0044 7459131157

ایمیل۔ samiruddinqasmi@gmail.com

# ا۔ اللہ کی ذات

اس عقیدے کے بارے میں 61 آیتیں اور 4 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

اس وقت کچھ لوگ ناستک، بن رہے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، یہ دنیا خود ہی پیدا ہوئی ہے، نہ حساب کتاب ہے، اور نہ قیامت ہے، اس لئے ہم کو اللہ پر یقین کرنے اور اس کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، یہ مصیبت آسمانی تمام مذہب والوں کے لئے ہے، اس لئے میں نے ان آیتوں کو پیش کیا جس سے معلوم ہوا کہ اللہ ہے، اسی نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اور وہی سب کو ختم کرے گا، اور قیامت لائے گا، اور سب کا حساب لیا جائے گا، اور جو ایمان کے ساتھ جائے گا اس کو جنت دی جائے گی، اور جو بغیر ایمان کے مرے گا اس کو جہنم میں داخل کیا جائے

اس کتاب میں میں نے اس پر بھی زور دیا ہے کہ موت، حیات، شفا، بیماری، روزی، بیوی، اولاد، یہ سب چیزیں دینے والا صرف اللہ ہے، اس لئے صرف اسی کی عبادت کرنی چاہئے، اور صرف اسی سے تمام ضروریات مانگنی چاہئے

## اللَّهُ كَذَاتِ نَامٍ، اللَّهُ هُوَ، بَاقِي نَامٍ صَفَاتٍ هُوَ

لفظ، اللہ، اللہ کا ذاتی نام ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی نام ہیں وہ سب صفاتی نام ہیں، یعنی اللہ کی صفت کی وجہ سے وہ نام بنائے، مثلاً رزاق، اس لئے اللہ کا نام ہے کہ اللہ روزی دینے والا ہے۔

اس آیت میں اللہ کا ذاتی نام استعمال ہوا ہے

۱۔ قُلْ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ (آیت ۱۶، سورت الرعد ۱۳)

ترجمہ۔ کہو کہ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ تنہائی ایسا ہے کہ اس کا اقتدار سب پر حاوی ہے۔

۲۔ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ (آیت ۲، سورت الزمر ۳۹)

ترجمہ۔ اللہ پاک ہے، وہ ایک اور زبردست اقتدار کا مالک ہے!

ان دونوں آیتوں میں اللہ کے ذاتی نام استعمال ہوئے ہیں،

ان کے علاوہ اور بہت سی آیتیں ہیں جن میں اللہ کا ذاتی نام استعمال ہوا ہے

## اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا

اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے، اس کی کوئی ابتداء نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی انہتا ہے۔

اس کی دلیل یہ آیت ہے

3۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (آیت ۳، سورۃ الحید: ۵۷) ترجمہ، وہی اللہ اول بھی ہے، اور آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، اور باطن بھی ہے اور وہ ہر چیز کو پوری طرح جانتا ہے

4۔ كُلُّ شَيْءٍ هَالَّكُ إِلَّا وَجْهَهُ۔ (آیت ۸۸، سورۃ القصص ۲۸) ترجمہ۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے

1۔ حدیث میں ہے۔ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، أَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ ﴿۱﴾ (مسلم شریف، باب الدعا عند النوم، ص ۹۷، نمبر: ۶۲۱۳، نمبر: ۶۸۸۹)

ترجمہ۔ اے اللہ آپ ہی اول ہیں، آپ سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، آپ آخر ہیں، آپ کے بعد کچھ نہیں ہے، آپ ظاہر ہیں آپ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، آپ باطن ہیں آپ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ان آیتوں اور حدیث میں ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے۔

## اللہ کی ذات کبھی فنا نہیں ہوگی اور نہ اس کو موت آئے گی

، اللہ کی ذات فنا سے پاک ہے۔ اس کی دلیل یہ آیت ہے۔

۵۔ كُلٌ شَيْءٌ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ۔ (آیت ۸۸، سورت القصص ۲۸)

ترجمہ۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے

۶۔ وَ تَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ (آیت ۵۸، سورت الفرقان ۲۵)

ترجمہ۔ تم اس ذات پر پھر و سر کھو جو زندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں آئے گی

ان آیتوں میں ہے کہ اللہ فنا اور موت سے پاک ہے

## حیات کی چار قسمیں ہیں۔

[۱] ایک اللہ کی حیات ہے، اس میں نہ فنا ہے اور نہ موت ہے، یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی

[۲] حیات دنیوی ۔ یہ انسان اور جانور کی حیات ہے، انکی حیات ایک زمانے میں نہیں تھی، پھر اللہ کے پیدا کرنے سے ہوئی، اور پھر فنا ہو جائے گی، اور موت واقع ہو جائے گی۔

[۳] حیات برزخی ۔ یہ قبر کی حیات ہے، اس کو حیات برزخی کہتے ہیں، یہ مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، اور قیامت تک رہے گی

[۴] جنت اور جہنم کی حیات، یہ حیات جنت اور جہنم میں داخل ہونے کے بعد شروع ہوگی، اور ہمیشہ رہے گی،

ان سب کو حیات، کہتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت میں بہت فرق ہے۔

## اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے

زمین اور آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز اللہ کی ذات، یا اس کی صفات کی طرح نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، اور دنیا کی ساری چیزیں فانی ہیں، اس کی ذات اور صفات کی طرح کوئی چیز کیسے ہو سکتی ہے

اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں، اس کی دلیل یہ آیت ہے

7۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمْعُ الْبَصِيرُ۔ (آیت ۱۱، سورت الشوری ۲۲)

ترجمہ۔ کوئی چیز اللہ کے مثل نہیں ہے، اور وہی ہے جو ہر بات کو سنتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے

8۔ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ۔ (آیت ۲۷، سورت اخلاص ۱۱۲)

ترجمہ۔ اور اللہ کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں ہے

9۔ إِذْ تَأْمُرُونَا أَن نُكَفِّرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلُ لَهُ أَنْدَادًا۔ (آیت ۳۳، سورت سباء ۳۳)

ترجمہ۔ جب تم تاکید کرتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کا معاملہ کریں اور اس کے ساتھ شریک مانیں

10۔ فَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ (آیت ۲۲، سورت البقرة ۲)

ترجمہ۔ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراو جب کتم یہ سب باتیں جانتے ہو

ان آیتوں میں ہے کہ اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے

اللہ کی نہ اولاد ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے

اور نہ اس کے برابر کوئی ہے

اس لئے کسی کو اللہ کے برابر سمجھنا شرک ہے اس سے بہت بچنا چاہئے۔

عیسایوں کا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، لیکن قرآن نے بتایا کہ اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، وہ بے نیاز ہے اس کے لئے آیتیں یہ ہیں۔

11- قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ۔ (آیت ۱-۳، سورت اخلاص ۱۱۲)۔ ترجمہ۔ آپ کہہ دیجئے کہ، اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، نہ کوئی اولاد ہے، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں

12- سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ (آیت ۱-۱، سورت النساء ۲۴) ترجمہ۔ وہ اس بات سے باکل پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔

13- قَالُوا إِنَّا تَسْخَذُ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ (آیت ۲۸، سورت یونس ۱۰)

ترجمہ۔ کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، پاک ہے اس کی ذات وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے

ان آئیوں میں ہے کہ اللہ سے نہ کوئی پیدا ہوا ہے، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، اور نہ اس کا کوئی مثل ہے

اللہ کو نہ نیند آتی ہے، اور نہ نیندا کے مناسب ہے۔

اس کے لئے یہ آیتیں ہیں

۱۴۔ اللہ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخِذْهُ سِنَةٌ وَ لَا نَوْمٌ (آیت ۲۵۵، سورت البقرۃ)

ترجمہ۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو ہمیشہ زندہ ہے، جو پوری کائنات سنبھالے ہوا ہے،  
جس کو نہ کبھی اوگھکتی ہے اور نہ نیند آتی ہے

۲۔ حدیث میں ہے۔ ان الله لا ينام و لا ينبغي له ان ينام۔ (مسلم شریف، باب فی قولہ علیہ  
السلام ان اللہ لا ینام، ج ۹، نمبر ۶۷۳، ۲۲۵)

ترجمہ۔ اللہ سوتا نہیں ہے، اور اس کے لئے نیند مناسب بھی نہیں ہے

اس آیت اور حدیث میں ہے کہ اللہ کو نیند نہیں آتی، اور یہ اس کے لئے مناسب بھی نہیں ہے

## اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے

۱۵۔ الٰم تعلم ان الله علی کل شئیٰ قادر (آیت ۱۰۶، سورۃ البقرۃ ۲)۔

ترجمہ۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے

۱۶۔ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ (آیت

۱۲۰، سورۃ المائدہ ۵)۔ ترجمہ۔ تمام آسمانوں اور زمین اور جوان میں ہیں وہ سب اللہ ہی کی ملکیت میں

ہیں، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے

۱۷۔ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ (آیت ۱۲۸،

سورۃ البقرۃ ۲)۔ ترجمہ تم جہاں بھی ہو گے اللہ تم سب کو اپنے پاس لے آیا گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے

۱۸۔ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ (آیت ۲۸۲،

سورۃ البقرۃ ۲) ترجمہ۔ اللہ جس کو عصاف کر دے گا، اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا،

اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے

۱۹۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ (آیت ۲۹،

سورۃ آل عمران ۳) ترجمہ۔ آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ

ہر چیز پر قادر رکھتا ہے

۲۰۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ (آیت ۱۸۹، سورۃ

آل عمران ۳)

ترجمہ۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت صرف اللہ کی ہے اور اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے

اس طرح ۲۰ آیتوں میں فرمایا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

## اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے

اس کے لئے یہ آیتیں ہیں

۲۱- ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ - (آیت ۱۰۲، سورت الانعام)

(۶)

ترجمہ۔ یہ اللہ ہے جو تم کو پانے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اس لئے اسی کی عبادت کرو۔

۲۲- قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَ هُوَ الْوَاحِدُ الْفَهَّارُ - (آیت ۱۲، سورت الرعد ۱۳)

ترجمہ۔ کہہ دو صرف اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، اور تنہا وہی ہے جن کا اقتدار سب پر حاوی ہے

۲۳- ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ - (آیت ۲۲، سورت غافر ۴۰)

ترجمہ۔ یہ اللہ ہے جو تم کو پانے والا ہے، وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے،

ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے اس لئے اللہ ہی سے اولاد مانگنا چاہئے، کسی پیر یا فقیر سے نہیں مانگنا چاہئے، یہ شرک ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں

## اللہ تمام جہانوں کا مالک ہے

اس کی دلیل یہ آیتیں ہیں

24- وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - (آیت ۱۸۹، سورت آل عمران ۳)

ترجمہ۔ تمام آسمانوں اور زمین کی ملکیت اللہ ہی کے لئے ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے

25- وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا - (آیت ۷، سورت المائدہ ۵)

ترجمہ۔ تمام آسمانوں اور زمین، اور جوان دنوں کے درمیان ہیں اس کی ملکیت اللہ ہی کے لئے ہے،

26- وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (آیت ۱۸، سورت المائدہ ۵)

ترجمہ۔ تمام آسمانوں اور زمین، اور جوان دنوں کے درمیان ہیں اس کی ملکیت اللہ ہی کے لئے ہے، اور اسی کی طرف سب کلوٹ کر جانا ہے

27- سُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلْكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ . (آیت ۸۳، سورت یس ۳۶)

ترجمہ۔ پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ تمام چیزوں کی ملکیت ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ تمام چیزوں کا مالک ہے۔

**حشر کا دن بہت بڑا دن ہے، اللہ اس دن کا بھی مالک ہے**

اس کی دلیل یہ آیتیں ہیں ۔

28۔ مَالِكٌ يَوْمَ الدِّينِ ۔ (آیت ۳، سورت الفاتحہ)

ترجمہ۔ جو بد لے کے دن کا مالک ہے

29۔ قُرْلِهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمٌ يَنْفُخُ فِي الصُّورِ۔ (آیت ۲۷، سورت الانعام ۶۰)

ترجمہ۔ اور جس دن صور پھونکا جائے گا اس دن بادشاہی اسی کی ہوگی

ان آیتوں میں ہے کہ قیامت کے دن کا مالک اللہ ہی ہے

**اللہ جوہر، عرض، جسم اور کیفیت سے پاک ہے،**

اللہ جوہر، عرض، جسم اور کیفیت سے پاک ہے، کیونکہ یہ باتیں مخلوقات کے لئے ہیں، اور اللہ واجب الوجود ہے، اس لئے وہ ان صفات سے پاک ہے -

اس کے لئے یہ آیت ہے

30۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمْعُ الْبَصِيرُ۔ (آیت ۱۱، سورت الشوری ۲۲)

ترجمہ۔ کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے، اور وہی ہے جوہر بات سنتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے  
اس آیت میں ہے کہ اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے

**اللہ تعالیٰ جہت، اور مکان سے پاک ہے**

اس کے لئے آیتیں یہ ہیں

31۔ إِلَّا أَنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ۔ (آیت ۵۷، سورت فصلت ۳۱)

ترجمہ۔ سن لواللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے

32۔ وَ كَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ (آیت ۱۲۶، سورت النساء ۴)

ترجمہ۔ اور اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے

ان آیتوں میں ہے کہ اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اس لئے جہت کو بھی گھیرے ہوا ہے، اس لئے اللہ کے لئے کوئی جہت نہیں ہے۔

## اللہ، ہی ہر قسم کے تعریف کے لاکن ہیں

اس کے لئے یہ آیتیں ہیں

33۔ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَ  
هُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ (آیت ۱، سورت سباء ۳۷)

ترجمہ۔ تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس کی صفت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا

ہے، اور آخرت میں بھی تعریف اسی کی ہے، اور وہی ہے جو حکمت کامال ک ہے مکمل طور پر خبر کرنے والا

34۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَإِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ (آیت ۲۶)  
سورت الحج (۲۲)

ترجمہ۔ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ہے، اور یقین رکھو کہ اللہ، ہی وہ ذات ہے جو  
سب سے بے نیاز ہے بذات خود تعریف کے قابل ہے

35۔ وَاعْلَمُوا إِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ (آیت ۲۷، سورت البقرة ۲)

ترجمہ۔ اور یاد رکھو کہ اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ ہر قسم کی تعریف اسی کی طرف لوٹی ہے

36۔ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ إِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ (آیت ۲۶)  
سورت لقمان (۳۱)

ترجمہ۔ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ہے، اور یقین رکھو کہ اللہ، ہی وہ ذات ہے جو  
سب سے بے نیاز ہے بذات خود تعریف کے قابل ہے  
ان آیتوں میں ہے کہ تمام تعریفیں صرف اللہ، ہی کی ہیں

## اللہ جھوٹ بولنے سے پاک ہے

اس کے لئے یہ آیتیں ہیں

37۔ وَعَدَ اللَّهُ حَقًاً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ (آیت ۱۲۲، سورت النساء ۲)

ترجمہ۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟

38۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ (آیت ۸۷، سورت النساء ۲)

ترجمہ۔ اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ بات کا سچا ہو؟

ان آیتوں میں ہے کہ اللہ سچا ہی سچا ہے، اس میں جھوٹ کا کوئی تصور نہیں ہے

پچھ لوگوں نے یہ منطقی بحث چھیڑ دی ہے کہ جھوٹ بولنا بھی ایک چیز ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو کیا اللہ جھوٹ پر بھی قادر ہے؟، اور بعض لوگوں نے یہ سمجھ کر یہ بھی ایک چیز ہے، اس لئے کہہ دیا کہ اللہ جھوٹ پر بھی قادر ہے، لیکن بولتے نہیں ہیں۔

لیکن یہ بحث بھی منطقی ہے، اور جواب بھی منطقی ہے، صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس میں نقائص کا تصور بھی نہیں ہے، اس لئے جھوٹ ہو یا نقائص کی کوئی اور چیز، اللہ ان تمام سے پاک ہیں۔ یہ تو انسان اور جنات کا خاصہ ہے کہ اس میں اچھائی بھی ہے، اور نقائص بھی ہیں۔

## اللہ ہر چیز کا سنبھالنے والا ہے، اور ہر چیز کو جاننے والا ہے

اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو ہر چیز کو سنبھالنے والی، اور ہر چیز کو جاننے والی ہو۔  
ہندوؤں کا اعتقاد یہ ہے کہ ان کا بت ایکی دعا کو سنتا ہے، اور اس کی حالت کو جانتا ہے، اسی لئے وہ بتون  
کے سامنے اپنی ضرورت پیش کرتے ہیں، اور اس سے حاجت مانگتے ہیں،  
مسلمان کو ایسا ہر گز نہیں کرنا چاہئے، یہ دطلب کرنے میں شرک ہے  
اس کے لئے یہ آیتیں ہیں

39-رَبَّنَا تَقْبِلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ (آیت ۱۲، سورت البقرۃ ۲)

ترجمہ۔ ائے ہمارے رب ہماری خدمت قبول کر لے، صرف تو ہی بہت سنبھالنے والا، بہت جاننے والا ہے

40-قُلْ أَتَأَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَ لَا نَفْعًا وَ اللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ (آیت ۲۷، سورت المائدہ ۵)

ترجمہ۔ ائے پیغمبر ان سے کہو! کہ کیا اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو، جونہ نقصان کا مالک  
ہے، اور نہ نفع کا مالک ہے، صرف اللہ ہی ہر بات کو سنبھالنے والا، اور ہر بات کو جاننے والا ہے

41-قَالَ رَبِّيٌ يَعْلَمُ الْقَوْلُ فِي السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ (آیت ۲۹، سورت  
الانبیاء ۲۱) ترجمہ۔ پیغمبر نے کہا، آسمان اور زمین میں جو کچھ کہا جاتا ہے، میرا رب اس سب کو جانتا ہے،

وہی بہت سنبھالنے والا اور بہت جاننے والا ہے

42-وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ (آیت  
۲۰، سورت غافر ۴۰) ترجمہ۔ اللہ کے علاوہ جس کو تم پکارتے ہو وہ کچھ فیصلہ نہیں کر سکتا، صرف اللہ ہی

بہت سنبھالنے والا بہت جاننے والا ہے

## اللہ کی ذات بلند ہے، اور عظمت والی ہے

اللہ کی ذات بہت بلند ہے، اور بہت عظمت والی ہے، اس کی بڑائی کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، یہ اعتقاد رکھنا چاہئے  
اس کے لئے آیتیں یہ ہیں

وَ لَا يُؤْدِه حِفْظُهُمَا وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ (آیت ۲۵۵، سورت البقرۃ ۲)

ترجمہ۔ اور زمین آسمان دونوں کی نگہبانی سے اللہ کو ذرا بھی بو جھ نہیں ہوتا، اور وہ بہت ہی بلند، اور عظمت والا ہے

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ (آیت ۲۳، سورت الشوری (۲۳

ترجمہ۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور وہ بہت ہی بلند، اور عظمت والا ہے  
وَ أَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ (آیت ۲۲، سورت الحجۃ (۲۲

ترجمہ۔ اور اللہ کے علاوہ جکو بھی تم پکارتے ہو سب باطل ہیں، اور اللہ ہی کی شان اوپنجی ہے، رتبہ بھی بڑا ہے

ان آیتوں میں ہے کہ اللہ کی ذات بہت بلند ہے، اور بہت عظمت والی ہے۔

اس لئے صرف اللہ ہی سے مانگنا چاہئے، اور اسی کی عبادت کرنی چاہئے

## صرف اللہ ہی روزی دینے والا ہے

اس لئے اللہ کے علاوہ کسی سے روزی نہیں مانگنی چاہئے  
ان آیتوں میں اس کی دلیل ہے

46۔ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمُتَّيِّنُ - (آیت ۵۸، سورت الذاریات ۱۵)

ترجمہ۔ یقیناً اللہ ہی روزی دینے والا ہے، مستحکم قوت والا ہے

47۔ أَللَّهُ يَسْطُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدُرُ - (آیت ۲۶، سورت الرعد ۱۳)

ترجمہ۔ جس کے لئے چاہتا ہے اللہ اس کی روزی میں وسعت دے دیتا ہے، اور جس کے لئے چاہتا ہے  
تینگی کر دیتا ہے۔

ان آیتوں میں ہے کہ اللہ ہی روزی دینے والا ہے، کسی اور کو اس کا اختیار نہیں ہے، اس لئے اللہ کے  
علاوہ کسی اور سے روزی نہیں مانگنی چاہئے۔

## اللہ کے علاوہ کسی اور سے روزی نہیں مانگنی چاہئے

بعض غیر مسلموں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے بعض ہستی کو روزی دینے کا مالک بنایا ہے، اس لئے وہ اس کی پوجا کرتے ہیں، اور اس سے روزی مانگتے ہیں، اور انہی حاجت مانگتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ روزی دینے کا مالک خود میں ہوں، میں نے کسی کو روزی دینے کا مالک نہیں بنایا ہے، اس لئے مجھ سے ہی روزی مانگنا چاہئے اس کے لئے یہ آیتیں یہ ہیں۔

48- إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدِ اللَّهِ الرِّزْقَ وَ اَعْبُدُوهُ۔ (آیت ۷۱، سورت العنكبوت ۲۹)

ترجمہ۔ اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتا، اس لئے اللہ ہی کے پاس روزی تلاش کرو، اور اسی کی عبادت کرو

49- يَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ شَيْئًا وَ لَا يَسْطِعُونَ۔ (آیت ۳۷، سورت النحل ۱۶)

ترجمہ۔ اور یہ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین میں سے کسی طرح کے روزی دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور نہ اختیار رکھ سکتی ہے اس آیت میں ہے کہ زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی روزی دینے کا نہ مالک ہے اور نہ وہ روزی دے سکتا ہے۔

اس لئے اللہ کے علاوہ کسی ولی، یا نبی سے، یا پیر، فقیر سے روزی نہیں مانگنی چاہئے

اللہ کے علاوہ کوئی بھی کسی تکلیف کو دور کرنے کی قدرت نہیں رکھتا

اس کے لئے آیتیں یہ ہیں

50۔ وَإِنْ يَمْسِسُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَافِرَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ (آیت ۷۸، سورت الانعام ۶)

ترجمہ۔ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو خود اس کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں ہے

51۔ فَلَا يَمْلِكُونَ كَثْفَ الْضُّرِّ وَ لَا تَحْوِيلًا۔ (آیت ۵۲، سورت الاسراء ۱۷)

ترجمہ۔ جنکو تم نے اللہ کے سوا معبود سمجھ رکھا ہے، وہ تکلیف دور کرنے کے مالک ہیں اور نہ اس کو بدلتے کے مالک ہیں

52۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَ لَا ضَرًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ (آیت ۱۸۸، سورت الاعراف ۷)

ترجمہ۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے لئے نقصان اور نفع کا بھی مالک نہیں ہوں، ہاں اللہ جو چاہے ہے

53۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَ لَا ضَرًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ (آیت ۳۹، سورت یونس ۱۰)

ترجمہ۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے لئے نقصان اور نفع کا بھی مالک نہیں ہوں، ہاں اللہ جو چاہے ہے

جب بھی کوئی خودا نکے لئے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں دیا تو دوسروں کو کون سا اختیار ہو گا

54۔ وَ مَا يُكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكْمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجَارُونَ۔ (آیت ۵۳، سورت انحل ۱۶)

ترجمہ۔ اور تم کو جو نعمت بھی حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی سے فریاد کرتے ہو

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور تکلیف دور نہیں کر سکتا۔

اس لئے کسی اور سے تکلیف دور کرنے کی انجام نہیں کرنی چاہئے

## صرف اللہ ہی بچہ دینے والا ہے

اولاد دینا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لئے کسی اور سے اولاد نہیں مانگنی چاہئے، یا کسی قبر، یا پیر، یا دیوی دیوتا کے پاس اس کو مانگنے نہیں جانا چاہئے  
ان آئیوں میں اس کا ثبوت ہے

55۔ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهُبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهُبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورُ، أَوْ يَرْجِهِمْ ذُكْرًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيِّمٌ قَدِيرٌ۔ (آیت ۵۰، سورت الشوری ۲۲)

ترجمہ۔ سارے آسمانوں اور زمین کی ملکیت اللہ ہی کے لئے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، یا پھر ملا جلا کر لڑکے بھی دیتا ہے، اور لڑکیاں بھی دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، یقیناً وہ جانے والا ہے اور قدرت والا ہے اس آیت میں ہے کہ اللہ ہی اولاد دیتا ہے

56۔ فَلَمَّا أَثْقَلْتُ دَعْوَا اللَّهَ رَبِّهِمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنْكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ هَمَا صَالِحًا جَعَلَاهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمْ، فَتَعَلَّمَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُّشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلُقُونَ، وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسُهُمْ يُنَصَّرُونَ۔ (آیت ۱۹۰، سورت الاعراف ۷)

ترجمہ۔ پھر جب وہ بوجھ ہو گئی تو میاں بیوی دونوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں تدرست اولاد دی تو ہم ضرور بالضرور تیراشکرا دا کریں گے، لیکن جب اللہ نے اس کو ایک تدرست پچ

دے دیا تو ان دونوں نے اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیا، حالانکہ اللہ ان کی مشرکانہ باتوں سے کہیں بلند اور برتر ہے، کیا وہ ایسی چیزوں کو اللہ کے ساتھ خدا نی ہے؟ میں شریک مانتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے بلکہ خود انکو پیدا کیا جاتا ہے؟، اور جونہ ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں

اس آیت میں ہے کہ اللہ ہی اولاد دیتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ دوسری دیوبنی دیوتا نے دیا، یاد دوسرے ولی یاقظیر نے دیا اور اس کی پوجا کرنے لگتا ہے، اور اس کو شریک ٹھہرایتا ہے

57- هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُ كُمْ فِي الْأَرْضِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهٌ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ - (آیت ۶، سورت آل عمران ۳)

ترجمہ۔ صرف خدا ہی ہے جو ماوں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبد نہیں ہے، وہ زبردست قدر تک کامال کہے، اعلیٰ درجے کی حکمت کا بھی مالک ہے 58۔ وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُوْنِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (آیت ۲۰، سورت غافر ۲۰)۔ ترجمہ۔ اور اللہ کو چھوڑ کر جتنا یہ پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے، یقیناً اللہ ہی ہے جو ہر بات کوستتا ہے، سب بچھد کیتھا ہے

ان آیتوں میں ہے کہ اللہ ہی دعا قبول کرنے والے ہیں، اور اللہ ہی اولاد یعنی والے ہیں بعض عورتیں اللہ کے علاوہ سے بچہ مانگتی ہیں، یہ تھیک نہیں ہے، اللہ ہی نے اس عورت کو پیدا کیا ہے، اور اللہ ہی بچہ دے گا، اسی سے مانگنا چاہئے، بعض سادھوایسے موقع پر شرک تک کروالیتا ہے، اور غیروں کی پوجا کروالیتا ہے، اس سے بچنا چاہئے۔

## اللہ ہی شفادیتا ہے

آدمی علاج کر سکتا ہے، لیکن شفادیتے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، اس لئے صرف اللہ ہی سے شفایتے کسی پیر یا ولی کو شفادیتے کا اختیار نہیں ہے، اس لئے ان سے شفائیں مانگنی چاہئے

اس کے لئے آیتیں یہ ہیں -

59- وَإِذَا مَرْضَتُ فَهُوَ يَشْفِيْنَ - (آیت ۸۰، سورت الشعراً ۲۶)

ترجمہ۔ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو صرف وہی مجھے شفادیتا ہے

60- وَإِنْ يَمْسِسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَافِرَ لَهُ إِلَّا هُوَ - (آیت ۷، سورت الانعام ۶)

ترجمہ۔ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو خود اس کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں ہے

61- فَلَا يَمْلِكُونَ كَثُفَ الصُّرُّ وَ لَا تَحْوِيْلًا - (آیت ۵۶، سورت الاسراء ۱۷)

ترجمہ۔ جگو تم نے اللہ کے سوا معبود سمجھ رکھا ہے، نہ وہ تکلیف دور کرنے کے مالک ہیں اور نہ اس کو بد لئے کے مالک ہیں

اس کے لئے احادیث یہ ہیں

3- عن عائشة قالت كأن رسول الله ﷺ إذا اشتكتى منا من انسان مسحه بيمنيه ثم

قال أذهب الباس رب الناس و اشف انت الشافي لا شفاء الا شفائك شفاء لا يغادر

سقما۔ (مسلم شریف، کتاب السلام، باب استحب رقیۃ المیض، ص ۹۷۲، نمبر ۲۱۹۷، ۵۷۰۷)

ترجمہ۔ ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا تو حضور اپنے دائیں ہاتھ سے اس کو چھوٹے، پھر یہ دعا پڑھتے، انسان

کے رب تکلیف کو دور کر دیں، تو ہی شفادینے والا ہے، اس لئے شفادے دے، صرف تیری ہی شفا ہے، ایسی شفا جو بیماری کو نہ چھوڑے۔

4۔ عن عبد العزير قال دخلت أنا و ثابت على أنس بن مالك ، قال ثابت يا أبا حمزة أشتكيث فقال أنس : ألا أرقيك برقية رسول الله ﷺ؟ قال بلى ، قال اللهم رب الناس مذهب الناس ، اشف انت الشافى لا شافى الا انت ، شفاء لا يغادر سقما - (بخاري شریف، باب رقیۃ النبی ﷺ، ص ۱۰۱۲، نمبر ۵۷۲۲)

ترجمہ۔ حضرت عبد العزیز فرماتے ہیں کہ میں اور ثابت حضرت انس بن مالک کے پاس آئے، حضرت ثابت نے کہا ہے ابو الحزمہ میں بیمار ہوں، تو حضرت انسؓ نے فرمایا کہ میں حضورؐ کی توعیذ آپ پر نہ پڑھوں، حضرت ثابتؓ نے فرمایا، ہاں! حضرت انسؓ نے کہا۔ ائے انسانوں کے رب تکلیف دور کرنے والے، شفادے دے، شفادینے والا صرف تو ہی ہے، ایسی شفا جو بیماری کو نہ چھوڑے۔

اس دونوں حدیثوں میں ہے کہ شفاء دینے والی ذات صرف اللہ ہے، اس لئے کسی اور سے شفاء نہیں ممکنی چاہئے،

اس وقت بہت سے لوگ شفاماگنے کے لئے دیوی، دیوتاؤں، اور نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اور وہ چکمادیکر پیسہ بھی لوٹتے ہیں، اور ایمان بھی خراب کرتے ہیں، اس سے پچنا چاہئے

اس عقیدے کے بارے میں 61 آیتیں اور 4 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

## ۲۔ اللہ پر جزا یا سزاد دینا واجب نہیں ہے

اس عقیدے کے بارے میں 15 آیتیں اور 0 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

معزلہ: ایک جماعت تھی اس نے کہا تھا کہ اللہ پر بدلہ دینا واجب ہے لیکن اہل سنت والجماعت کا نہ ہب یہ ہے کہ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، ہر چیز اس کی مرضی پر ہے۔ اس کے لئے آیتیں یہ ہیں

۱۔ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ (آیت ۲۸۲، سورت البقرۃ ۲) ترجمہ۔ پھر جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، اور جس کو چاہے گا سزادے گا، اور اللہ ہر چیز پر

قدرت رکھتا ہے

۲۔ فَيُضْلِلُ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ (آیت ۳۲، سورت ابراہیم ۱۳) ترجمہ۔ پھر اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔

۳۔ إِنَّ اللَّهَ يَفْعُلُ مَا يُوِيدُ۔ (آیت ۱۳، سورت الحج ۲۲)

ترجمہ۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے

۴۔ وَ يَفْعُلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ (آیت ۲۷، سورت ابراہیم ۱۳)

ترجمہ۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے

ان آیتوں میں ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس پر کسی چیز کا کرنا واجب نہیں ہے

## اللہ جو کچھ دے وہ اس کا فضل ہے

کسی چیز کو دینا اللہ پر واجب نہیں ہے، وہ جس کو جو کچھ دے وہ اس کا فضل ہے  
اس کے لئے آیتیں یہ ہیں -

۵۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُوتِيْهِ مَنْ يَشَاءُ، وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ (آیت ۲۱، سورت الحمد) (۵۷)

ترجمہ۔ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے

۶۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُوتِيْهِ مَنْ يَشَاءُ، وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ۔ (آیت ۲۹، سورت الجمعہ) (۵۸)

ترجمہ۔ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے

۷۔ وَإِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُوتِيْهِ مَنْ يَشَاءُ، وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ (آیت ۲۹، سورت الحمد) (۵۹)

- ترجمہ۔ اور یقیناً تمام فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کامال ک ہے

۸۔ وَ اللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ - (آیت ۱۰۵، سورت البقرة)

(۲)۔ ترجمہ۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لئے مخصوص کر لیتا ہے، اور اللہ عظیم فضل کامال ک ہے

ان آیتوں میں ہے کہ جو کچھ اللہ دیتا ہے وہ اس کا فضل ہے، اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے

## اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ خیر اور شر سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔

پچھلے زمانے میں کچھ لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ شر کا کام اچھا نہیں ہے، اس لئے وہ شر کے پیدا کرنے کی نسبت اللہ کی طرف کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ شر کا پیدا کرنے والا شیطان ہے۔ لیکن چونکہ آیت میں ہے کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ پاک ہے، اس لئے یہی عقیدہ صحیح ہے کہ خیر اور شر دونوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اور بندے کو جو ثواب یا عذاب ہوتا ہے وہ اس کے کسب یعنی اس کام کو کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے

اس کے لئے یہ آیتیں ہیں

۹۔ اللہ خالقُ كُلِّ شَيْءٍ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَ كَبِيلٌ۔ (آیت ۲۲، سورت الزمر ۳۹)

ترجمہ۔ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہی ہر چیز کا رکھوا لا ہے

۱۰۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ۔ (آیت ۲۲، سورت غافر ۴۰)

ترجمہ۔ یہ تمہارا رب ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے

۱۱۔ قُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ (آیت ۸۷، سورت النساء ۲)

ترجمہ۔ کہو ہر چیز اللہ ہی کے پاس سے ہے

ان آیتوں سے ثابت ہوا کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔

البَتَهْ بَنْدَهْ شَرْ كَامْ كَرْتَهْ تَوَالِلَهْ دَسْ سَرَاضِيْ نَهِيْسْ هَوتَاهْ  
، او رَخِيرْ كَامْ كَرْتَهْ تَوَالِلَهْ دَسْ سَرَاضِيْ هَوتَاهْ ۔

ہے سب کام اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا، البته نیک کام کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور برعکس کام کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوتے  
اس کے لئے آیتیں یہ ہیں

12۔ وَ لَا يَرْضِي لِعِبَادِهِ الْكُفُرُ (آیت ۷، سورۃ الزمر ۳۹)

ترجمہ۔ اللہ اپنے بندوں کے لئے کفر پسند نہیں کرتا  
اس آیت میں ہے کہ اللہ کفر سے راضی نہیں ہوتے

13۔ وَ إِنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ (آیت ۱۹ سورۃ النمل ۲۷)

ترجمہ۔ اور وہ نیک عمل کروں جس سے آپ راضی ہوتے ہیں

14۔ وَ إِنْ أَغْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ ۔ (آیت ۱۵، سورۃ الاحقاف ۲۶)

ترجمہ۔ اور وہ نیک عمل کروں جس سے آپ راضی ہوتے ہیں

ان دونوں آیتوں میں ہے کہ نیک اعمال سے اللہ راضی ہوتے ہیں

## اللہ کی تمام صفات ازلی اور ابدی ہیں

پچھلے زمانے میں ایک بحث رہی ہے کہ، مثلاً پیدا کرنے سے پہلے اللہ خالق ہے یا نہیں تو اس بارے میں یہ ہے کہ اللہ کی تمام صفات ازلی اور ابدی ہیں، یعنی جب تک کائنات کو پیدا نہیں کیا تھا اس وقت بھی اللہ خالقیت، اور راز قیمت کے ساتھ متصف تھا، اور پیدا کرنے کے بعد بھی وہ اسی صفت کے ساتھ متصف ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں آتی ہے۔ اور جب اس کائنات کو ختم کر دیں گے اس وقت بھی اللہ خالق رہے گا اس میں کوئی کمی نہیں آئیگی، کیونکہ اللہ کی تمام صفات ابدی ہیں

15- إِنَّ ذَالِكَ لَمُحْيٰ الْمَوْتَىٰ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ (آیت ۵۰، سورت الروم)

ترجمہ۔ یقیناً وہ اللہ مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اللہ نے مردوں کو ابھی زندہ نہیں کیا ہے، بلکہ قیامت میں زندہ کریں گے، پھر بھی ابھی سے اللہ کو مردوں کو زندہ کرنے والا کہا جاتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ زندہ کرنے سے پہلے بھی وہ زندہ کرنے کی صفت رکھتے ہیں۔ اسی طرح تمام صفات کا حال ہے۔

اس عقیدے کے بارے میں 15 آیتیں اور 0 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

## ۳۔ دھریوں کو خداماں لینا چاہئے

اس کے 7 دلائل ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ موجود نہیں ہے، یہ کائنات خود پیدا ہوئی، اور خود ختم ہو جائے گی، اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، اسی کو دھریہ کہتے ہیں، اسی کونا ستک، کہتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ ہم نے خدا کو کبھی نہیں دیکھا اس لئے وہ موجود نہیں ہے

### اس کا جواب یہ ہے کہ

1۔۔۔ ان آنکھوں سے خدا کو دیکھ بھی نہیں سکتے، وہ واجب الوجود ہے، وہ دنیا کی چیز کی طرح نہیں ہے کہ ہم ان آنکھوں سے دیکھ لیں، ہاں آخرت میں مومن کے لئے ایسی آنکھ پیدا کرو دی جائے گی جس سے وہ اللہ کو دیکھ سکے گا، دنیا میں یہ بات ممکن نہیں ہے اللہ کی ذات ستر ہزار نور کے پردے میں ہے اس لئے اس کو کیسے دیکھ سکو گے، خود حضور نے معراج کی رات کے بارے میں فرمایا۔ نور انی اراہ کہ وہ تو نور ہے اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے اس کے لئے حدیث یہ ہے

عن ابی ذر قال سأله رسول الله ﷺ هل رأيت ربک ؟ قال نور انی اراہ ؟ (—)

مسلم شریف، کتاب الایمان، باب قوله عليه السلام نور اُنی اراہ، ص ۶۱، نمبر ۸۷/۲۲۳) ترجمہ۔ حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ، میں نے حضورؐ سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو فرمایا کہ، وہ تو نور ہے، اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں

2۔۔۔ دنیا میں اللہ کا پیدا کیا ہوا سورج کو دو پھر میں نہیں دیکھ سکتا جس میں بہت ہی ادنی سانور ہے، تو اللہ کی ذات جو نور ہی نور ہے اس کو ہماری آنکھیں کیسے دیکھ سکتی ہیں

## اللہ کی ذات کو کیوں نہیں مانیں

3۔۔۔ دنیا میں کھربوں آدمی ہیں، ہر ایک کا چہرہ بالکل الگ الگ ہے، بلکہ ایک ماں باپ کے دو بچے ہیں تو دونوں کے چہرے بالکل الگ الگ ہوتے ہیں، یہ الگ الگ چہرہ کس ذات کی وجہ سے ہے، جس ذات کی وجہ سے یہ الگ الگ چہرہ ہے اسی ذات کا نام خدا ہے، قرآن میں اسی کو، رب العالمین کہا ہے۔

اس کے لئے آیت یہ ہے۔ **الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ**۔ (سورت الفاتحہ، آیت ۱) ترجمہ۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے اس آیت میں ہے کہ اللہ پوری دنیا کو پالنے رہتے ہیں

جب یہ بات طے ہے کہ ہر ایک کا چہرہ الگ الگ ہے تو یہ بھی ماننا پرے گا کہ ان چہروں کو الگ الگ کرنے والی جو ذات ہے اسی کو خدا کہتے ہیں

## آپ خود مر کر دکھلائیں

4۔۔۔ دہر یہ کہتے ہیں ہم خود پیدا ہوئے، اگر ایسی ہی بات ہے کہ آپ خود پیدا ہوئے ہیں تو آپ ذرا خود مر کے دکھلائیں، آپ کے اختیار میں مرنा ہے پھر بھی آپ خود نہیں سکتے تو خود پیدا کیسے ہو گئے،

## آپ جوان رہ کر دکھلائیں

5۔۔۔ دہر یہ خود یہ چاہتے ہیں کہ میں جوان رہوں اور اس کے لئے وہ خوب نہیں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جو چیز [جو ذات] اس کو بوڑھا کرتی جاتی ہے، اور ہاتھ پاؤں کو ناکارہ کرتی جاتی ہے، اسی ذات کا نام خدا ہے۔ قرآن میں ہے۔

وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِدُ إِلَى أَرْزَلِ الْعُمُرِ لَكُمْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا۔ (آیت ۰۷، سورت الحلق ۱۶)  
ترجمہ۔ اور تم میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو عمر کے سب سے ناکارہ حصے تک پہنچا دیا جاتا ہے، جس میں پہنچ کر وہ سب کچھ جانے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتا، بینک اللہ بڑے علم والا اور بڑی قدرت والا ہے

اگر آپ خود پیدا ہوئے ہیں تو نوے سال تک جوان رہ کر دکھلائیں، اگر نہیں کر سکتے تو جو ذات تمہیں بوڑھا کر رہی اسی ذات کا نام خدا ہے، اس لئے خدا کو مان لیں

## آپ سوا سوال تک زندہ رہ کر ہی دکھلادیں

6۔۔۔ دہر یہ زیادہ ہی زندہ رہنا چاہتے ہیں، اگر یہ خود پیدا ہوئے ہیں، تو چلو سوال سال ہی زندہ رہ کر

دھلامیں، اگر یہ خود پیدا ہوئے ہیں تو اس کو خود زندہ بھی رہنا چاہئے، لیکن جو ذات اس کو مارتی ہے اسی ذات کا نام خدا ہے،

حضرت برائیم علیہ السلام نے اللہ کی ذات کو متعارف کرانے کے لئے ہی کہا تھا، آیت یہ ہے

إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحِبُّ وَيُمِيُّثُ۔ (آیت ۲۵۸، سورت البقرۃ ۲)

ترجمہ۔ جب ابراہیم نے کہا کہ: میرا رب وہ جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے پس جو ذات آپ کو مار رہی ہے اسی ذات کا نام خدا ہے، اور اسی ذات نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے

## جو ذات مارے گی اسی کا نام خدا ہے

7۔۔۔ قرآن اور حدیث کی رہنمائی تو ہے ہی، لیکن ہم لوگ جو خدامانتے ہیں وہ اسی لئے مانتے ہیں کہ وہ ایک دن ہمیں مارے گا، اور جو ذات مارے گی وہی پیدا کرنے والی بھی ہے، اور جب دونوں باقیں بالکل سامنے ہیں جن کا آپ انکار نہیں کر سکتے، تو اس سے یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ قیامت بھی ہے اور جنت اور جہنم بھی ہیں۔۔۔ اس کے لئے لمبی چوڑی دلائل دینے کی ضرورت نہیں

## آپ مان لیں کہ پیدا کرنے والا خدا ہے

اس لئے اب مان لیں کہ آپ کو پیدا کرنے والا خدا ہے، اور اس کے سامنے یہ معافی مانگیں کہ اے مارنے والے خدا مجھے معاف کر دے، اور مجھے جنت دے دے، اگر دل سے یہ کہا، اور اسی پر موت ہوئی تو ممکن ہے کہ اللہ آپ کو معاف کر دیں گے

## ۳۔ رویت باری

اللہ کو دیکھنا

اس عقیدے کے بارے میں 5 آیتیں اور 10 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

معراج کی رات میں حضور ﷺ نے اللہ کو دیکھا یا نہیں اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے

- 1۔۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ حضور ﷺ نے اللہ کو نہیں دیکھا
- 2۔۔ دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ اللہ کو دیکھا ہے لیکن اس کے نور کو دیکھا ہے۔ بہر حال دیکھا ضرور ہے۔ اکثر حضرات کی رائے یہی ہے
- 3۔۔ تیسرا جماعت یہ کہتی ہے کہ، اوپر سے سرسری دیکھا ہے، اندر کی حالت کو نہیں دیکھا، اور وہ دیکھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کی ذات لا مثیہ ہے
- 4۔۔ چوتھی جماعت یہ کہتی ہے کہ اللہ کو دل سے دیکھا ہے

البته سب نے یہ بات ضرور کہی کہ آخرت میں مومن اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے

## ہر ایک کی دلائل یہ ہیں

پہلی جماعت۔ جن حضرات نے کہا کہ اللہ کو نہیں دیکھا  
ان کی دلائل یہ ہیں

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی فرمائش کی تو اللہ نے کہا کہ اس پہاڑ کو دیکھو، یعنی طور پہاڑ کو دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہر گیا تو تم مجھے دیکھ سکو گے، اور اگر وہ اپنی جگہ پر نہیں ٹھہر ا تو تم دنیا میں مجھے نہیں دیکھ سکو گے، اللہ نے جب پہاڑ پر تجھی فرمایا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے جس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ناممکن ہے، کیونکہ دنیا میں ہماری آنکھیں ایسی نہیں ہیں کہ اللہ کو دیکھ سکیں۔

اس کے لئے آیتیں یہ ہیں

۱- قَالَ رَبِّيْ أَرِنِيْ أُنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِيْ، وَ لَكِنْ أُنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقْرَرْ  
مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِيْ، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّاً وَ خَرَّ مُؤْسِيَ صَعِقاً۔ (آیت  
۱۲۳، سورت الاعراف ۷)

ترجمہ۔ میرے رب مجھے دیدار کرا دیجئے کہ میں آپ کو دیکھ لوں، فرمایا! تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے،  
ابتنہ پہاڑ کی طرف نظر اٹھاؤ، اس کے بعد اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے، پھر جب انکے  
رب نے پہاڑ پر تجھی فرمائی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گرپڑے  
اس آیت میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ کو نہیں دیکھا، اس لئے دنیا میں ان آنکھوں کے ساتھ اللہ کو  
دیکھنا ممکن نہیں ہے، ہاں آخرت میں دیدار ہو گی۔

۲- لَا تُدِرِّكُ الْأَبْصَارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ [آیت ۱۰۳، سورت

الانعام ۶۹]

ترجمہ۔ نگاہِ اللہ کو نہیں پاسکتیں، اور وہ تمام نگاہوں کو پالیتا ہے، اس کی ذات بہت لطیف ہے، اور وہ بہت باخبر ہے۔

اس آیت میں ہے کہ نگاہِ اللہ کو نہیں پاسکتی، اس لئے اللہ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتی ہے۔

۳- وَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ [آیت ۵۱، سورت الشوری

(۲۸۵۵ نمبر، ص ۵۳، سورت النجم، ۸۲۰)

ترجمہ۔ کسی انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ اس سے رو برو بات کرے، سوائے اس کے کو وہ وحی کے ذریعہ ہو، یا کسی پر دے کے پیچھے سے بات کرے۔

اس آیت میں ہے کہ اللہ دنیا میں کسی آدمی سے وحی کے واسطے سے بات کرتے ہیں، یا حجاب میں بات کرتے ہیں، اس لئے کچھ حضرات کا یہ کہنا ہے کہ معراج کی رات میں حضور نے حجاب ہی میں اللہ سے بات کی ہیں، اللہ کو آنکھوں سے نہیں دیکھا۔

حضرت عائشہؓ کا موقف یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔

احادیث یہ ہیں

۱- عن مسروق قال : قلت لعائشةؓ يا امته هل رأى محمد ﷺ ربه ؟ فقالت لقد قف شعرى مما قلت ، اين انت من ثلاث ، من حدثكمن فقد كذب ؟ من حدثك ان محمدا ﷺ رأى ربه فقد كذب ، ثم قرأت ﴿ لَا تدرِكُ الْأَبْصَارُ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ (سخاری شریف، کتاب الفیر، سورت الانعام ۶۹) [آیت ۱۰۳]

سورت الحجّم، ص ۵۳، ح ۸۶۰، نمبر ۳۸۵۵)

-ترجمہ۔ حضرت مسروق نے کہا کہ، میں نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا کہ، ائے اماں، کیا حضورؐ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ، تمہاری بات سے تو میرے روگنگے کھڑے ہو گئے، یہ تین باتیں تمہیں پہنچیں ہے! ان تینوں باتوں کے بارے میں کوئی بات کرے تو یہ جھوٹ ہے، جو یہ کہے کہ محمدؐ نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو یہ جھوٹ ہے، پھر یہ آیت پڑھی، ﴿لَا تُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾، ترجمہ، نگاہیں اللہ کو نہیں پاسکتیں، اور وہ تمام نگاہوں کو پالیتا ہے، اس کی ذات اتنی ہی لطیف ہے، اور وہ اتنا ہی باخبر ہے اس حدیث میں ہے کہ حضورؐ نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے۔

2- عن مسروق ... يا ام المؤمنين أنظرني و لا تعجليني . ألم يقل الله تعالى ﴿ وَ لَقَدْ رَأَهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ (آیت ۲۳، سورت الحوریا ۸۱) ﴾ وَ لَقَدْ رَأَهُ نَزْلَةً أُخْرَى (آیت ۱۳، سورت الحجّم ۵۳) ، فقالت انا اول هذه الامة سأل عن ذالك رسول الله ﷺ فقال انما هو جبريل عليه السلام . لم اراه على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء الى الارض - (مسلم شریف، کتاب الایمان، باب معنی قول اللہ عز و جل، ولقدر ما نزلتة اخري، و حل رأی النبی رب لیلۃ الاسراء ص ۹۰، نمبر ۱۷/ ۳۳۹)

-ترجمہ۔ حضرت مسروق نے کہا، ام المؤمنین مجھے مہلت دیں اور جلدی نہ کریں، کیا اللہ تعالیٰ نہیں کہا ﴿ وَ لَقَدْ رَأَهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ﴾ اور ﴿ وَ لَقَدْ رَأَهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾ کہ حضورؐ نے افق الممین پر دیکھا، اور اس کو دوسرا مرتبہ دیکھا۔ تو حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ اس امت کا میں پہلا آدمی ہوں جس نے

حضورؐ کو اس بارے میں پوچھا، تو حضورؐ نے فرمایا کہ، وہ جبریلؐ کو دیکھا ہے، ان دو مرتبوں کے علاوہ میں نے جبریلؐ کو اپنی اصلی صورت پر نہیں دیکھی ہے، میں انکو دیکھا کہ وہ آسمان سے اتر رہے ہیں، اور انکی خلقت نے زمین اور آسمان کے درمیانی حصے کو بھر دیا ہے۔ اس آیت میں حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ، وَ لَقَدْ رَأَهُ بِالْأُفْقِ الْمُبِينِ، اور، وَ لَقَدْ رَأَهُ نَزْلَةً أُخْرَى، میں جو دیکھنے کا تذکرہ ہے وہ اللہ کو دیکھنا نہیں ہے، بلکہ حضورؐ نے حضرت جبرايلؐ کو انکی اصلی حالت میں دو مرتبہ دیکھا ہے۔

اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہوا کہ حضورؐ نے دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھا ہے۔

3- عن ابی ذر قال سألت رسول الله ﷺ هل رأيت ربک ؟ قال نور أنى أراه ؟ - (مسلم شریف، کتاب الایمان، باب قولہ علیہ السلام نور اني اراه، ص ۹۱، نمبر ۲۲۳)

ترجمہ۔ حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضورؐ سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو فرمایا کہ، وہ تو نور ہے، اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں اس حدیث میں ہے کہ۔ حضورؐ سے پوچھا گیا کہ معراج کی رات میں آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا جواب نور ہے [اس لئے اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے۔]

4- عن ابی موسی قال قام فینا رسول الله ﷺ بخمس كلمات .... حجابه نور . و فی روایة ابی بکر ، النار . لو کشفه لا حرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه۔ (مسلم شریف، کتاب الایمان، باب قولہ علیہ السلام ان اللہ لایمان، ص ۹۱، نمبر ۲۲۵)

ترجمہ۔ حضورؐ ہمارے درمیان پانچ کلمات لیکر کھڑے ہوئے۔۔۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حجاب نور

ہے، اور ابو بکر کی روایت میں ہے کہ، نار، ہے، اگر اس کو لوگوں کے سامنے کھول دے تو اس کے چہرے کی چمک سے جہاں تک نظر جائے گی وہاں جل کر راکھ ہو جائے گی ان تینوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پر نور کا حجاب ہے، اس لئے دنیا میں اس کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔

### 2- دوسری جماعت

دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ اللہ کو دیکھا ہے لیکن اس کے نور کو دیکھا ہے۔ بہر حال دیکھا ضرور ہے۔ اکثر حضرات کی رائے یہی ہے ان کی دلیل یہ حدیث ہے

5- قلت لابی ذر .... قال كثُرَسْأَلَهُ: هَلْ رَأَيْتَ رَبَكَ؟ قَالَ أَبُو ذِرٍّ: قَدْ سَأَلْتَهُ فَقَالَ رَأَيْتُ نُورًا۔ (مسلم شریف، کتاب الایمان، باب قول علیہ السلام نور اپنی ارادہ، ص ۹۱، نمبر ۸۷۱) (۲۲۳)

ترجمہ۔ میں نے حضرت ابوذر سے پوچھا۔۔۔ میں نے حضورؐ سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا، تو حضورؐ نے فرمایا کہ، کہ میں نے نور دیکھا۔ اس حدیث میں ہے کہ میں نے اللہ کے نور کو دیکھا ہے

### 3- تیسرا جماعت

تیسرا جماعت یہ کہتی ہے کہ، اوپر سے سرسری دیکھا ہے، اندر کی حالت کو نہیں دیکھا، اور وہ دیکھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کی ذات لا مثی ہے

ان کی دلیل یہ قول صحابی ہے

6۔ قال سمعت عکرمة يقول سمعت ابن عباس يقول ان محمدا ﷺ رای ربه عز و جل۔ (سنن کبری للنسائی، باب قول تعالیٰ ما کذب الغواد و مارای، ج ۱۰، ص ۲۷۶، نمبر ۱۱۲۷۳، ۲۷ نومبر ۱۱۲۹) طبرانی کبیر، باب عکرمة عن ابن عباس، ج ۱۱، ص ۲۳۲، نمبر ۱۱۲۹

ترجمہ۔ حضرت عکرمه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے کہتے ہوئے سن ہے کہ، محمد ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا ہے لیکن آیت میں ہے کہ اللہ کو نگاہیں نہیں پاسکتیں [لاترکہ الا بصار] اس لئے یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کو ظاہری طور پر سرسری دیکھا ہے

4۔ چوتھی جماعت یہ ہے کہ اللہ کو دل سے دیکھا ہے

7۔ عن یوسف بن مهران عن ابن عباس . ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ [سورت النجم، ۵۳] آیت ۱۱) قال رای ربه عز و جل بفوادہ۔ (طبرانی کبیر، باب یوسف بن مهران عن ابن عباس، ج ۱۲، ص ۲۱۹، نمبر ۱۲۹۳)

ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ جو آیت ہے اس کے بارے میں حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ، حضورؐ نے اپنے رب کو دل سے دیکھا ہے۔ اس قول صحابی میں ہے کہ حضورؐ نے اللہ کو دل سے دیکھا ہے

## مومن آخرت میں اللہ کو دیکھیں گے

پچھلے زمانے میں جہیہ فرقے نے آخرت میں بھی اللہ کو دیکھنے کا انکار کیا تھا، اس زمانے میں اس پر اتفاق ہو گیا ہے کہ اللہ کی رویت ہو گی۔

آخرت میں اللہ ایسی آنکھ پیدا کر دیں گے کہ مومن اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے۔  
اس کے لئے آپتین یہ ہیں

4۔ وَجُوهٌ يَوْمَئِنِ نَاصِرَةً إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً۔ (آیت ۲۳، سورت القیامت ۷۵)

ترجمہ۔ قیامت کے دن بہت سے چہرے شاداب ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے

8۔ ان ابا هریرۃ اخبرہ ان ناسا قالوا الرسول الله ﷺ یا رسول الله هل نری ربنا یوم القيامة... هل تضارون فی الشّمْسِ لیس دونها سحاب؟ قالوا لا، یا رسول الله! قال فانکم ترونہ کذالک۔ (مسلم شریف، کتاب الایمان، باب اثبات رویۃ المؤمنین فی الآخرة ربہم، ص ۹۲، نمبر ۱۸۲/۱۸۲، ابن ماجہ شریف، باب فیما انکرت الْجَمِیْمَیَّة، ص ۲۷، نمبر ۱۷۸)

ترجمہ۔ کچھ لوگوں نے حضورؐ سے سوال کیا، کہ کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بادل نہ ہو تو سورج کو دیکھنے میں کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ لوگوں نے کہا: یا رسول اللہ نہیں، حضورؐ نے فرمایا، بس ایسے ہی تم بغیر پریشانی کے اللہ کو دیکھو گے۔

اس آیت اور حدیث میں ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو گا

9- عن صحیب قال تلا رسول الله ﷺ هذه الآية ﴿لِّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَ زِيَادَةً﴾ [آیت ۲۶، سورت یونس ۱۰] و قال اذا دخل اهل الجنة و اهل النار نادى مناد يا اهل الجنة ان لكم عند الله موعدا ي يريد ان ينجز كموه ، فيقولون و ما هو؟ الم يشقل الله موازیننا و يبیض و جوهنا و يدخلنا الجنة و ينجينا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون اليه فوالله ما اعطاه الله شيئا احب اليهم من النظر يعني اليه . و لا اقر لاعینهم - (ابن ماجہ شریف، کتاب مقدمة، باب فیما انکرت الچمیة، ص ۲۸، نمبر ۱۸۷ مسلم شریف، کتاب الایمان، باب اثبات رویۃ المؤمنین فی الآخرة ربهم، ص ۹۲، نمبر ۱۸۱) ترجمہ۔ حضرت صحیبؓ نے فرمایا کہ حضورؐ نے یہ آیت تلاوت کی، ﴿لِّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَ زِيَادَةً﴾، ترجمہ۔ جس نے اچھا کام کیا، اس کے لئے حسنی، بہتری ہوگی، اور پکھزادہ بھی ملگی، اس کے بارے میں حضورؐ نے فرمایا کہ جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جہنم والے جہنم میں داخل ہو جائیں گے، تو ایک پکارنے والا پکارے گا، آئے جنت والو! اللہ کے پاس تمہارا ایک وعدہ ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ تم کو اس کا بدلہ دے دیں، تو لوگ پوچھیں گے وہ کیا ہے، اللہ نے ہمارے وزن کو بھاری نہیں کر دیا، اور ہمارے چہرے کو شاداب کیا، اور ہم کو جنت میں داخل کیا، جہنم سے چھٹکارا دیا [اس سے زیادہ اور کیا دیں گے]، تو اللہ حجاب اٹھائیں گے گے، پھر لوگ اللہ کی طرف پیکھیں گے، خدا کی قسم اللہ نے جتنا ان لوگوں کو نعمت دی تھی، اللہ کو دیکھنا ان سب سے بہتر ہو گا، اور ان کی آنکھوں کے لئے سب سے زیادہ ٹھنڈک والی چیز ہو گی۔

10- ان ابا هریرۃ اخبرہما .... قال فهل تمارون فی رویۃ الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا قال فانکم ترونہ کذالک - (بخاری شریف، کتاب الاذان، باب فضل

(السجود، ص ۱۳۰، نمبر ۸۰۶)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ بادل نہ ہو تو سورج کو دیکھنے میں کوئی شک ہوتا ہے، لوگوں نے کہا نہیں! حضورؐ نے فرمایا کہ تم اسی طرح بغیر شک کے اللہ کو دیکھو گے۔

جمیع فرقے نے کہا تھا کہ آخرت میں بھی اللہ کا دیدار نہیں ہوگا

ان کی دلیل یہ آیت ہے

۵۔ ﴿ لَا تُدِرِّكُهُ الْأَبْصَارُ وَ هُوَ يُدِرِّكُ الْأَبْصَارَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَيِّرُ ﴾ [آیت ۱۰۳]

سورت الانعام ﴿ ۲ ﴾

ترجمہ۔ نگاہیں اس کو نہیں پاسکتیں، اور وہ تمام نگاہوں کو پالیتا ہے، اس کی ذات اتنی ہی لطیف ہے، اور وہ اتنا ہی باخبر ہے

اس آیت میں ہے کہ نگاہ اللہ کو نہیں پاسکتی، جس سے انہوں نے استدلال کیا ہے کہ ہم آخرت میں بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکیں گے

جب ہمارے نے اس آیت کا جواب یہ دیا ہے کہ درک کا معنی ہے پورے طور پر گھیرنا، ہماری آنکھیں اللہ کی ذات کو گھیرنے میں سکتی، صرف دیکھ سکتی ہے، اور اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جنت میں بھی ہم اللہ کو دیکھیں گے، لیکن اس کو احاطہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ یہ ناممکن ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ کو آخرت میں دیکھنے ہی نہیں پائیں گے۔

اس عقیدے کے بارے میں 5 آیتیں اور 10 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

## ۵۔ حضور ﷺ کو 10 بڑی بڑی

### فضیلیتیں دی گئیں ہیں

اس عقیدے کے بارے میں 12 آیتیں اور 16 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

حضورؐ کے لئے تو بہت سی فضیلیتیں ہیں جو کسی اور نبی اور رسول کو نہیں دی گئیں ہیں لیکن یہاں 10 بڑی بڑی فضیلیتیں ذکر کی جا رہی ہیں، تاکہ یہ اندازہ ہو کہ حضورؐ کا مقام کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں آپ کی فضیلیتیں سب سے زیادہ ہیں، اور اللہ کے بعد سب سے بڑی شخصیت آپ ہی کی ہے

بعد ازا خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

ع

كشف الدُّجى بِ جماليه	بلغ العُلَى بِ كماله
صلو علیہ و آلہ	حسنٌ جمیع خصالہ

ترجمہ۔ اپنے کمال میں آپ بلندی تک پہنچ گئے۔ اپنی خوبصورتی سے آپ نے اندھیرے کو روشن کر دیا آپ کی تمام خصلتیں بہت اچھی ہیں۔ آپ پر اور آپ کی آل و اولاد پر رود و سلام ہو

بعض مرتبہ آدمی کو حضورؐ کی فضیلت کا پہنچنے میں ہوتا ہے تو وہ اس کی شان میں گستاخی کر لیتا ہے، اور بعض مرتبہ حضورؐ کے ختم نبوت کا انکار کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے، اس لئے میں نے یہ فضائل ذکر کئے تاکہ حضورؐ کی محبت انسانوں کے دل میں بیٹھ جائے، اور وہ ان کی محبت لکھ رہیا سے جائے

## [ا] حضور ﷺ کو شفاعت کبریٰ دی جائے گی

میدانِ حشر میں جب حساب کتاب نہیں ہو رہا ہو گا تو لوگ بہت پریشان ہوں گے، اور چاہیں گے کہ کم سے کم حساب ہو جائے اس کے لئے لوگ بہت سے نبیوں کے پاس جائیں گے، لیکن وہ انکار کر دیں گے کہ میں اس شفارس کے لاٹن نہیں ہوں، اس کے لئے آپ لوگ حضور ﷺ کے پاس جائیں، لوگ آپ کے پاس آئیں گے، پھر آپ سفارش کریں گے، اسی کا نام شفاعت کبریٰ ہے، جو صرف حضور ﷺ کے لئے خاص ہے۔

گناہ گاروں کو جنت میں داخل کرانا، یا اپنی امت کو جنت میں لیجانے کی سفارش کرنا، یہ دوسرے انبیاء بھی کریں گے، اور صلحاء بھی کریں گے، اس کو شفاعت صغیری کہتے ہیں، یہ دوسرے انبیاء بھی کریں گے  
حضورؐ کو شفاعت کبریٰ دی جائے گی  
اس کی دلیل یہ حدیث ہے۔

1- عن انس قال قال رسول الله ﷺ يجمع الله الناس يوم القيمة فيقولون لو استشفينا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا ..... ثم يقال لى : ارفع رأسك و سل تعطه ، و قل يسمع ، و اشفع تشفع فارفع رأسى فأحمد ربى بتحميد يعلمنى ، ثم اشفع فيحدلى حدا ثم اخر جهم من النار و ادخلهم الجنة ثم اعود فاقع ساجدا مثله فى الثالثة او الرابعة حتى ما يبقى فى النار الا من حبسه القرآن - (بخارى شریف، کتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، ص ۱۱۳۶، نمبر ۲۵۶۵)

ترجمہ۔ حضور پاک ﷺ نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن لوگوں کو مجمع کریں گے، لوگ کہیں گے، ہمارے رب کے سامنے کوئی سفارش کرتا تو اس جگہ سے ہمیں عافیت ہو جاتی۔۔۔۔۔ پھر مجھ سے کہا جائے

گا، سر اٹھاؤ اور مانگو دیا جائے گا، کہ بات سنی جائے گی، سفارش کرو سفارش قبول کی جائے گی، تو میں سر اٹھاؤں گا، اور ایسی حمد کروں گا جو اللہ اس وقت مجھے سکھائیں گے، پھر میں سفارش کروں گا تو ایک حد متعین کر دی جائے گی، پھر میں ان لوگوں کو جہنم سے نکالوں گا اور جنت میں داخل کروں گا، پھر پہلے کی طرح دوبارہ میں سجدے میں جاؤں گا، یہ تیسری مرتبہ ہو گا یا چوتھی مرتبہ ہو گا، یہاں تک کہ جہنم میں وہی باقی رہیں گے جنکو قرآن نے روکے رکھا ہے [یعنی صرف کافر جہنم میں باقی رہ جائیں گے]

اس حدیث میں تین باتیں ہیں [۱] ایک تو یہ کہ شفاعت کبری آپ کریں گے [۲] اور دوسرا بات یہ ہے کہ قیامت میں بھی آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اور اللہ تعالیٰ دیں گے [۳] اور تیسرا بات یہ ہے کہ جتنے بندوں کو نکالنے کی اجازت ہو گی اتنے ہی کو جہنم سے نکالیں گے۔

## [۲] حضور ﷺ کو حوض کوثر دیا جائے گا جو کسی اور کوئی میں دیا گیا ہے

۱۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرِ۔ (آیت ۱۔ ۲۔ سورۃ الکوثر ۱۰۸)

ترجمہ۔ اے پیغمبر! یقین جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے، اس لئے اپنے رب کی خوشنودی کے لئے نماز پڑھو اور قربانی کرو

اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو کوثر دیا۔

اس کے لئے حدیثیں یہ ہیں

2 - عن عبد الله بن عمر و قال النبي ﷺ حوضى حوضى مسيرة شهر مؤهه أبيض من اللبن

و ریحه أطيب من المسك و كيزانه كنجوم السماء ، من شرب منها فلا يظمأبدا

-(بخاری شریف، کتاب الرقاق، باب فی الحوض، ص ۱۱۳۸، نمبر ۶۵۷۹)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ میرا حوض ایک ماہ تک چلنے کی مسافت تک لمبا ہے اس کی خوبیوں کے سے بھی زیادہ ہے، اور اس پر جو پیالے ہیں وہ وہ آسمان میں ستارے جتنے ہیں، جو اس کا پانی ایک مرتبہ پی لے گا وہ بھی پیاس انہیں ہو گا۔

3۔ سمعت انس بن مالک يقول .... فقال انه انزلت على آنفا سورة فقراء بسم الله الرحمن الرحيم ، انا اعطيناك الكوثر ، حتى ختمها فلما قرئها هل تدرون ما الكوثر ؟ قالوا الله و رسوله اعلم ، قال فانه نهر وعدنيه ربى عز و جل في الجنة و عليه خير كثير ، عليه حوض ترد عليه امتي يوم القيمة آنيته عدد الكواكب -(ابو داود شریف، کتاب السنة، باب فی الحوض، ص ۶۱، نمبر ۲۷۲)

ترجمہ۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ۔۔۔ حضورؐ نے فرمایا کہ مجھ پر بھی ایک سورت اتری ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سورت کو آخر تک تلاوت کی، جب تلاوت کر چکے تو پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کوثر کیا ہے، لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک نہر ہے، اللہ نے جنت میں مجھ سے اس کا وعدہ کیا ہے، اس نہر میں بہت خیر ہے، اس پر حوض ہے، قیامت کے دن اس پر میری امت آئے گی، اس پر جوہر بن ہے وہ ستاروں جتنے ہیں

اس آیت اور حدیث سے معلوم ہوا کہ حضورؐ کو حوض کو ثر دیا جائے گا، جو کسی اور کوئی دیا جائے گا

[۳] وسیلہ ایک بہت بڑا مقام ہے

جو صرف حضور ﷺ کو دیا جائے گا۔

4۔ عن عبد الله بن عمر بن العاص انه سمع النبي ﷺ يقول ..... ثم سلوا لي الوسيلة ، فانها منزلة في الجنة لا ينفع الا العبد من عباد الله و ارجو أن اكون انا هو ، فمن سأله الوسيلة حلت عليه الشفاعة - (مسلم شریف، باب استحباب القول مثل قول الموزن لمن سمع ثم يصلى على النبي ثم يسأل اللهم الوسيلة، ص ۱۶۳، نمبر ۸۲۹/۳۸۳ رترمذی شریف کتاب المناقب، باب سلوی الوسيلة، ص ۸۲۲، نمبر ۳۶۱)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا۔۔۔ پھر میرے لئے وسیلہ مانگے، وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے ایک ہی لئے مناسب ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ پس جو میرے لئے وسیلہ مانگے کاس کے لئے میری شفاعت حلال ہو گئی

5۔ عن جابر بن عبد الله ان رسول الله ﷺ قال من قال حين يسمع النداء ، اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمد الوسيلة و الفضيلة و ابعشه مقاما محمودا الذي وعدته ، حلت له شفاعتي يوم القيمة - (بخاری شریف، کتاب الاذان، باب الدعاء عند النداء، ص ۱۰۲، نمبر ۲۱۲)۔ ترجمہ۔ آپؐ نے فرمایا اذان سننے وقت جو کہے گا، اے اللہ۔ حضورؐ کو وسیلہ دے، فضیلت دے، اور مقام محمود پر فائز فرم، جس کا آپؐ نے وعدہ فرمایا ہے، تو قیامت کے دن اس کے لئے میری سفارش حلال ہو جائے گی

ان دو حدیثوں میں ہے کہ وسیلہ ایک بہت بڑا مقام ہے جو صرف ایک بندے کو دیا جائے گا، اور وہ صرف حضورؐ کے لئے ہو گا۔

[۳] حضور ﷺ کو، لواء الحمد، دیا جائے گا

### جو کسی اور کو نہیں دیا جائے گا

لواء الحمد کا ترجمہ ہے تعریف کا جنڈا، قیامت میں آپ اللہ کی ایسی تعریف کریں گے جو کسی اور نہیں کی ہوگی، اس لئے اس کو، لواء الحمد، کہا جاتا ہے، یہ صرف حضور ﷺ کو دیا جائے گا۔

6۔ عن انس بن مالک قال قال رسول الله ﷺ انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا خطبיהם اذا وفدوا وانا مبشرهم اذا أيسوا ،لواء الحمد يومئذ بيدي وانا اكرم ولد آدم على ربى ولا فخر۔ (ترمذی شریف، باب انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، ص ۸۲۳، نمبر ۳۶۱۰)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ جب قیامت میں لوگ نکلیں گے تو میں سب سے پہلے نکلوں گا، جب اللہ کے سامنے وفلے کر جائیں گے تو میں اس کا خطیب ہوں گا، جب لوگ مايوں ہو جائیں گے تو میں ان کو خوشخبری دینے والا ہوں گا، اس دن حمد کا جنڈا امیرے ہاتھ میں ہوگا، میں اللہ کے سامنے اولاد آدم میں سے سب سے زیادہ مکرم ہوں گا، لیکن اس میں مجھے کوئی فخر نہیں ہے

اس حدیث میں ہے کہ قیامت میں میرے ہاتھ میں حمد کا جنڈا ہوگا۔

[۵] حضور ﷺ خاتم النبیین ہیں کوئی اور نہیں ہیں۔

خاتم النبیین، کام مطلب یہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے اس کے لئے آیت اور احادیث یہ ہیں۔

2۔ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَ لِكُنْ رَسُولُ اللَّهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيِّنَ - (آیت ۴۰، سورۃ الاحزان ب ۳۲)۔ ترجمہ۔ حضورؐ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اور سب سے آخری نبی ہیں

7۔ عن ابی هریرۃؓ ان رسول الله ﷺ قال .... انا خاتم النبیین - (بخاری شریف، باب خاتم النبیین، ص ۵۹۵، نمبر ۳۵۳۵ رترمذی شریف، باب ماجاء لاقوم الساعة حتی يخرج كذابون، ص ۵۰۹، نمبر ۲۲۱۹) ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا۔۔۔ میں آخری نبی ہوں

8۔ عن ثوبان قال قال رسول الله ﷺ ... و انه سيكون في امتى كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبى و انا خاتم النبیین لا نبى بعدى - (ابوداؤد شریف، کتاب الفتن، باب ذکر الفتن و دلائلها، ص ۵۹۶، نمبر ۲۲۵۲)

ترجمہ۔ آپؐ نے فرمایا کہ۔۔۔ میری امت میں تمیں جھوٹے ہوں گے، ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے ان آیت اور احادیث میں ہے حضورؐ آخری نبی ہیں، اور یہ بھی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے گا، اس لئے جو اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ جھوٹا ہے، اس کو ہرگز نبی نہیں مانتا چاہے

## [۶] حضور ﷺ پوری انسانیت کے لئے نبی ہیں

اور جتنے بھی انبیاء علیہم السلام آئے وہ کسی خاص قوم کے لئے تھے، یا خاص زمانے کے لئے تھے، لیکن حضورؐ تمام لوگوں کے لئے نبی بن کر آئے، جنات کے لئے بھی نبی ہیں، اور انسان کے لئے بھی نبی ہیں، اور قیامت تک کے لئے نبی اور رسول ہیں، اس لئے آپؐ کی فضیلت سب سے زیادہ ہے اس کے لئے آیتیں یہ ہیں

3۔ وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًاً وَ نَذِيرًاً۔ (آیت ۲۸، سورۃ السباء ۳۲)

ترجمہ۔ اور اے رسول ہم نے تمہیں سارے ہی انسانوں کے لئے ایسا رسول بنایا کہ بھیجا ہے جو خوش خبری بھی سنائے اور خبردار بھی کرے۔

4۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ (آیت ۱۵۸، سورۃ الاعراف ۷)

ترجمہ۔ آپؐ کہہ دیجئے اے لوگو! تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنایا کہ بھیجا گیا ہوں

5۔ وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ (آیت ۷۱، سورۃ الانبیاء ۲۱)

ترجمہ۔ اور اے پیغمبر! ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لئے رحمت ہی رحمت بنایا کہ بھیجا ہے

6۔ إِلَيْوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ ، وَ أَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامُ دِيْنًا۔

(آیت ۳، سورۃ المائدۃ ۵)۔ ترجمہ۔ آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت

پوری کر دی، اور تمہارے لئے اسلام کو دین کے طور پر ہمیشہ کے لئے پسند کر لیا۔

7۔ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ إِنَّمَا يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مُّنْكَمُ۔ (آیت ۱۳۰، سورۃ الانعام ۶)

ترجمہ۔ اے جنات اور انسانوں کے گروہ! کیا تمہارے پاس خود تم میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے جو تمہیں

میری آیتیں پڑھ کر سناتے تھے۔ ان آیتوں سے پتہ چلا کہ آپؐ انسان اور جنات سب کے لئے نبی ہیں

[۷] حضورؐ کو معراج پر لیجا گیا اور بڑی بڑی نشانیاں دکھلائیں میں حضورؐ کو معراج میں لے گئے اور بڑی بڑی نشانیاں دکھلائیں۔ یہ فضیلت صرف حضورؐ کے لئے کسی اور نبی کے لئے نہیں ہے۔۔۔ ان آیتوں میں اس کا ذکر ہے

8۔ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْذِي بَارَكَنَا حَوْلَهُ لِنُبَيِّهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ (آیت، سورت الاسراء ۱۸)

ترجمہ۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد قصیٰ تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ انہیں ہم اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، بیٹک وہ ہربات کو سننے والی اور ہر چیز کو دیکھنے والی ذات ہے۔

9۔ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبُرَى (آیت ۱۸، سورت النجم ۵۳)

ترجمہ۔ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں میں سے بہت کچھ دیکھا۔

9۔ عن مالک بن صعصعةً ان نبی اللہ ﷺ حدثه عن ليلة اسری ، قال بينما انا في الحطيم . ربما قال في الحجر . مضطجعا اذا اتاني آت ..... فانطلق بي جبريل حتى اتى السماء الدنيا فاستفتح .... ثم رفع لي البيت المعمور ، اخ۔ (بخاری شریف، کتاب مناقب الانصار، باب المراج، ص ۲۵۲، نمبر ۳۸۸۷)

ترجمہ۔ حضور پاک نے معراج کی رات کے بارے میں بیان کیا، کہ میں حطیم میں تھا، ایک روایت میں ہے کہ میں حجر میں لیٹا ہوا تھا، کہ ایک آنے والا آیا [ جبراًیل ] آئے۔۔۔ مجھکو جبراًیل سماء دنیا تک لے گئے، اور دروازہ کھلوایا۔۔۔ پھر مجھے بیت المعمور تک لے گئے۔

ان آیات اور احادیث میں یہ بھی ہے کہ معراج میں لیجائے گئے، اور یہ بھی ہے کہ نشانیاں دکھلائی گئیں

## (۸) حضورؐ پر قرآن اتارا جو کسی اور پر نہیں اتارا

اور ان بیاء پر چھوٹی چھوٹی کتابیں اتاریں، لیکن حضورؐ کے اوپر قرآن جیسی عظیم کتاب اتاری جو کسی اور پر نہیں اتاری۔

10۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا۔ (آیت ۲۳۳، سورت الانسان ۷۶)

ترجمہ۔ اے پیغمبر! ہم نے ہی آپ پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے  
اس آیت میں ہے کہ ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے

## (۹) حضور ﷺ محبوب رب العالمین ہیں

اس کے لئے حدیثیں یہ ہیں

10۔ عن علی بن علی المکی الھالی عن ابیه قال دخلت علی رسول الله ﷺ فی شکاته الذی قبض فیها .....انا خاتم النبیین و اکرم النبیین علی الله و احباب المخلوقین الی الله عز و جل۔ (طبرانی کبیر، ج ۳، بقیة الاخبار الحسن بن علی، ۵، نمبر ۲۶۷، نمبر ۵۷۶) مستدرک للحاکم، کتاب تواریخ المتقد میں من الانبیاء والمرسلین، باب ومن کتاب آیات رسول اللہ ﷺ ایسی ہی دلائل النبوة، ج ۲، ص ۲۷۲، نمبر ۲۲۸)

ترجمہ۔ حضرت علی الھلائی فرماتے ہیں کہ جس مرض میں حضورؐ کی وفات ہوئی، میں اس وقت حضور کے پاس گیا۔۔۔ آپ نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، اور اللہ کے نزدیک سب سے مجرم ہوں، اور اللہ کے نزدیک مخلوق میں سے سب سے زیادہ محبوب ہوں

11۔ عن انس بن مالک قال قال رسول الله ﷺ ... و انا اکرم ولد آدم علی ربی

ولا فخر۔ (ترمذی شریف، باب انا اول الناس خروجاً اذا بعثوا، ص ۸۲۳، نمبر ۳۶۱۰)

ترجمہ۔ آپؐ نے فرمایا کہ اپنے رب کے نزدیک میں اولاد آدم میں سے سب سے زیادہ مجرم ہوں، لیکن اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔

ان احادیث میں ہے کہ حضورؐ اللہ کو مخلوق میں سے سب سے زیادہ محبوب ہیں

[۱۰] حضورؐ اولین اور آخرین کے سردار ہیں کوئی اور نہیں ہے

12۔ عن ابی هریرۃ قال کنا مع النبی ﷺ فی دعوۃ ..... و قال انا سید الناس یوم القيامة۔ (بخاری شریف، کتاب احادیث الانبیاء، باب قول اللہ عز و جل ﷺ وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ [آیت ۲۵، سورت ہود] ص ۵۵۵، نمبر ۳۳۲۰)

ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ میں ایک دعوت میں حضورؐ کے ساتھ تھا۔۔۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا

13۔ عن ابی هریرۃ قال رسول الله ﷺ انا سید ولد آدم و اول من تنشق عنه الارض ، و اول شافع و اول مشفع۔ (ابوداؤد شریف، باب فی التحیر بین الانبیاء علیہم السلام، ص ۲۶۰، نمبر ۳۶۷۳)

ترجمہ۔ آپؐ نے فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں ، زمین جب پھٹے گی تو میں سب سے پہلے نکلوں گا، میں سب سے پہلے سفارش کروں گا، اور میری سفارش سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔

ان 10 آیت اور 13 حدیثوں میں حضور ﷺ کی فضیلت ذکر کی گئی ہے اس لئے حضور ﷺ کی اتباع کی جائے، ان کی گستاخی ہرگز نہ کریں، اور ایسے جملے استعمال نہ کریں جن سے ان کی گستاخی ہوتی ہو، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ انکو عیسائیوں کی طرح اتنا نہ بڑھا دیں کہ اللہ کے درجے میں پہنچادیں، حضورؐ نے اس سے بھی منع فرمایا ہے،

حضرور ﷺ کی جتنی فضیلیتیں ہیں اتنے ہی پر کھنے کی  
تعلیم دی گئی ہے، اس سے زیادہ بڑھانا ٹھیک نہیں ہے

اس کے لئے آیتیں یہ ہیں

11۔ قُلْ يَا أَهْلُ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوْا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ۔ (آیت ۷۷، سورت المائدۃ ۵)

ترجمہ۔ اے اہل کتاب! اپنے دین میں ناحق غلوونہ کرو۔

12۔ لَا تَغْلُوْا فِي دِينِكُمْ وَ لَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَا الْحَقِّ۔ (آیت ۱۷، سورت النساء ۲)

ترجمہ، اے اہل کتاب! اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو، اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کوئی بات نہ کرو

حضرورؐ کو جتنی فضیلت قرآن میں دی ہے اسی پر کھنا افضل ہے، اس سے بڑھانا اچھا نہیں ہے۔

اس کے لئے حدیثیں یہ ہیں

14۔ سمع عمرؓ یقول علی المنبر سمعت النبی ﷺ یقول لا تطروني كما اطرت  
النصاری ابن مریم فانما انا عبد الله فقولوا عبد الله و رسوله۔ (بخاری شریف، احادیث  
الانبیاء، باب قول اللہ تعالیٰ ﴿وَ اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْیَمْ إِذْ انْتَدَثْ مِنْ أَهْلِهَا﴾ [آیت ۱۶،  
سورت مریم ﴿ص ۵۸۰، نمبر ۳۲۲۵])

ترجمہ۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ منبر پر حضورؓ کو کہتے ہوئے سنائے، کہ مجھے تعریف میں حد سے زیادہ  
نہ بڑھاؤ جیسے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس لئے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول  
کہا کرو

اس حدیث میں ہے کہ جیسے نصاری نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑھایا یہاں تک اللہ کے قریب کر دیا، تم بھی مجھے اتنا نہ بڑھادینا، مجھے صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو۔

15 - عن ابی سعید الخدری قال قال رسول الله ﷺ لا تخروا بین الانبیاء (ابوداودشریف، باب فی التَّقْیِیرِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، ص ۲۶۰، نمبر ۳۶۶۸)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ مجھے انبیاء کے درمیان فضیلت مت دو ان احادیث میں ہے کہ مجھے نبیوں پر بہت زیادہ فضیلت مت دو، اس لئے آیت اور احادیث میں حضورؐ کے لئے فضیلتیں ثابت ہیں اتنی ہی فضیلت بیان کرنی چاہئے، اس سے زیادہ کرنا گمراہی ہے

اس حدیث میں ہے کہ جتنا حدیث اور قرآن میں ہے، اس سے زیادہ کرنا بدعت ہے، اور بدعت کا انجام گراہی ہے، اس لئے یہ کام نہیں کرنا چاہئے

16- حدثني عبد الرحمن بن عمر السلمي .... و اياكم و محدثات الامور فان كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلاله. (ابوداودشریف، کتاب السنۃ، باب فی لزوم السنۃ، ص ۲۵۱، نمبر ۳۶۰۷، نمبر ۳۶۰۷، مسلم شریف، کتاب الجموعة، باب تخفیف الصلاة والخطبة، ص ۳۷۷، نمبر ۸۶۷)۔ ترجمہ۔ دین میں نئی نئی باتیں پیدا کرنے سے بچا کرو، اس لئے کہ دین میں نئی بات کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت کا انجام گراہی ہے

ان 2 آیتوں اور 3 حدیثوں میں ہے کہ قرآن اور حدیث میں جتنا ہے، اس سے زیادہ کرنا لٹھیک نہیں ہے، یہ گمراہی ہے۔

اس عقیدے کے بارے میں 12 آیتیں اور 16 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

## ۶۔ حضور ﷺ بشر ہیں

لیکن اللہ کے بعد تمام کائنات سے افضل ہیں

اس عقیدے کے بارے میں 28 آیتیں اور 8 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

حضور پر جو آیتیں اتری ہیں وہ نور ہیں، آپ کی رسالت نور ہے، آپ پر اتر اہوا قرآن نور ہے، ایمان نور ہے، اور یہ تمام صفتیں حضور میں اتم درجے میں ہیں اس لئے ان صفات کے اعتبار سے آپ نوری ہیں، لیکن ذات کے اعتبار سے آپ انسان ہیں کیونکہ آپ انسان میں پیدا کئے گئے ہیں، آپ کھاتے تھے، پیتے تھے، شادی بیاہ کی، اور انسان کی طرح زندگی گزاری۔

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

ع

## آپ ﷺ مخلوق میں سے سب سے زیادہ محبوب ہیں

اس کے لئے حدیثیں یہ ہیں

1- عن ابن عباس قال اوحى الله الى عيسى بن مريم ... فلولا محمد ما خلقت آدم ،  
و لو لا محمد ما خلقت الجنة و لا النار ، و لقد خلقت العرش على الماء فاضطرب  
فكتبت عليه لا اله الا الله محمد رسول الله فسكن . (مستدرک للحاکم، ومن کتاب آیات  
رسول اللہ تعالیٰ ہی دلائل النبوة، ج ۲، ص ۲۷۲، نمبر ۳۲۲۷ / ر متوفی ۳۰۵ھ)

ترجمہ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو وحی بھیجی۔۔۔ اللہ نے فرمایا، محمدؐ نہیں ہوتے تو میں حضرت آدم کو پیدا نہیں کرتا، اور محمدؐ نہیں ہوتے تو میں جنت اور جہنم پیدا نہیں کرتا،  
میں نے عرش کو پانی پر پیدا کیا تو وہ ملے لگا، تو میں نے اس عرش پر لا اله الا الله محمد رسول  
الله، لکھا تو وہ ساکن ہو گیا۔

2- عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله ﷺ لما اقترف آدم الخطية ... فرأيت  
على قوائم العرش مكتوبا ، لا اله الا الله محمد رسول الله، فعلمت انك لم تضف  
إلى ا سمك الا احب الخلق اليك ، فقال الله : صدقت يا آدم انه لاحب الخلق  
إلى ، ادعني بحقه فقد غفرت لك ، و لو لا محمد ما خلقتك . (مستدرک للحاکم، و  
من کتاب آیات رسول اللہ تعالیٰ ہی دلائل النبوة، ج ۲، ص ۲۷۲، نمبر ۳۲۲۸ / ر متوفی ۳۰۵ھ)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا جب حضرت آدمؑ نے غلطی کی۔۔۔ میں نے عرش کے پائے پر، لا اله الا  
الله محمد رسول الله، لکھا ہوا دیکھا، تو سمجھ گیا کہ اللہ اپنے نام کے ساتھ صرف محبوب کو ہی ملا

سکتا ہے، تو اللہ نے فرمایا، آدم! تم نے کچ کہا، حضرت محمد، مجھکو مخلوق میں سے سب سے زیادہ محبوب ہیں، آپ نے ان کا وسیلہ لیکر دعا کی تو میں نے تم کو معاف کر دیا، اگر محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ ان دونوں حدیثوں سے یہ معلوم ہوا کہ حضور کائنات میں سے سب سے افضل ہیں۔

نوٹ: یہ حدیث صحابہ سنتہ، یا ائمکے اوپر کی کتاب میں مجھے نہیں ملی، اور اور حاشیہ والے نے لکھا ہے کہ میرا گمان یہ ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، لیکن چونکہ فضیلت میں یہ حدیث تھی، اس لئے ناچیز نے اس کو ذکر کر دیا۔

## حضرت ﷺ سے اعلان کروایا گیا کہ میں انسان ہوں

ان ۳ آیتوں میں حضراوتا کید کے ساتھ آپ سے اعلان کروایا گیا ہے کہ آپ بشر ہی ہیں، البتہ آپ پر وحی آتی ہے، جو بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔

۱۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ۔ (آیت ۱۸، سورۃ الکھف)

ترجمہ۔ آپ کہہ دیجئے، کہ میں تو تمہی جیسا ایک انسان ہوں، البتہ مجھ پر وحی آتی ہے کہ تم سب کا خدا بس ایک ہی خدا ہے

۲۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ۔ (آیت ۲، سورۃ فصلت)

ترجمہ۔ آپ کہہ دیجئے، کہ میں تو تمہی جیسا ایک انسان ہوں، البتہ مجھ پر وحی آتی ہے کہ تم سب کا خدا بس ایک ہی خدا ہے

۳۔ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هُلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا۔ (آیت ۹۳، سورۃ الاسراء)

ترجمہ۔ کہہ دیجئے، سبحان اللہ، میں تو ایک بشر ہوں، جسے پیغمبر بننا کر بھیجا گیا ان تینوں آیتوں میں اعلان کروایا گیا کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، البتہ میرے پاس وحی آتی ہے

۴۔ وَ مَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخَلْدِ أَفَإِنْ مِّتَ فَهُمُ الْخَالِدُونَ (آیت ۳۲، سورۃ الانبیاء)

(۲۱) ترجمہ۔ اے پیغمبر تم سے پہلے بھی ہمیشہ زندہ رہنا ہم نے کسی فرد بشر کے لئے طنہیں کیا، چنانچہ اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو کیا یہ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہیں گے

۵۔ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنَّنَا نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ۔ (آیت ۱۱، سورۃ ابراہیم)

ترجمہ۔ ان قوموں سے ان کے پیغمبروں نے کہا، ہم واقعی تمہارے ہی جیسے انسان ہیں

وَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ (آیت ۵۱، الشوری ۳۲) ترجمہ۔ کسی انسان میں یہ طاقت نہیں کہ اللہ اس سے رو برو بات کرے، سوائے اس کے کہ وہ وحی کے ذریعہ ہو، یا کسی پردے کے پیچھے سے ہو۔

ان ۳ آیتوں میں اعلان تو نہیں کروایا، لیکن اشارہ ہے کہ رسول انسان ہوتے ہیں

## ان حدیثوں میں حضورؐ نے اعلان کیا ہے کہ میں انسان ہوں

### حدیثیں یہ ہیں

3۔ قال عبد الله صلى الله عليه وسلم..... قال انه لو حدث في الصلوة شيء لنباتكم به ولـكن انما انا بـشر مثلـكم انسـى كما تـنسون فـاذا نـسيـت فـذـكرـونـي - (بخارـيـ شـرـيفـ، كتابـ الصـلاـةـ، بـابـ التـوجـهـ نـحـوـ القـبـلـةـ حـيـثـ كانـ، صـ ۷۰ـ، نـبـرـ ۴۰ـ، مـرـسـمـ شـرـيفـ، كتابـ المسـاجـدـ، بـابـ السـهـوـ فـيـ الصـلاـةـ وـالـحـجـوـ دـلـهـ، صـ ۲۳۲ـ، نـبـرـ ۵۷ـ، نـبـرـ ۱۲۸۵ـ)

ترجمہ۔ حضرت عبد اللہ نے فرمایا کہ حضورؐ نے نماز پڑھائی۔۔۔ حضورؐ نے فرمایا کہ نماز میں کوئی نیا حکم آتا تو میں تم لوگوں کو ضرور بتاتا، میں تمہاری طرح انسان ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھولتا ہوں، پس جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلایا کرو۔

4- ان امها ام سلمة زوج النبی ﷺ ..... فخر ج الیهم فقال : انما انا بشر و انه يأتينى الخصم فعلع بعضكم ان يكون ابلغ من بعض فاحسب انه صدق فاقضى له بذلك - (بخاری شریف، کتاب المظالم، باب اثمن خاصم فی باطل و هو يعلمہ، ص ۳۹۶، نمبر ۲۲۵۸)

ترجمہ۔ ام سلمیؓ نے فرمایا کہ۔۔۔ حضور ان جھگڑنے والوں کے پاس آئے اور فرمایا کہ، میں انسان ہوں، میرے پاس مدعا اور مدعا علیہ آتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض آدمی اپنی دلیل پیش کرنے میں زیادہ ماہر ہو، جس سے میں گمان کر لوں کہ یہی سچا ہے، جس کی وجہ سے میں اس کے لئے چیز کا فیصلہ کر دوں۔

5- انه سمع موسى بن طلحة بن عبيد الله يحدث عن ابيه ، قال مررت مع رسول الله ﷺ فی نخل ..... بلغ النبی ﷺ فقال انما هو الظن ان كان يغنى شيئاً فاصنعواه، فانما انا بشر مثلکم، و ان الظن يخطى و يصيب - (ابن ماجہ شریف، کتاب الرہون، باب تلخیق النخل، ص ۳۵۲، نمبر ۲۷۰)

ترجمہ۔ حضور بھجور کے باغ سے گزر رہے تھے۔۔۔ حضور کو یہ بات پہنچی کی [اس سال بھجور کم آئی ہے] تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک میرا گمان تھا، اگر کوئی چیز کام آتی ہو تو اس کو کرو، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، گمان کبھی صحیح بھی ہوتا ہے، اور کبھی غلط بھی ہوتا ہے۔

ان 6 آیات اور 3 حادیث میں بار بار آپ نے اعلان کیا ہے کہ میں انسان ہوں۔ یوں بھی حضور ﷺ انسانی نسل میں پیدا ہوئے ہیں، انسانی نسل میں شادی بیاہ کی ہے تو آپ نور کیسے ہو سکتے ہیں!

## انسان فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے

انسان فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے، اس لئے اس کو فرشتوں میں، یا نوری مخلوق میں داخل کرنا مناسب نہیں ہے

اس کی دلیل یہ ہے۔

شرح عقائد میں عبارت یہ ہے۔ رسل البشر افضل من رسل الملائکة، و رسل الملائکة افضل من عامة البشر، و عامة البشر افضل من عامة الملائکة۔ (شرح عقائد الشفیعی، ص ۲۷۱) ترجمہ۔ انسان میں جو رسول ہیں وہ فرشتوں کے رسول سے افضل ہیں، اور فرشتوں میں جو رسول ہیں وہ عام انسان سے افضل ہیں، اور عام انسان عام فرشتوں سے افضل ہیں

## شرح عقائد کی عبارت سے تین باتیں معلوم ہوئیں

[۱]۔۔ عام انسان عام فرشتوں سے افضل ہیں۔

[۲]۔۔ بڑے فرشتے جکلو فرشتوں کا رسول کہتے ہیں وہ عام انسانوں سے افضل ہیں۔

[۳]۔۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ فرشتوں کے رسولوں سے بھی انسان کے رسول افضل ہیں۔

اس لئے حضور ﷺ انسان ہونے کے ناطے تمام فرشتوں سے افضل ہیں

اس لئے آپ ﷺ کو نوری مخلوق میں شامل کرنا، آپ ﷺ کی حیثیت کو گرانا ہے

اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ  
حضرت ﷺ کے بعد سب سے افضل ہیں

اس لئے کہ حضور ﷺ مخلوق میں ے درجہ اوپر ہیں

- [۱] کیونکہ حضور ﷺ خاتم الرسل ہیں
- [۲] آپ کے نیچے تمام رسول ہیں
- [۳] ان کے نیچے تمام نبی ہیں
- [۴] ان کے نیچے بڑے فرشتے ہیں
- [۵] ان کے نیچے عام انسان ہیں
- [۶] ان کے نیچے عام فرشتے ہیں
- [۷] ان کے نیچے باقی مخلوقات ہیں

## وہ آئیں جن میں انسان کو فرشتوں سے افضل شمار کیا گیا ہے

عام انسان عام فرشتوں سے افضل ہیں  
اس کی دلیل یہ آئیں ہیں

7۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَرَنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِإِذْمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِنْلِيْسَ۔ (آیت ۱۱، سورت الاعراف ۸)۔ ترجمہ۔ اور ہم نے تمہیں پیدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا، آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا، سوائے ابلیس کے۔

8۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ۔ (آیت ۳۰، سورت الحجر ۱۵)

ترجمہ۔ چنانچہ سارے کے سارے فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا

9۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ۔ (آیت ۳۷، سورت ص ۳۸)

ترجمہ۔ چنانچہ سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا

ان ۳ آیتوں میں ہے کہ سارے فرشتوں سے انسان کو تعظیمی سجدہ کرایا گیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ

عام انسان عام فرشتوں سے افضل ہیں

10۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنَى آدَمَ وَ حَمَلْنَا هُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ۔ (آیت ۰۷، سورت الاسراء ۷)

ترجمہ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی، اور انہیں خلکی اور سمندر دونوں میں سواریاں مہیا کی ہیں

11۔ وَالسَّيْنِ وَ الرَّيْتُونِ وَ طُورِسِينِينِ وَ هَذَا الْبَلْدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا إِلَنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَفْوِيمِ۔ (آیت ۱۲۔ سورت آتین ۹۵)

ترجمہ۔ فتح ہے انہی اور زمیون کی، اور صحرائے سینا کے طور پہاڑ کی، اور اس امن و امان والے شہر کی، کہ ہم نے انسان کو ہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔ ان آئیوں میں چار قسمیں کھا کر کہا کہ انسان کو بہت اچھے انداز میں پیدا کیا ہے۔

12- وَ عَلَمَ آدَمَ الْأُسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْتُمْ نُونٌ بِاسْمَاءٍ هُوَ لَعِ  
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ، قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلِمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  
، قَالَ يَا آدُمُ أَدْعُهُمْ بِاسْمَاءِ هُمْ فَلَمَّا أَنْبَاهُمْ بِاسْمَائِهِمْ ، قَالَ أَلَمْ أَفْلَمْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ  
السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ - (آیت میں ۳۲-۳۳، سورت البقرۃ ۲)

ترجمہ۔ اور آدم کو اللہ نے سارے کے سارے نام لکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور ان سے کہا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، فرشتہ بول اٹھا آپ ہی کی ذات پاک ہے، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے، حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو صرف آپ ہیں، اللہ نے کہا، آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ، چنانچہ جب حضرت آدم نے ان کے نام ان کو بتا دے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا، کہا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھی  
جانتا ہوں

ان 6 آیات سے معلوم ہوا کہ عام آدمی عام فرشتوں سے افضل ہے، اسی لئے تو انسان کو اشراف الخلوقات کہتے ہیں

اور انسانی رسول فرشتوں کے رسول سے افضل اس لئے ہیں، کہ سب سے بڑے اور افضل فرشتہ جبریل علیہ السلام ہیں، اور جبریل علیہ السلام تمام رسولوں کو پیغام پہنچاتے تھے، جس سے معلوم ہوا کہ رسول اہم فرشتوں سے افضل ہیں۔

معراج کی رات حضرت جبریل حضور کے خادم بن کر حضور گوآسمان پر لے گئے تھے، اس سے بھی

معلوم ہوا کہ حضور ﷺ سب فرشتوں سے افضل ہیں۔

اس کے لئے حدیث یہ ہے

6۔ مضطجعا اذا اتاني آت ..... فانطلق بي جبريل حتى اتي السماء الدنيا فاستفتح شم رفع لى البيت المعمور ، الخ۔ (بخاري شریف، کتاب مناقب الانصار، باب المراج، ص ۲۵۲، نمبر ۳۸۸۷) ترجمہ۔ میں طیم میں سویا ہوا تھا۔۔۔ مجھکو جبریل علیہ السلام لے گئے، یہاں تک کہ سماء دنیا تک لائے، اور دروازہ کھلوایا۔۔۔ پھر بیت المعمور تک مجھے لے گئے اس حدیث میں حضرت جبریلؑ خادم بن کر حضور کو مراج میں لے گئے ہیں، اس لئے حضورؐ تمام فرشتوں سے بھی افضل ہیں

اور حضور ﷺ سب رسولوں سے افضل ہیں اس کے لئے کئی آیتیں گزر چکی ہیں ایک آیت یہ بھی ہے

13۔ وَ مَا كَانَ مُحَمَّدًا أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَ لِكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ - (آیت ۴۰، سورت الاحزاب ۳۳)

ترجمہ۔ مسلمانو! محمد ﷺ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اور تمام نبیوں میں سے سب سے آخری نبی ہیں۔

ان 7 آیت اور ایک حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان فرشتوں سے افضل ہیں، اور حضور سب سے افضل ہیں

## ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ بھگوان

**انکی دیوی اور دیوتا کے روپ میں آتے رہے ہیں،**

ہندوؤں کا عقیدہ یہ ہے کہ بھگوان یعنی خدا انکی دیوی اور دیوتاؤں کے روپ اور شکل میں آتے رہے ہیں، اور آج بھی آتے رہتے ہیں، اسی لئے وہ دیوی اور دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں انکے سامنے ماتھا ٹکتے ہیں، ان پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں اور ان سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، مسلمانوں کو بھی شبہ نہ ہو کہ خدا حضور<sup>م</sup> کی شکل میں آئے ہوں، اور یہ بھی اللہ کے نور کا حصہ ہوں، اس لئے 6 آیتوں میں حضور<sup>م</sup> سے تاکید کے ساتھ اعلان کروایا کہ میں بشر ہوں، انسان ہوں، میں نوری مخلوق نہیں ہوں، خدامیرے روپ میں، یا شکل میں نہیں آیا ہے، اس لئے نہ میری عبادت کرو، اور نہ مجھ سے اپنی حاجت روائی کی درخواست کرو، میں بھی خدا سے مانگتا ہوں، اور تم بھی خدا ہی سے مانگو، یہی تعلیم دینے کے لئے حضور<sup>م</sup> کو مبعوث کیا تھا، اور یہی دین اسلام ہے

## وہ آیتیں اور احادیث

### جن سے حضور کے نوری ہونے کا شبهہ ہوتا ہے

14. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ . يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مِنْ أَتَّبَعَ رَضْوَانَهُ سُبُّلَ السَّلَمِ وَيُنْهِي جُهَّهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (آیت ۱۵-۱۶، سورت المائدہ ۵)

ترجمہ۔ ائے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے یہ پنج برا گئے ہیں، جو کتاب [تورت اور انجل] کی بہت سی باتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو تم چھپایا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کر جاتے ہیں، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی آتی ہے، اور ایک ایسی کتاب جو حق کو واضح کر دینے والی ہے، جس کے ذریعہ اللہ ان لوگوں کو سلامتی کی راہ دکھاتا ہے جو اس کی خوشنودی کے طالب ہیں، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا کرتا ہے۔

اس آیت میں نور، سے مراد حضور ﷺ کو لیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تفسیر جلالیں میں نور کی تفسیر میں صرف، **هُو النَّبِيُّ ﷺ** کہا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ نور سے محمد ﷺ مراد ہیں۔

لیکن تفسیر ابن عباس میں ہے کہ اس آیت میں نور سے مراد حضور کی رسالت ہے،

حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر یہ ہے۔ ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ ﴾ رسول، یعنی محمدؐ یہاں نور کی تفسیر میں پہلے رسول، لائے، پھر محمد، لائے ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی رسالت نور

ہے، خود حضور کی ذات نور نہیں ہوئی، اور وہ کیسے ہو سکتی ہے کیونکہ پہلے کئی آیتوں میں یہ اعلان کروایا گیا کہ آپ انسان ہیں

آگے آیت نمبر ۱۶ میں نور سے مراد ایمان ہے۔ تفسیر یہ ہے۔ ﴿وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ﴾ من الكفر إلى الإيمان۔ (نوری المقياس، من تفسیر ابن عباس، ص ۱۱۹، آیت ۱۵-۱۶، سورت المائدہ ۵) اس تفسیر میں نور کا ترجمہ ایمان، کیا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ نور کے مختلف ترجمے ہیں

تیری دلیل یہ ہے کہ، اس آیت کے شروع میں، یا أَهْلُ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولًا، کہا ہے اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اہل کتاب کو یہ بتانا ہے کہ تمہارے پاس میر رسول آگیا ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں نور سے مراد حضور کی رسالت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ، آپ کا دین، آپ کی رسالت اور آپ کی ہدایت نور ہے، اور ایسا نور ہے جو سورج اور چاند کی روشنی سے بھی برتر ہے۔

بعض مفسرین نے نور کی تفسیر صرف محمدؐ سے کی ہے، جس کی وجہ سے بعض حضرات سمجھتے ہیں کہ حضور کی ذات نور ہے، لیکن حضرت ابن عباسؓ کی اصلی تفسیر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں حضور کی رسالت مراد ہے، ورنہ نور والی تفسیر دسیوں آیتوں سے متضاد ہو جائے گی۔

نور کا معنی کہیں، نور نبوت ہے، کہیں قرآن ہے، اور کہیں ہدایت ہے، اس لئے ایک مبہم لفظ سے حضورؐ کو نور ثابت کرنا مشکل ہے۔

یہی وہ آیت ہے جس سے بعض حضرات حضور ﷺ کو نور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بھی غور فرمالیں۔

اس آیت سے بھی بعض حضرات نے استدلال کیا ہے کہ حضور ﷺ نور ہیں

15۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ ، شَاهِدًا وَ مُبِشِّرًا وَ نَذِيرًا ، وَ دَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ سَرَاجًا مُّنِيرًا۔ (آیت ۳۴۔ ۳۵، سورت احزاب ۳۳)

ترجمہ۔ اے نبی پیشک! ہم نے تمہیں ایسا بنا کر بھیجاے کہ تم گواہی دینے والے ہو، خوشخبری سنانے والے ہو، اور خبردار کرنے والے ہو، اور اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہو، اور روشنی پھیلانے والے چراغ ہو۔

حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر میں ہے کہ یہاں سراج منیر اسے مراد ایسی روشنی ہے جس کی اقتداء کی جائے، یعنی آپ کی ہدایت اور نبوت۔ تفسیر یہ ہے۔ ﴿سَرَاجًا مُّنِيرًا﴾ مضیا یقتدى بک۔ (توفیر المقیاس، من تفسیر ابن عباس، ص ۳۲۶ آیت ۳۴۔ سورت احزاب ۳۳) اس تفسیر میں سرانج سے مراد چراغ نہیں ہے، بلکہ آپ کی نبوت والی روشنی ہے، جس کی لوگ اقتداء کریں۔

## قرآن میں نور 5 معانی میں استعمال ہوا ہے

قرآن میں نور پانچ 5 معانی میں استعمال ہوا ہے، کبھی قرآن کے معنی میں، کبھی، رسالت کے معنی میں، کبھی ایمان کے معنی میں، کبھی احکام کے معنی میں، اور کبھی دین کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اس لئے قرآن کی اس آیت میں جو، قد جائیکم من الله نور و کتاب مبین، (آیت ۱۵، سورت المائدہ ۵) میں نور سے حضورؐ کو لینا ضروری نہیں ہے، اس سے انکی رسالت بھی مراد ہو سکتی ہے جیسا کہ تفسیر ابن عباس میں نور سے حضورؐ کی رسالت مرادی ہے، اور اگر اس نور سے حضورؐ کی ذات مراد لیتے ہیں تو یہ آیت اوپر کی 12 آیتوں کے خلاف ہو جائے گی، جس میں حصر اور تاکید کے ساتھ یہ اعلان کروایا گیا ہے کہ میں انسان ہوں  
آپ خود بھی غور کر لیں

1۔ ان دو آیتوں میں نور سے قرآن مراد ہے

16۔ وَ اتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أَنْزَلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (آیت ۷، اعراف ۷)

تفسیر ابن عباس میں یہاں نور سے مراد قرآن ہے۔ ﴿وَ اتَّبِعُوا النُّورَ﴾ القرآن۔ (۱۵۷/۷)

17۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَ لَا إِيمَانُ وَ لِكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا۔ (آیت ۵۲، الشوری ۵۲)

تفسیر ابن عباس میں یہاں قرآن کو نور کہا ہے۔ ﴿وَلِكِنْ جَعَلْنَاهُ﴾ قلنہ یعنی القرآن ﴿

نورا﴾ بیانا للامر و النہی (۵۲/۵۲)

ان آیتوں میں نور سے قرآن مراد یا گیا ہے

2۔ ان دو آیتوں میں نور سے مراد ایمان ہے

19۔ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ۔ (آیت ۱۲، سورت المائدۃ ۵)

تفسیر ابن عباس میں یہاں نور سے مراد ایمان ہے ﴿وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ﴾ من الكفر الى الايمان۔ (آیت ۱۲، سورت المائدۃ ۵)

20۔ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتِهِ لِيُخْرِجُكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَ كَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ (آیت ۳۳، سورت الاحزاب ۳۳)

حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر میں ہے کہ یہاں نور سے مراد ایمان ہے، اور ظلمات سے مراد کفر ہے۔ تفسیر یہ ہے۔ ﴿لِيُخْرِجُكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ قد اخر جکم من الكفر الى الايمان۔ (آیت ۳۳، سورت الاحزاب ۳۳) اس تفسیر میں نور کا ترجمہ ایمان ہے۔

3۔ اس آیت میں نور سے مراد احکام ہیں

21۔ إِنَّا أَنْزَلْنَا التُّورَةَ فِيهَا هُدًى وَ نُورٌ۔ (آیت ۳۳، سورت المائدۃ ۵)

تفسیر ابن عباس میں یہاں نور سے مراد احکام ہیں ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التُّورَةَ فِيهَا هُدًى وَ نُورٌ﴾ من الضلالة ﴿و نور﴾ بیان الرجم۔ (آیت ۳۳، سورت المائدۃ ۵)

4۔ اس آیت میں نور سے مراد دین ہے

22۔ يُرِيدُونَ أَنْ يَطْفُؤَ نُورُ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَ يَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُبْصِمَ نُورَهُ وَ لَوْ كِرَهَ الْكَافِرُونَ۔ (آیت ۳۲، سورت التوبۃ ۹)

حضرت عبد اللہ بن عباس کی تفسیر میں ہے کہ یہاں نور سے مراد اللہ کا دین ہے، تفسیر یہ ہے۔ ﴿نور اللہ﴾، دین اللہ۔ ﴿إِلَّا أَنْ يُتَمَّمْ نُورُهُ﴾ الا ان یظہر دینہ الاسلام۔ (تولی المقادیس، من تفسیر ابن عباس، ص ۲۰۲، آیت ۳۲، سورت التوبۃ ۹) اس تفسیر میں نور کا ترجمہ دین اسلام کیا ہے۔

23۔ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُنُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتَمِّمٌ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ (آیت ۸، سورت الصف ۲۱)

حضرت عبد اللہ بن عباس کی تفسیر میں ہے کہ یہاں نور سے مراد اللہ کا دین ہے یا اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ تفسیر یہ ہے۔ ﴿لِيُطْفِئُنُورَ اللَّهِ﴾، لیکن طلوا دین اللہ و یقال کتاب اللہ القرآن۔ و اللہ متم نورہ ﴿مَظْهَرٌ نُورٌ كَتَابٌ وَ دِينٌ﴾۔ (آیت ۸، سورت الصف ۲۱) اس تفسیر میں نور کا ترجمہ دین اور کتاب کیا گیا ہے۔

## 5۔ اس آیت میں نور سے مراد، حضور کی رسالت ہے

18۔ ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِتَابٌ مُبِينٌ﴾ (آیت ۱۵، سورت المائدہ ۵)

تفسیر ابن عباس میں یہاں نور سے مراد رسالت ہے ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ﴾ رسول، یعنی محمد (۱۵) یہاں نور کی تفسیر میں پہلے رسول، لائے، پھر محمد، لائے ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی رسالت نور ہے، خود حضور کی ذات نور نہیں ہوئی

جب نور قرآن میں پانچ معانی میں استعمال ہوا ہے تو، ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِتَابٌ مُبِينٌ﴾ (آیت ۱۵، سورت المائدہ ۵) میں نور سے مراد حضور ہی کو کیوں لیں جکہ وہ ۱۶ کے خلاف ہو جائیگا

اس لئے بہتر یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ حضور ﷺ بشرطے، لیکن ان میں ایمان، رسالت، قرآن، دین اور احکام کی صفت اتم درجے میں تھی جو نور ہیں اس لئے آپ صفت کے اعتبار سے نور تھے

## حقارت کے طور پر رسول کو بشر کہنا بالکل ٹھیک نہیں ہے،

رسول انسان ہوتے ہیں، لیکن آپ کو اس طرح کہنا کہ، آپ ہماری طرح انسان ہیں، اور یہ تاً ثردینا کہ ہمارے پاس وہی نہیں آتی، اس لئے آپ کے پاس بھی وہی نہیں آتی ہے، اس لئے آپ ہمیں نصیحت نہ کریں، اور نہ ہم آپ پر ایمان لانے کے پابند ہیں، اس طرح کہنا رسول کی بے ادبی ہے، اور ان پر ایمان نہ لانا ہے، اس لئے اس طرح بشرطیں کہنا چاہئے، اس میں ایمان سے منہ موڑنا ہے اس کی دلیل یہ آیت ہے

24. وَ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مُّثْلُنَا فَأُنْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ - (آیت ۱۵۲، سورۃ الشُّعْراء ۲۶)۔ ترجمہ۔ تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ہم جیسے ہی ایک انسان ہو، لہذا اگر سچے ہو تو کوئی نشانی لے کر آؤ۔

24۔ وَ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مُّثْلُنَا وَ إِنْ نَظُنْكَ لِمِنَ الْكَاذِبِينَ۔ (آیت ۱۸۶، سورۃ الشُّعْراء ۲۶)۔ ترجمہ۔ تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ہم جیسے ہی ایک انسان ہو، اور ہم تمہیں پورے یقین کے ساتھ جھوٹا سمجھتے ہیں

25۔ فَقَالَ الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مُّثْلُنَا... بَلْ نَظُنْكُمْ كَاذِبِينَ - (آیت ۲۷، سورۃ هود ۱۱)۔ ترجمہ۔ جن سرداروں نے کفر اختیار کیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم میں کوئی بات نظر نہیں آ رہی ہے کہ تم ہم جیسے ہی ایک انسان ہو۔۔۔ بلکہ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ تم سب جھوٹے ہو ان ۳ آئیوں میں کفار نے رسولوں کو اپنے جیسا رسول کہا کہ ان کے پاس وہی نہیں آتی اور انکی اتباع مت کرو، اس طرح کا رسول کو بشر کہنا، ان کی گستاخی ہے۔ اس سے ہر آدمی کو پر ہیز کرنا چاہئے۔

قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، والی حدیث ثابت نہیں ہے

کچھ حضرات اس حدیث سے حضور گونور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں مصنف عبدالرزاق کا حوالہ دیا ہے، پھر بعض حضرات نے دلائل العبودۃ للپیغمبر، اور مترک حاکم کا بھی حوالہ دیا ہے، لیکن میں نے ان تینوں کتابوں کو سامنے رکھ کر بہت تلاش کی اور، مکتبہ شاملہ، کے ذریعہ بھی تلاش کی لیکن حدیث کہیں نہیں ملی، بلکہ کچھلے زمانے کے بہت سارے حضرات نے لکھا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، ظاہر ہے کہ موضوع حدیث سے قرآن کے خلاف کیسے استدلال کیا جاسکتا ہے، اس لئے اس حدیث سے بھی حضور گونور ثابت کرنا مشکل ہے۔

حدیث یہ ہے۔

-روی عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله قال قلت يا رسول الله! بابی انت و امی اخبرنی عن اول شیء خلقه الله تعالى قبل اشیاء؟ قال : يا جابر ان الله تعالى قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ -انج (المواهب للدنیۃ، للقطلانی، متوفی 923ھ [ج اول، المقصد الاول، باب تشریف اللہ تعالیٰ، ص ۲۸])

نوٹ: اس حدیث کو، المواهب للدنیۃ، مصنف قطلانی وفات 923ھ نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہے، لیکن چونکہ قطلانی صاحب 923ھ کے ہیں اس لئے ان کی حدیث کو میں نہیں لے سکتا، کیونکہ میرالتزام یہ ہے کہ تبع تابعی کے زمانے کی کتابوں سے حدیث لیتا ہوں یا صحاح ستہ یا انکے اساتذہ کی کتابوں سے حدیث لیتا ہوں، کیونکہ وہی اصل ہیں، اور قطلانی بہت بعد کے ہیں، اور تابعی اور تبع تابعی کے زمانے کی کتابوں میں یہ حدیث نہیں ہے، اس لئے اس کا لینا مشکل ہے۔ یوں بھی یہ اعتقد کا مسئلہ ہے، اور یہ حدیث 12 آیتوں اور تین حدیثوں سے مکراتی ہے، اس لئے اس حدیث کو لینا چھی

بات نہیں ہے۔

اس حدیث کے بخلاف دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا ہے، اس اول مخلق نور عیک، والی حدیث کو کیسے لے لیں حدیث یہ ہے۔

7۔ حدثنا عبد الواحد بن سلیم .... نقیت الولید بن عبادۃ بن الصامت فقال حدثني ابی قال سمعت رسول الله ﷺ يقول ان اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى بما هو كائن الى الابد . (ترمذی شریف، کتاب تفسیر القرآن، باب ومن سورة نون و القلم، ص ۷۵، نمبر ۳۳۱۹)

ترجمہ - میں نے حضور پاک ﷺ سے سنا، فرمایا اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا، پھر قلم سے کہا لکھو تو قیامت تک جتنی باتیں ہوئی تھیں سب لکھ دیا۔

26 - اس آیت سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ سب سے پہلے قلم پیدا کیا ہے۔ ن و القلم و ما يسطرون - (آیت ۱، سورت القلم) (۶۸)

اس حدیث میں ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا اس لئے یہ حدیث نور عیک کے خلاف ہے۔ 12 آیتوں اور تین احادیث میں بار بار کہا ہے کہ حضور پریش تھے، اب نور ثابت کرنے کے لئے کوئی آیت ہو یا کچھی حدیث ہو جس میں صراحت کے ساتھ یہ بتایا ہو کہ حضور پریش تھے تب نور ثابت ہو گا، موضوع حدیث، یا تفسیر کرنے والوں کے مہم بات سے نور ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے میں نے اصلی تحقیق پیش کر دی ہے۔ آپ حضرات خود بھی غور کر لیں واللہ اعلم بالصواب

## حضرت ﷺ نے خود فرمایا کہ مجھے بڑھا چڑھا کر بیان نہ کرو

عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑھایا اور انکو اللہ کا بیٹا تک کہہ دیا، اور یہ انکی تعظیم میں کیا لیکن یہ بات صحیح نہیں تھی اس لئے انکو قرآن میں روکا کہ نبی کی تعظیم اتنی ہی کرو جتنا ان کا حق ہے، اس سے زیادہ کرنا غلوت ہے جو ٹھیک نہیں

اس لئے حضور ﷺ نے اپنی امت کو تعییم دی کہ میرے بارے میں بھی غلوتمت کرنا، اس لئے حضور اگر بشر ہیں تو آپ کو بشر مانا ہی بہتر ہے اور اسی میں آپ کی تعظیم ہے۔۔۔ اس کے لئے حدیث یہ ہے

8۔ سمع عمر ۃ يقول على المنبر سمعت النبي ﷺ يقول لا نطروني كما اطرت النصارى ابن مریم فانما أنا عبد الله و رسوله۔ (بخاری شریف، احادیث الانبیاء، باب قول اللہ تعالیٰ ﴿واذ کر فی الکتاب مریم اذ اشتد تکن اہلہ﴾ [آیت ۱۶، سورت مریم ۱۹] ص ۵۸۰، نمبر ۳۲۲۵)

ترجمہ۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں جس طرح نصاری نے حضرت عیسیٰ کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا تم بھی مجھے بڑھا چڑھا کر بیان نہ کرنا، میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، اس لئے مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو اس حدیث میں ہے کہ جیسے نصاری نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑھایا، تم بھی مجھے اتنا نہ بڑھا دینا 27۔ لَا تَغْلُوْا فِي دِيْنِكُمْ وَ لَا تَقُولُوْا عَلَى اللّٰهِ إِلَّا الْحَقٌ۔ (آیت ۱۷، سورت النساء ۲)

ترجمہ۔ اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو، اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کوئی بات نہ کہو 28۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوْا فِي دِيْنِكُمْ غَيْرُ الْحَقٍ۔ (آیت ۷، سورت المائدہ ۵)

ترجمہ۔ اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلوتہ کرو

اس عقیدے کے بارے میں 28 آیتیں اور 8 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

## ۷۔ حضور ﷺ قبر میں زندہ ہیں

اور یہ زندگی دنیا سے بھی اعلیٰ ہے  
آپ کا جسم اطہر قبر میں بالکل محفوظ ہے

اس عقیدے کے بارے میں 11 آیتیں اور 20 حدیثیں ہیں آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

حضور قبر میں زندہ ہیں، اور یہ حیات برزخی ہے، یہ حیات دنیا سے بھی اعلیٰ ہے، اور حضور کے جسم کو مٹی نہیں کھایا ہے، آپ کا جسم قبر میں بالکل محفوظ ہے

حضور قبر میں زندہ ہیں اس کی دلیل یہ احادیث ہیں

1- عن ابی درداء قال قال رسول الله ﷺ اکثروا الصلاة علی یوم الجمعة فانه مشهود تشهده الملائكة و ان احداً لـن يصلی علی الا عرضت علی صلاتـه حتى يفرغ منها قال قلت بعد الموت؟ قال و بعد الموت ان الله حرم علی الارض ان تأكل اجساد الانبياء . فنبـی الله حـی يرزـق - (ابن ماجہ شریف، بـاب ذکر وفات و دفـنـه ﷺ) ص ۲۳۲، نمبر ۱۶۲

ترجمہ۔ حضور پاک ﷺ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود بھیجا کرو اس لئے کہ جمعہ کا دن حاضر ہونے کا دن ہے، اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں، جو بھی آدمی درود بھیجتا ہے مجھ پر ضرور پیش کیا جاتا ہے جب تک کہ وہ درود شریف سے فارغ نہ ہو جائے، میں نے کہا کہ آپ کی موت کے بعد بھی درود پیش کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں موت کے بعد درود پیش کیا جائے گا، اللہ نے زمین پر اس بات کو حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے، اللہ کے نبی زندہ رہتے ہیں، اور انکو روزی دی جاتی ہے۔

اس حدیث میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ انبیاء کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی [۲] دوسری یہ کہ نبی علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے۔ [۳] اور تیسرا بات یہ ہے کہ حضور ﷺ پر سلام پیش کیا جاتا ہے

2- عن اوس اوس قال قال النبي ﷺ ..... فان صلوتكم معروضة على ، قال فقالوا يا رسول الله ! او كيف تعرض صلاتنا عليك و قد ارمتن ؟ قال يقولون بليت . قال ان الله حرم على الارض أجساد الانبياء ﷺ - (ابوداود شریف، باب فی الاستغفار، ص ۲۲۶، نمبر ۱۵۳۱ اہن ما جیز شریف، باب فی فضل الجمعة، ص ۱۵۲، نمبر ۱۰۸۵)

ترجمہ۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، لوگوں نے پوچھا کہ ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا؟ آپ تو بوسیدہ ہو چکے ہوں گے [شاید راوی نے ارمت کی جگہ بليت، کہا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو حرام کر دیا کہ وہ کھائے۔

اس حدیث میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ انبیاء پر درود شریف پیش کیا جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ زمین پر نبیوں کے جسم کو کھانا حرام کر دیا گیا ہے۔

3۔ عن ابی هریرة عن النبی ﷺ قال من صلی علی عند قبری سمعته و من صلی علی نائیا ابلغته۔ (بیہقی فی شعب الایمان، باب فی تقطیم النبی ﷺ واجله و تو تیره، ج ٹانی، ص ۲۱۸، نمبر ۱۵۸۳)۔ ترجمہ۔ حضور پاک سے روایت ہے کہ جو میری قبر کے پاس درود بھیجتا ہے میں اس کو سنتا ہوں، اور جو دور سے درود بھیجتا ہے، مجھکو وہ درود پہنچادیا جاتا ہے اس حدیث میں ہے کہ میری قبر کے پاس درود بھیجے تو میں اس کو سنتا ہوں، اور دور سے درود بھیجے تو مجھے پہنچایا جاتا ہے۔

4۔ قال رسول الله ﷺ حیاتی خیر لكم تحدثون و نحدث لكم ، و وفاتی خیر لكم تعرض على اعمالكم فما رأيت خيرا حمدت الله و ما رأيت من شر استغفرت الله لكم۔ (من الدریز، باب زاذان عن عبد اللہ، ج ۵، ص ۳۰۸)

ترجمہ۔ حضور پاک ﷺ نے فرمایا کہ میری زندگی تم لوگوں کے لئے بہتر ہے، کہ تم لوگ بات کرتے ہو اور میں تم لوگوں سے بات کرتا ہوں، اور میری وفات تمہارے لئے بہتر ہے، کہ تمہارے اعمال مجھ پر پیش کئے جاتے ہیں، جب میں اس میں کوئی اچھی بات دیکھتا ہوں تو اللہ کا شکردا کرتا ہوں، اور جب برقی بات نظر آتی ہے تو میں تمہارے لئے استغفار کرتا ہوں۔

اس حدیث میں ہے کہ حضور قبر میں زندہ ہیں اور آپ پر امت کے اعمال پیش کئے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ حضور ﷺ حاضر ناظر نہیں ہیں ورنہ اعمال پیش کئے جانے کی ضرورت کیا ہے۔

اس حدیث میں بھی ہے کہ مجھے لوگوں کا سلام پہنچایا جاتا ہے۔

5۔ عن عبد الله قال قال رسول الله ﷺ ان لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونى من امتى السلام . (نسائی شریف، کتاب السہو، باب لتسیم علی النبی ﷺ، ص ۹، نمبر ۱۲۸۳)

ترجمہ۔ حضور <sup>ؐ</sup> نے فرمایا کہ زمین میں پھرنے والے اللہ کے فرشتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں۔

اس حدیث میں ہے کہ سلام کا جواب دینے کے لئے زندہ کیا جاتا ہے

6۔ عن ابی هریرۃ ان رسول الله ﷺ قال ما من احد يسلم على الا رد الله على روحی حتى ارد عليه السلام . (ابوداود شریف، باب زیارت القبور، ص ۲۹۵، نمبر ۲۰۲۱)

ترجمہ۔ حضور پاک ﷺ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مجھے سلام کرتا ہے تو اللہ مجھ پر میری روح لوٹادیتے ہیں تاکہ میں اس کے سلام کا جواب دے سکوں  
اس حدیث میں ہے کہ مجھے زندہ کیا جاتا ہے۔

7۔ عن انس بن مالک ، ان رسول الله ﷺ قال أتیث و فی روایة هداب . مورث .  
علی موسیٰ لیلۃ أسری بی عند الکثیب الاحمر ، و هو قائم يصلی فی قبره – (مسلم  
شریف، باب من فضل موتیٰ علیہ السلام، ص ۱۰۲۲، نمبر ۲۳۷۵ / ۲۱۵)

ترجمہ۔ حضور <sup>ؐ</sup> نے فرمایا کہ میں آیا، اور حضرت ہداب کی روایت میں ہے کہ، معراج کی رات میں میں کثیب احر کے پاس حضرت موسیٰ <sup>ؑ</sup> کی قبر کے سامنے سے گزر ہوا، تو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔

اس حدیث میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی قبر میں زندہ ہیں۔

شہداء زندہ ہیں تو نبی کا درجہ ان سے بلند ہے اس لئے وہ بھی زندہ ہیں

۱۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ ، بَلْ أَحْيَاءٌ وَ لَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ (آیت ۱۵۳، نمبر البقرة ۲)۔ ترجمہ۔ جو اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں انکو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، مگر تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں ہوتا۔

اس آیت میں یہ بھی ہے کہ شہید زندہ تو ہیں لیکن انکی زندگی کس طرح کی ہے، اس کا تم شعور نہیں کر سکتے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حیات برزخی ہے۔

چونکہ نہیں قبر کی حیات کا شعور نہیں ہے، اس لئے بہت تحقیق میں نہیں پڑنا چاہئے

۲۔ وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۰  
فَرِحِينَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ يَسْتَبِشُرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْعَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ  
الْأَخْرُوفُ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْرُنُونَ ۰ يَسْتَبِشُرُونَ بِنَعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ وَ أَنَّ اللَّهَ لَا  
يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ۰ (آیت ۱۶۹۔ ۱۔ ۱۷، سورۃ آل عمران ۳)

ترجمہ۔ اور اے پیغمبر جو اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں اپنے رب کے پاس روزی ملتی ہے، اللہ نے انکو اپنے فضل سے جو کچھ دیا ہے وہ اس پر خوش ہیں، اور ان کے پیچھے جو لوگ ابھی ان کے ساتھ شہادت میں شامل نہیں ہوئے، ان کے بارے میں اس بات پر خوشی مناتے ہیں کہ جب وہ ان سے آ کر ملیں گے تو نہ انکو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

اس آیت میں ہے کہ شہداء زندہ ہیں اور رزق دئے جاتے ہیں تو انہیاء بدرجہ اولیٰ قبر میں زندہ ہوں گے اور روزی دئے جاتے ہوں گے۔

۸۔ عن مسروق قال سأله عبد الله هو ابن مسعود عن هذه الآية ﴿وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ (آیت ۱۶۹، آل عمران ۳)، قال اما انا قد سأله عن ذالک فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل - (مسلم معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شئت ثم تأوى الى تلك القناديل - (مسلم شریف، کتاب الامارة، باب بیان ان ارواح الشہداء فی الجنة و انھم احیاء عند ربھم یرزقون، ص ۸۲۵، نمبر ۱۸۸۵/۲۸۸۵)

ترجمہ۔ حضرت مسروقؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود سے میں نے اس آیت کے بارے میں پوچھا (کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوتے ہیں ان کو مردہ مت سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس روزی یئے جاتے ہیں)، حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ میں نے اس آیت کے بارے میں حضور سے پوچھا تھا، تو حضورؓ نے فرمایا تھا کہ شہداء کی رو حیں سبز پرندے کے پیٹ میں ہوتے ہیں، عرش کے نیچے انکی قدیلیں لٹکی ہوتی ہیں، وہ جنت میں جہاں چاہتی ہیں چلی جاتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں۔

### چار چیزوں کے اعتبار سے حضور دنیا میں بھی زندہ ہیں

رسول ﷺ کو ظاہری موت واقع ہوئی ہے البتہ برزخی حیات ہے، جس میں نبی کو روزی دی جاتی ہے، البتہ تین چیزوں میں نبی کو دنیا میں بھی زندہ شمار کیا جاتا ہے۔ [۱] انکی بیوی کا نکاح نہیں ہو گا، کیونکہ نبی ابھی بھی زندہ ہیں۔ [۲] ان کی وراثت تقسیم نہیں ہو گی۔ [۳] مٹی اس کے جسم کو نہیں کھاتی ہے۔ [۴] اور حضورؐ کی زندگی اتنی قوی ہے کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئیں گے، آپ خاتم النبیین ہیں

عام لوگ بھی قبر میں زندہ کئے جاتے ہیں

عام لوگ بھی قبر میں زندہ ہیں، اور یہ حیات برزخی ہے، اس میں ان کو عذاب اور ثواب بھی ہوتا ہے البتہ عام لوگوں میں اور انبیاء اور شہداء میں فرق یہ ہے کہ عام لوگوں کا جسم مٹی کا حاجاتی ہے، وہ سڑکل جاتا ہے، اور انبیاء اور شہداء کا جسم دیسے ہی زمین میں باقی رہتا ہے، جیسا فن کے وقت تھا، ان کو کھانا پینا دیا جاتا ہے، اور ان کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہت اعلیٰ ہے، لیکن چونکہ آیت میں ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ (آیت ۱۵۲ سورت البقرۃ) کہ تم کو اس کا شعور نہیں ہے، اس لئے اس بارے میں زیادہ بحث نہیں کرنی چاہئے، بس حدیث اور آیت میں جتنا ہے اسی پر اتفاق کرنا چاہئے

عام لوگ بھی قبر میں زندہ کئے جاتے ہیں اس کے لئے احادیث یہ ہیں

9- عن ابی ایوب <sup>رض</sup> قال خرج النبی ﷺ و قد وجنت الشمس ، فسمع صوتا فقال يهود يعذب فی قبورها۔ (بخاری شریف، کتاب الجنائز، باب التعوذ من عذاب القبر، ص ۲۲۰، نمبر ۱۳۷۵) ترجمہ۔ حضور سورج کے غروب کے وقت نکلے تو کوئی آواز سنی، تو آپ نے فرمایا کہ یہود کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے

اس حدیث میں ہے کہ یہود کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ یہ حیات برزخی ہے۔

10- حدثی ابنة خالد بن سعید ابن العاصی انها سمعت النبی ﷺ و هو يتغوز من عذاب القبر۔ (بخاری شریف، کتاب الجنائز، باب التعوذ من عذاب القبر، ص ۲۲۱، نمبر ۱۳۷۶) ترجمہ۔ خالد بن سعید فرماتے ہیں کہ میں نے حضور <sup>صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم</sup> کو عذاب قبر سے پناہ مانگتے سنा۔

اس حدیث میں ہے کہ حضور قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے، جس سے معلوم ہوا کہ یہ حیات برزخی

ہے۔

## قبر میں روح اور جسم دونوں کو عذاب، یا ثواب ہوتا ہے

اس کے لئے احادیث یہ ہیں

11- عن البراء بن عازب قال خرجنا مع النبي ﷺ في جنازة... قال فتعاد روحه في جسده ، فياتيه ملكان فيجلسان فيقولا له من ربک فيقول ربى الله... تعاد روحه و ياتيه ملكان فيجلسانه فيقولان من ربک ؟ فيقول ها ها لا ادرى - (منداحمد، حدیث البراء بن عازب، ج ۵، ص ۳۶۲، نمبر ۱۸۰۲۳ / ابو داود شریف، باب المسألة في القبر و عذاب القبر، نمبر ۶۷۲)

ترجمہ۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ ہم حضورؐ کے ساتھ ایک جنازے میں نکلے۔۔۔ آپ نے فرمایا کہ مردے کے جسم میں روح لوٹا دی جاتی ہے، پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، وہ دونوں فرشتے مردے کو بیٹھاتے ہیں، اور پوچھتے ہیں تمہارا رب کون ہے، وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔۔۔ مردے کی روح لوٹائی جاتی ہے، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بیٹھاتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں تمہارا رب کون ہے، مردہ کہتا ہے، ہائے مجھے چھپتے نہیں ہے اس حدیث میں ہے کہ قبر میں ہر آدمی کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور فرشتہ اس سے سوال کرتے ہیں، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جسم اور روح دونوں کو عذاب، یا ثواب ہوتا ہے، صرف روح یا صرف جسم کو نہیں۔

12- عن عبد الله بن عمر<sup>رض</sup> ان رسول الله ﷺ قال ان احدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى ان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنـة و ان كان من اهل النار فمن اهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يعيشك الله الى يوم القيـمة - (بخاري شریف، کتاب الجنازہ، باب کلام میت عرض عليه مقعده بالغداة والعشى، ص ۲۲۱، نمبر ۱۳۲۹)

ترجمہ۔ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک جب مرتا ہے تو صبح اور شام جنت میں اس کی رہنے کی جگہ پیش کی جاتی ہے، اگر وہ جنت والوں میں ہے تو جنت کی جگہ، اور اگر وہ جہنم والوں میں ہے تو جہنم کی جگہ پیش کی کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ قیامت میں اٹھائے جانے تک تیری یہ جگہ ہے۔

اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ قبر میں زندہ ہے

13- انه سمع ابا سعيد الخدرى <sup>رض</sup> يقول قال رسول الله ﷺ اذا وضع الجنازة فاحتملها الرجال على اعناقهم فان كانت صالحة قالت قدموني قدمونى و ان كانت غير صالحة قالت يا ولیها این یذهبون بها؟ یسمع صوتها كل شيء الا الانسان و لو سمعها الانسان لصعق - (بخاری شریف، کتاب الجنازہ، باب کلام میت علی الجنازة، ص ۲۲۱، نمبر ۱۳۸۰)۔ ترجمہ۔ حضور نے فرمایا کہ جب جنازہ رکھا جاتا ہے، اور لوگ اس کو اپنے کندھے پر لیجارتے ہوئے ہیں، تو اگر وہ نیک ہے تو کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، اور اگر وہ گناہ گار ہے تو کہتا ہے ہائے افسوس تم کہاں لیجارتے ہو، اس کی آواز انسان کے علاوہ سب سنتے ہیں، اور اگر انسان سن لے تو سب بیہوش ہو جائے۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عام انسان بھی قبر میں زندہ کیا جاتا ہے، اور یہ حیات برزخی ہے، دنیاوی نہیں ہے۔

اس حدیث میں ہے کہ رشتہ داروں پر ہمارے اعمال پیش کئے جاتے ہیں

14۔ سمع انس بن مالک يقول قال النبي ﷺ ان اعمالكم تعرض على اقاربكم و  
عشائركم من الاموات فان كان خيرا استبشروا به و ان كان غير ذالك قالوا اللهم  
لا تتم لهم حتى تهدىهم كما هديتنا۔ (مسند احمد، کتاب مسند انس بن مالک، ج ۳، ص ۶۲۳، نمبر  
(۱۲۲۴)

ترجمہ۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے مردے رشتہ داروں پر پیش کئے جاتے ہیں،  
اگر عمل اچھا ہوتا ہے تو اس سے انکو خوشی ہوتی ہے، اور اگر اعمال اچھے نہیں ہوتے، تو کہتے ہیں کہ اے اللہ  
جس طرح مجھے ہدایت دی اس کو بھی ہدایت دینے سے پہلے موت نہ دینا۔

ان 14 احادیث، اور 2 آیتوں سے ثابت ہوا کہ حضور ﷺ قبر میں زندہ ہیں، اور یہ بھی پتہ چلا  
کہ ان کا جسم بھی محفوظ ہے، ان کو مٹی نہیں کھایا ہے ۔

یہ حیات برزخی ہے، لیکن دنیا سے بہت اعلیٰ ہے

یہ حیات برزخی ہے اس کی دلیل یہ آیتیں ہیں

3۔ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ، لَعَلَّيٌ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ  
كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرُزَخٌ إِلَى يَوْمٍ يُعْثُرُونَ۔ (آیت ۱۰۰، سورت  
المونون ۲۳)۔ ترجمہ۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آ کر کھڑی ہو گی تو وہ یہ کہے گا کہ:  
میرے رب مجھے واپس بھیج دیجئے تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں جا کر نیک عمل کروں، ہرگز  
نہیں یہ تو ایک بات ہی بات ہے جو زبان سے کہہ رہا ہے، اور ان مرنے والوں کے سامنے عالم برزخ  
کی آڑ ہے جو اس وقت تک قائم رہے گی جب تک انکو دوبارہ زندہ کر کے نہ اٹھایا جائے  
اس آیت میں ہے کہ مرنے والے برزخ میں ہوتے ہیں، اور بد اعمال لوگ دنیا میں واپس آنے کی  
گزارش کریں گے لیکن انکو یہاں آنے نہیں دیا جائے گا۔

4۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارِ يُعَرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُواً وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ  
السَّاعَةُ أُذْخُلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ (آیت ۳۶، سورت غافر ۴۰)  
ترجمہ۔ اور فرعون کے لوگوں کو بدترین عذاب نے آگھیرا، آگ ہے جس کے سامنے انہیں صح شام پیش  
کیا جاتا ہے، اور جس دن قیامت آجائے گی اس دن حکم ہو گا کہ فرعون کے لوگوں کو سخت ترین عذاب  
میں داخل کر دو۔

اس آیت میں ہے کہ عذاب کا معاملہ عالم برزخ میں ہو گا، اس لئے یہ حیات برزخی ہے۔

۵۔ وَلَوْ تَرَى إِذَا الظَّالِمُونَ فِي عَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةِ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا  
أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرُ الْحَقِّ - (آیت  
۹۳، سورت الانعام)

ترجمہ۔ اور اگر تم وہ وقت دیکھو تو براہو ناک منظر نظر آئے گا جب ظالم لوگ موت کی ختنیوں میں گرفتار ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہہ رہے ہوں گے اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس لئے کہ تم جھوٹی باتیں اللہ کے ذمے لگاتے تھے

۶۔ وَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ سَنَعْدِدُهُمْ مَرَتَّيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى  
عَذَابٍ عَظِيمٍ - (آیت ۱۰، سورت التوبۃ ۹)

ترجمہ۔ اور مدینے کے باشندوں میں بھی منافق ہیں، یہ لوگ مذاقت میں اتنے ماہر ہو گئے ہیں کہ انہیں نہیں جانتے، انہیں ہم جانتے ہیں، ان کو ہم دو مرتبہ سزا دیں گے، [ایک روح نکالتے وقت، اور دوسرا قبر میں] پھر ان کو ایک زبردست عذاب کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔

۷۔ وَ يُبَشِّرُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقُوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ وَ يُضْلِلُ اللَّهُ  
الظَّالِمِينَ وَ يَعْنِلُ مَا يَشَاءُ - (آیت ۲۷، سورت ابراہیم ۱۲)۔ ترجمہ۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ ان کو اس مضبوط بات پر دنیا کی زندگی میں بھی جما و عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی [یعنی قبر میں بھی]۔

۸۔ اَنَّ الْابْرَارَ لِفِي نَعِيمٍ ، وَ اَنَّ الْفَجَارَ لِفِي جَحِيمٍ - (آیت ۸۲، سورت الانفطر ۱۳)

ترجمہ۔ یقین رکھو کہ نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے، اور بد کار لوگ ضرور دوزخ میں ہوں گے۔

ان ۶ آیتوں سے پتہ چلا کہ انسان کو قبر میں زندہ کیا جاتا ہے، پھر اس کو سزا دی جاتی ہے، یا نعمت دی جاتی ہے۔ اور پہلے ۱۴ حدیثوں سے بھی یہی ثابت کیا گیا تھا۔

## دنیوی اعتبار سے حضور ﷺ کا انتقال ہو چکا ہے

البته آپؐ قبر میں جسد اطہر کے ساتھ زندہ ہیں، جو دنیوی حیات سے بھی اعلیٰ ہے  
حضرت کا دنیوی انتقال ہو چکا ہے، اس کی دلیل یہ آیت ہے

15۔ ان عائشہؓ اخیرتہ قالت اقبل ابو بکر ..... فقال اما بعد فمن كان منكم يعبد  
محمدًا ﷺ فان محمدًا قد مات ، و من كان يعبد الله فان الله حي لا يموت ، قال  
الله تعالى . ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ  
أَنْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ، وَمَنْ يَنْقُلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهُ شَيْئًا وَسِيَّجَزِيَ اللَّهُ  
الشَاكِرِين﴾ آیت ۱۲۳، سورۃ آل عمران (۳) (بخاری شریف، باب الدخول علی لمیت بعد الموت اذا  
أُدْرِجَ فِي الْكَفَافَةِ، ص ۱۹۹، نمبر ۱۲۳۱، ابن ماجہ شریف، باب ذکر وفاتہ و دفعہ ﷺ، ص ۲۳۲، نمبر ۱۲۲۷)

ترجمہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، کہ حضرت ابو بکرؓ باہر سے تشریف لائے۔۔۔ پھر فرمایا کہ اما بعد تم میں  
سے جو محمدؐ کی عبادت کرتا ہو، تو محمدؐ ﷺ کا انتقال ہو چکا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہو، تو اللہ زندہ  
ہے اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، پھر آیت پڑھی (محمدؐ ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بہت سے  
رسول گزر چکے ہیں، بھلا اگر ان کا انتقال، یا نہیں قتل کر دیا جائے تو کیا تم اٹھے پاؤں پھر جاؤ گے، اور جو  
کوئی اٹھے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کو ہرگز نقصان نہیں پہونچا سکتا، اور جو شکر گزار بندے ہیں اللہ ان کو  
ثواب دے گا)

اس حدیث میں اور آیت میں ہے کہ حضور ﷺ کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضرت ابو بکرؓ نے بھی اسی انداز  
میں لوگوں کو خطاب کیا

9۔ إِنَّكَ مَيْتٌ وَإِنَّهُمْ مِيَتُونَ (آیت ۳۰، سورۃ الزمر ۳۹)

ترجمہ۔ اے پیغمبر موت تمہیں بھی آنی ہے اور موت انہیں بھی آنی ہے۔  
اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضورؐ سے فرماتے ہیں کہ آپ کا بھی انتقال ہو جائے گا، اور وہ کفار بھی مریں گے۔

10۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيَتُونَ۔ (آیت ۱۵، سورۃ المؤمنون ۲۳)

ترجمہ۔ پھر اس سب کے بعد تمہیں یقیناً موت آنے والی ہے۔

16۔ عن جابر بن عبد الله قال لما مات النبي ﷺ جاء ابا بكر مال من قبل العلاء الحضرمي۔ (بخاري شريف، كتاب الشهادات، باب ص ۲۳۳، نمبر ۲۶۸۳)

ترجمہ۔ جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں جب حضورؐ کا انتقال ہوا تو علام حضرتؐ کی جانب سے حضرت ابو بکرؓ کے پاس مال آیا۔

17۔ عن عائشة قالت مات النبي ﷺ انه لبين حاقنتى و ذاتنى۔ (بخاري شريف، كتاب المغازي، باب مرض النبي ووفاته ، ص ۵۵۷، نمبر ۲۳۲۶)

ترجمہ۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا جب حضورؐ کا انتقال ہوا تو وہ میرے ہنسی اور تھوڑی کے درمیان تھے ان دونوں حدیثوں میں ہے، مات النبی ﷺ، یعنی حضورؐ کا انتقال ہو گیا۔

ان 2 آئیوں اور 3 حدیثوں سے ثابت ہوا کہ دنیوی اعتبار سے آپ کا انتقال ہو چکا ہے یوں بھی ظاہری طور پر حضور کا انتقال ہو گیا ہے، اسی لئے تو آپؐ کو دفن کیا گیا، اگر وہ دنیا میں ہوتے تو دفن نہیں کیا جاتا۔

کچھ حضرات نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ  
مومن کی روح دنیا میں بھی پھرتی ہے

ان کا استدلال اس قول صحابی سے ہے۔

18- عن عبد الله بن عمر و [بن العاص] قال الدنيا سجن المومن و جنة الكافر ،  
فإذا مات المومن يخلّى به يسرح حيث شاء - (مصنف ابن أبي شيبة، باب كلام عبد اللہ بن  
عمر، ج ۷، ص ۲۶۵ نمبر ۵۷۶)

ترجمہ۔ حضرت عمر بن العاص نے فرمایا کہ دنیا مومن کی قید ہے، اور کافر کی جنت ہے، پس جب مومن  
مرتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے اور جہاں چاہتا ہے گھومتا ہے  
اس قول صحابی میں ہے کہ یسرح حيث شاء، کہ جہاں چاہتے ہیں وہ جاتے ہیں، جس سے انہوں نے  
استدلال کیا کہ وہ دنیا میں بھی ادھراً درجاتے ہیں۔  
لیکن اس میں تین کمزوریاں ہیں۔

[۱]۔۔ یہ صحابی کا قول ہے، یہ حدیث نہیں ہے، اس لئے اس سے اعتقاد ثابت نہیں کیا جاسکتا۔

[۲]۔۔ اس میں، الدنیا سجن المومن، کا جملہ ہے، اسلئے دنیا جب قید خانہ ہے تو وہ بیہاں آکر پھر  
قید خانہ میں کیوں آئیں گے اس لئے حیث شاء کا مطلب یہ نہیں ہو گا کہ وہ دنیا میں پھرتے ہیں، بلکہ  
مطلوب یہ ہو گا کہ وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں پھرتے ہیں۔ کیونکہ اس قول صحابی میں دنیا کی تصریح  
نہیں ہے [۳]۔۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت جعفر شہیدؑ کے بارے میں اس کی صراحت ہے کہ  
وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں اڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اس لئے اس قول صحابی سے روح کے دنیا میں  
پھرنے کا ثبوت نہیں ہو گا

جنت میں جہاں چاہتے ہیں گھومتے ہیں اس کے لئے حدیث یہ ہے۔

19۔ عن ابی هریرۃ قال قال رسول الله ﷺ رأیت جعفرًا یطیر فی الجنة مع الملائکة۔ (ترمذی شریف، کتاب المناقب، باب مناقب جعفر بن طالب، ص ۸۵۵، نمبر ۲۲۶)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ میں نے جعفرؓ کو دیکھا کہ فرشتوں کے ساتھ جنت میں اثر رہے ہیں اس حدیث میں ہے کہ حضرت جعفرؓ جنت میں جہاں چاہتے ہیں پھرتے ہیں۔ اسلئے عبداللہ بن عمر کے قول کا مطلب بھی یہی ہو گا کہ مومن موت کے بعد جنت میں پھرتے ہیں، دنیا میں پھرنا ثابت نہیں ہو گا

20۔ عن مسروق قال سأَلْنَا عَبْدَ اللَّهِ الْوَادِيَ عَنْ مَسْعُودٍ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ ﴿وَلَا تَحْسِنْ

الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امواتاً بَلْ احْياءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرِزَقُونَ﴾ (آل عمران، ۱۶۹)

قال اما انا قد سأَلْنَا عَنْ ذالِكَ فَقَالَ أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيرٍ خَضُرٍ لَهَا قَنَادِيلٌ مَعلقةً بالعرش تسرح من الجنة حيث شائت ثم تأوى الى تلك القناديل۔ (مسلم شریف، کتاب الامارة، باب بیان ان ارواح الشہداء فی الجنة و انهم احياء عند ربهم يرزقون، ص ۸۳۵، نمبر ۳۸۸۵/۱۸۸۷)

ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے میں نے اس آیت کے بارے میں پوچھا (کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوتے ہیں ان کو مردہ تصحیح، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس روزی ہے جاتے ہیں) ، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میں نے اس آیت کے بارے میں حضور سے پوچھا تھا، تو حضورؓ نے فرمایا تھا کہ شہداء کی رو میں سبز پرندے کے پیٹ میں ہوتے ہیں، عرش کے نیچے اگئی قندیلیوں کی ہوتی ہیں، وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتے ہیں

اس حدیث میں بھی ہے کہ جنت میں جدھر چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، دنیا میں ادھر ادھر پھرنے کا ثبوت نہیں ہو گا

دوزخی دنیا میں آنے کی گزارش بھی کریں گے تو اس کو یہاں نہیں آنے دیا جائے گا

اس آیت میں ہے کہ برزخی لوگ دنیا میں واپس آنے کی گزارش کریں گے تب بھی اس کو دنیا میں واپس نہیں آنے دیا جائے گا، تو یہ روحیں دنیا میں کیسے بھٹکنے لگی آیت یہ ہے۔

11- حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجُعُونِ ، لَعَلَىٰ أَعْمَلٍ صَالِحٍ فِيمَا تَرَكَ  
كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَ مَنْ وَرَأَهُمْ بَرُزَخٌ إِلَى يَوْمٍ يُعَثُّونَ - (آیت ۱۰۰، سورت  
المؤمنون (۲۳)

ترجمہ۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آ کر کھڑی ہوگی تو وہ یہ کہے گا کہ: میرے رب مجھے واپس بھیج دیجئے تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں جا کر نیک عمل کروں، ہرگز نہیں یہ تو ایک بات ہی بات ہے جو زبان سے کہہ رہا ہے، اور ان مرنے والوں کے سامنے عالم برزخ کی آڑ ہے جو اس وقت تک قائم رہے گی جب تک انکو دوبارہ زندہ کر کے نہ اٹھایا جائے اس آیت میں ہے کہ دو زخی دنیا میں آنے کی درخواست بھی کریں گے تو انکو آنے کی اجازت نہیں ہوگی تو پھر ان مردوں کی روحیں کیسے دنیا میں آ کر گھومے گی، اور صدقات مانگے گی۔ ان 2 آیتیں اور ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روحیں جنت میں ادھراً پھرتی ہیں، دنیا میں نہیں

اس عقیدے کے بارے میں 11 آیتیں اور 20 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ اس کی دیوی، دیوتا جدھر چاہتے ہیں

## دنیا میں گھومتے رہتے ہیں

ہندوؤں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی دیوی، دیوتا کی روئیں دنیا میں گھومتی رہتی ہیں وہ مورتی کے اندر آتی ہیں اور اپنے مانگنے والوں کی ضرورتوں کو سنتی ہیں، اور اس کی مدد کرتی ہیں اُنکے یہاں مختلف دیوی ہیں جو مختلف مندوں میں اور مختلف پہاڑوں پر بسیرا کرتی ہیں، اس لئے اپنے ماننے والوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ اس پہاڑ کی یا ترا [زیارت کریں] اور اس کا درشن کریں [اس کا دیدار کریں]، لوگ ان دیویوں کی محبت میں اس کی زیارت کرنے جو حق درجوق جاتے ہیں، اور وہاں سجدہ کرتے ہیں، پوچا کرتے ہیں اور ان سے اپنی اپنی حاجتیں مانگتے ہیں

اس نکتہ پر غور فرمائیں

## ۸۔ حاضر ناظر

حضرور ﷺ ہر جگہ حاضر نہیں ہیں

اس عقیدے کے بارے میں 34 آیتیں اور 13 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

### حاضر کی تین قسمیں ہیں

[۱] زندگی میں حضور بہت سی جگہ پر حاضر تھے۔

[۲] آخرت میں بہت سی جگہ پر حاضر ہوں گے

[۳] لیکن حضور ہر جگہ حاضر ہوں، اور ہر چیز کو دیکھ رہے ہوں، مثلاً آج زید موجود ہے، انکی تمام  
حالتوں کو حضور دیکھ رہے ہوں، اور زید کے پاس موجود بھی ہوں، یہ صفت صرف اللہ کی ہے، رسول میں  
یہ صفت نہیں ہے۔

## ہر جگہ حاضر ہنا، اور ہر چیز کو ہر وقت دیکھے رہنا صرف اللہ کی صفت ہے

اللہ علم کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر ہیں  
اس کے لئے یہ آیتیں ہیں۔

- 1- هُوَ مَعْلُومٌ أَيْنَمَا كُوْتِمْ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ (آیت ۲، سورت الحدید ۵)
- ترجمہ۔ تم جہاں بھی اللہ تھما رے ساتھ ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو خوب دیکھ رہا ہے
- 2- وَ لَا أَدْنَى مِنْ ذَالِكَ وَ لَا أَكْثَرٌ إِلَّا هُوَ مَعْهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا۔ (آیت ۷، الجادۃ ۵۸)
- ترجمہ۔ اس سے کم ہوں یا زیادہ وہ جہاں بھی ہوں اللہ انکے ساتھ ہوتا ہے
- 3- إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزُنْ أَنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ (آیت ۳۰، سورت التوبۃ ۹)
- ترجمہ۔ جب حضور اپنے ساتھی حضرت ابو بکرؓ سے کہہ رہے تھے، غم مت کرو، اللہ تھما رے ساتھ ہیں
- 4- فَلَا تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَى السَّلْمٍ وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنُ وَ اللَّهُ مَعْكُمْ۔ (آیت ۳۵، محمد ۷)
- ترجمہ۔ اے مسلمانوں تم کمزور پڑ کر صلح کی دعوت نہ دو، تم ہی سر بلند ہو گے، اللہ تھما رے ساتھ ہے
- 5- وَ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ (آیت ۱۸۶، سورت البقرۃ ۲)
- ترجمہ۔ اے حضور جب آپ سے میرا بندہ پوچھتا ہے، تو کہہ دو کہ میں بہت قریب ہوں
- 6- وَ نَعْلَمُ مَا تُوَسُّعُ بِهِ نَفْسُهُ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ (آیت ۱۶، ق ۵۰)
- انسان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں انکو بھی جانتا ہوں اور ان کے شرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں
- ان 6 آیتوں میں ہے کہ اللہ ہر جگہ تھما رے ساتھ ہے، اس لئے حاضر ناظر کی صفت صرف اللہ کی ہے

## اللہ ہر چیز کو اور ہر بندے کی حالت کو دیکھنے والے ہیں یعنی اللہ ناظر ہے

اس کے لئے یہ آیتیں ہیں

7۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ (آیت ۱۵، سورت آل عمران ۳)

8۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ (آیت ۲۰، سورت آل عمران ۳)

ترجمہ۔ اور تمام بندوں کو اللہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے

9۔ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ (آیت ۲۳۳، سورت البقرۃ ۲)

10۔ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ (آیت ۲۳۷، سورت البقرۃ ۲)

11۔ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ (آیت ۲۶۵، سورت البقرۃ ۲)

ترجمہ۔ اور یقیناً جان لو کہ اللہ تمہارے سارے کاموں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے

12۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ (آیت ۱۵۶، سورت آل عمران ۳)

13۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ (آیت ۱۶۳، سورت آل عمران ۳)

14۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ (آیت ۳۹، سورت الانفال ۸)

ترجمہ۔ اور تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب اچھی طرح دیکھتا ہے

ان 8 آیتوں میں ہے کہ اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، یعنی وہ ناظر ہے

اس لئے حاضرناظر کی صفت صرف اللہ کی ہے۔

نوٹ: دیکھنے کی کیفیت اور حاضر کی کیفیت کیا ہے یا اللہ ہی جانے، یا سی کی شان کے مناسب ہے

ان آیتوں میں ہے کہ حضور اُن جگہوں پر حاضر نہیں تھے۔

ان آیتوں میں ہے کہ دنیا میں فلاں فلاں جگہ پر حاضر نہیں تھے، اس آیت میں شاہد کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور آخرت میں بھی آپ کہیں گے میں فلاں جگہ حاضر نہیں تھا، تو ان ۵ آیتوں کے ہوتے ہوئے اور ۶ حدیثوں کے ہوتے ہوئے یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ حضور حاضر ناظر ہیں ؟  
ان آیتوں پر غور کریں

آیتیں یہ ہیں

۱۵۔ وَ مَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرَبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرِ وَ مَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ۔  
(آیت ۲۲، سورت قصص ۲۸)

ترجمہ۔ آے پیغمبر آپ اس وقت کوہ طور کی مغربی جانب حاضر نہیں تھے جب ہم نے موتی کو احکام پرداز کئے تھے، اور آپ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اس کو دیکھ رہے تھے۔

۱۶۔ وَ مَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْنَا دِينًا۔ (آیت ۲۶، قصص ۲۸)

ترجمہ۔ اور آپ اس وقت طور کے کنارے نہیں تھے جب ہم نے موتی کو پکارا تھا،

۱۷۔ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقَوْنَ أَقْلَامَهُمْ أَيْهُمْ يُكَفَّلُ مَرِيمَ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ (آیت ۳۳، سورت آل عمران ۳)

ترجمہ۔ آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ یہ طے کرنے کے لئے اپنے اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، اور نہ اس وقت تم ان کے پاس تھے جب وہ اس مسئلے میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے۔

18۔ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَ هُمْ يَمْكُرُونَ۔ (آیت ۱۰۲، سورت یوسف ۱۲)

ترجمہ۔ اور آپ اس وقت یوسف کے بھائیوں کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے سازش کر کے اپنا فیصلہ پختہ کر لیا تھا۔

19۔ وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتَ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتِنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ وَ أَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (آیت ۷۱، سورت المائدۃ ۵)۔

ترجمہ۔ اور جب تک میں اُنکے درمیان موجود رہا میں اُنکے حالات سے واقف رہا، پھر جب آپ نے مجھے وفات دے دی تو آپ خود اُنگرائ تھے، اور آپ ہر چیز کے گواہ ہیں۔

نوٹ: یہ آیت اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، لیکن ایک حدیث میں حضور نے بھی علمی ظاہر کی ہے، اور اسی آیت کو پڑھی ہے، اس لئے یہ آیت حضور ﷺ کے بارے میں بھی ہو گئی۔ وہ حدیث علم غیریب کی بحث میں آئے گی۔

ان ۵ آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ان جگہوں پر حاضر نہیں تھے بلکہ آپ آخرت میں بھی اقرار کریں گے کہ میں مرنے کے بعد ان امتوں کے پاس حاضر نہیں رہا تو آپ ہر جگہ حاضرناظر کیسے ہو گئے۔

نوٹ: یہ مسئلہ عقیدے کا ہے، اس لئے حضور ﷺ کو حاضرناظر ثابت کرنے کے لئے کوئی صریح آیت، یا کوئی کمی حدیث لانی ہو گی، جس سے صراحت کے ساتھ یہ ثابت ہوتا ہو کہ آپ ہر جگہ حاضرناظر ہیں، یا قبر میں رہ کر بھی حاضرناظر ہیں، صرف خواب کی باتوں، یا لفظی بحثوں، یا بزرگوں کی باتوں سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، یہ مسلمہ قاعدہ ہے۔

## احادیث میں ہے کہ حضور ﷺ وہاں حاضر نہیں تھے

ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں بھی بہت سی جگہ پر حاضر نہیں تھے، اور قیامت میں بھی اس کا اظہار کریں گے، کہ میں انتقال کے بعد میں اپنی قوم میں موجود نہیں رہا، اور انکے احوال بھی مجھے معلوم نہیں ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور حاضر ناظر نہیں ہے، ہاں جو بات آپ کو بتادی گئی وہ آپ کو معلوم ہیں۔ اور جو باتیں حضور ﷺ بتائی گئی ہیں وہ اولین اور آخرین سے زیادہ ہیں

- حدیث معراج میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے بیت المقدس کو حضور ﷺ کے سامنے کر دیا جس کی وجہ سے اس کو دیکھ کر قریش کو جواب دیتے رہے، جس سے معلوم ہوا کہ آپ حاضر ناظر نہیں ہیں، اگر آپ حاضر اور ناظر ہوتے تو بیت المقدس کو آپ کے سامنے حاضر کرنے کی ضرورت کیا ہے، آپ تو بیت المقدس کے پاس موجود ہی ہیں، اور آپ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں

1- حدیث یہ ہے۔ سمعت جابر بن عبد اللہ رض اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ لَمَا كذبنا فريش قمت في الحجر فجلى الله لى بيت المقدس فطفقت اخبرهم عن آياته وانا انظر اليه۔ (بخاري شريف، كتاب مناقب الانصار، باب حدیث الاسراء، ج ۲، نمبر ۶۵۲)

(۳۸۸۶)

ترجمہ۔ حضرت جابر بن عبد اللہ نے حضور ﷺ سے سنا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب قریش نے مجھے معراج کے موقع پر جھٹلا یا تو میں حطمیں میں کھڑا ہوا، اللہ نے میرے لئے بیت المقدس واضح کر دیا، میں اس کو دیکھتا رہا اور انکی نشانیوں کے بارے میں قریش کو بتاتا رہا۔

حضور کی بیوی حضرت عائشہؓ پر منافقین نے تہمت لگائی، جس کی وجہ سے تقریباً ایک ماہ تک حضورؐ پر پیشان رہے، پھر حضرت عائشہؓ کی برأت میں سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئیں تب حضورؐ کو اطمینان ہوا۔ اگر حضورؐ حاضر ناظر تھے تو ایک ماہ تک پر پیشان ہونے کی ضرورت کیا تھی، آپ کو معلوم ہو جانا تھا کہ حضرت عائشہؓ بری ہیں۔ اس کے لئے حدیث یہ ہے۔

2- عتبہ بن مسعود عن عائشہؓ رضی اللہ عنہا زوج النبی ﷺ حین قال لها اهل الافک ما قالوا ..... وقد لبث شهرا لا يوحى اليه في شأنی بشيء قالت فتشهد رسول الله ﷺ حین جلس ثم قال اما بعد يا عائشة انه بلغنى عنك كذا كذا فان كنت بريئة فسييرئك الله و ان كنت الممت بذنب فاستغفرى الله و توبى اليه ..... و انزل الله تعالى ﴿اَنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْأَفْكَرِ عَصَبَةٌ مِّنْكُمْ﴾ [آیت ۱۱، سورت النور ۱۸] (بخاری شریف، کتاب المغازی، باب حدیث الافک، ص ۱۰۷، نمبر ۲۱۳۲، مسلم شریف، کتاب التوبۃ، باب فی حدیث الافک و قبول التوبۃ، ص ۱۲۰۵، نمبر ۲۷۰۷)

ترجمہ۔ حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ، تہمت لگانے والوں جو کچھ ان سے کہا۔۔۔ حضورؐ ایک میہنے تک ٹھہرے رہے میرے بارے میں کوئی وحی نہیں آئی، پھر فرماتی ہیں جب حضورؐ بیٹھے تو انہوں نے تشهید پڑھی، پھر کہا اما بعد، آے عائشہ تمہارے بارے میں مجھے یہ یہ بتیں پہچھی ہیں، اگر تم بری ہو تو اللہ تمہیں بری کر دیں گے، اور اگر تم نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اللہ سے استغفار کرو اور توبہ کرو۔۔۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں یہ آیت اتاری ﴿جَنَّ لُوَگُوْنَ نَتَهَمَّتَ لَگَائِي وَهَچْحُولِي سَيِّ جَمَاعَتَ ہے۔ اخْ

آپ حاضر ناظر تھے تو آپ کو اپنی چیتی بیوی حضرت عائشہؓ کی برائیت کا علم کیوں نہیں ہو گیا۔

ان احادیث میں بھی ہے کہ مجھے لوگوں کا سلام پہنچایا جاتا ہے۔ اگر پوری کائنات آپکے سامنے ہے اور

آپ حاضرناظر ہیں تو سلام پہنچانے کی ضرورت کیا ہے، آپ کے تو سامنے ہی سلام ہو رہا ہے

3۔ عن عبد الله قال قال رسول الله ﷺ ان لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونى من امتي السلام۔ (نسائی شریف، کتاب السهو، باب التسلیم علی النبی ﷺ، ص ۱۷۹، نومبر ۱۲۸۳ھ)

ترجمہ۔ اللہ کے لئے زمین میں پھرنے والے فرشتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں۔

4۔ قال قال رسول الله ﷺ حياتي خير لكم تحدثون و نحدث لكم ، و وفاتي خير لكم تعرض على اعمالكم فما رأيت خيرا حمدت الله و ما رأيت من شر استغفرت الله لكم ۔ (مندرالبزر، باب زاذان عن عبد الله، ج ۵، ص ۳۰۸)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا میری زندگی تمہارے لئے بہتر ہے، تم لوگ مجھ سے باتیں کرتے ہو، میں تم لوگوں سے باتیں کر لیتا ہوں [اور حدیث بن جاتی ہے] اور میری وفات بھی تمہارے لئے بہتر ہے، تمہارے اعمال مجھ پر پیش کئے جائیں گے، اگر میں ان میں اچھی بات دیکھوں گا تو اللہ کی حمد کروں گا، اور کوئی بڑی بات دیکھوں گا، تو میں تمہارے لئے استغفار کروں گا

ان احادیث سے پتہ چلا کہ [۱]۔ حضور قبر میں زندہ ہیں [۲]۔ اور ان پر امت کے اعمال پیش کئے جاتے ہیں۔ [۳]۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ حضور حاضرناظر نہیں ہیں اور نہ پوری کائنات آپ کے سامنے ہے ورنہ اعمال پیش کئے جانے کی ضرورت کیا ہے۔

آپ حاضر ناظر نہیں ہیں۔ اس کی دلیل یہ حدیث ہے۔

5۔ عن ابی هریرۃ قال قال رسول الله ﷺ لا تجعلوا بيوتکم قبورا ، و لا تجعلوا قبری عیدا ، و صلوا على فان صلاتکم تبلغنی حيث كنتم ۔ (ابوداود شریف، کتاب المناسک، باب زیارت القبور، ص ۲۹۶، نمبر ۲۰۳۲)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبر کی طرح مت بناؤ [کہ اس میں کوئی عبادت ہی نہ کرو] اور میری قبر کو عید منانے کی طرح مت بناؤ، اور مجھ پر درود پہنچا کرو، تم جہاں بھی ہو مجھ پر تمہارا درود پہنچایا جاتا ہے۔

ان احادیث میں ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ تھمارا سلام پہنچایا جاتا ہے۔ اگر حضور حاضر ناظر ہیں تو فرشتوں کو سلام پہنچانے کی کیا ضرورت ہے

اس حدیث میں ہے کہ قیامت میں بھی آپ حاضر ناظر نہیں ہوں گے ورنہ غیر صحابی کو بھی صحابی کیسے سمجھ لیں گے،

6۔ عن ابن عباس ..... الا و انه ي جاء ب رجال من امتى في ي خذ بهم ذات الشمال  
فاقول يا رب أصيحي بي في قال انك لا تدرى ما احدثوا بعدك فاقول كما قال العبد  
الصالح ﴿ و كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب  
عليهم ﴾ في قال ان هولاء لم يزالوا مرتدین على اعقابهم منذ فارقتهم ۔ (بخاری شریف،  
کتاب الشفیر، باب و كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم ص ۱۹۱، نمبر ۲۶۲۵ مسلم شریف، کتاب الفھائل  
باب اثبات حوض نبینا ﷺ وصفاته ص ۱۰۱۸، نمبر ۲۳۰۷)

ترجمہ۔ حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے۔۔۔ قیامت میں حضورؐ کی امتی کے کچھ لوگ لائے جائیں

گے جنکی بد اعمالیاں انکو پکڑ چکی ہوں گی، حضور ﷺ کہیں گے میرے رب یہ میرے صحابی ہیں، تو آپ کو کہا جائے گا، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کی وفات کے بعد انہوں نے کیا کام کیا ہے [یعنی یہ مرتد ہو چکے تھے]، تو حضور کہتے ہیں کہ میں وہی بات کہوں جو ایک نیک بندے [حضرت عیسیٰ] نے کہا تھا، کہ جب تک میں انکے درمیان رہتا تو میں ان کا گواہ رہا، اور جب آپ نے مجھے وفات دی تو آپ ہی انکے مگر اس ہیں۔ فرشتے حضور گواطلاع دیں گے کہ جب آپ ان لوگوں سے جدا ہوئے تھے تو یہ لوگ مرتد ہو گئے تھے

اگر آپ حاضر ناظر ہوتے تو آپ کیوں نہ جان لیتے کہ یہ آدمی میرا صحابی نہیں رہا۔

ان 6 حدیثوں سے معلوم ہوا کہ آپ حاضر ناظر نہیں ہیں، اور نہ پوری کائنات کو آپ کے سامنے کر دی گئی ہے کہ آپ ساری چیزوں کو دیکھ لیں، ہال آپ قبر میں اپنے جسم اٹھر کے ساتھ زندہ ہیں، اور جو لوگ آپ پر سلام اور درود پیش کرتے ہیں، فرشتے اس کو آپ تک پہنچا دیتے ہیں، حدیث سے یہی ثابت ہے

اور جب تک آیت، یا کپی حدیث سے حاضر ناظر ثابت نہ ہو، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اس لئے خواب کی باتوں، یا لوگوں کے اقوال سے اتنے بڑے معاملے کو ثابت نہیں کیا جاسکتا ہے

## قیامت میں گواہی دینے کے لئے امت کا، یا نبی کا حاضر ناظر ہونا ضروری نہیں ہے

آگے تین آیتیں پیش کی جا رہی ہیں، اور عبد اللہ بن عباس کی تفسیر کے اعتبار سے تینوں آیتوں میں شاہد اہل کتاب کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ ﷺ قیامت میں یہ گواہی دیں گے، کہ میں نے اپنی امت پر رسالت پہنچادی ہے، اور دوسری امت پر بھی گواہی دیں گے کہ انکے نبیوں نے اپنی اپنی امتوں پر رسالت پہنچادی ہیں، اس لئے شاہد اہل کتاب کا ترجمہ گواہی دینے کا ہے، حاضر ناظر کا نہیں ہے یہ اشکال کہ گواہی دینے کے لئے امت کی حالتوں کو دیکھنا ضروری ہے، تب ہی تو حالات کو دیکھ کر گواہی دی جاسکے گی، اس لئے حضور ﷺ کو تمام حالات کی خبر ہے، یہ اشکال صحیح نہیں ہے، بلکہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ تمام نبیوں نے اپنی اپنی امت کو رسالت پہنچادی ہے، اللہ کی اسی خبر پر اعتماد کر کے حضور بھی گواہی دیں گے، اور حضور ﷺ نے اپنی امت کو بتایا ہے کہ تمام رسولوں نے اپنی اپنی امت کو رسالت پہنچا دی ہے اس لئے اسی پر اعتماد کرتے ہوئے امت محمدیہ بھی گواہی دے گی کہ تمام رسولوں نے اپنی اپنی امت کو رسالت پہنچادی ہے، اس میں نہ حضور کا حاضر ہونا ضروری ہے اور نہ اس امت کا حاضر ہونا ضروری ہے

اس کے لئے حدیث یہ ہے

7- عن أبي سعيد قال قال رسول الله ﷺ يجي النبى و معه الرجال ويجيء  
النبى و معه الشاة و اكثرا من ذالك و اقل، فيقال له هل بلغت قومك؟ فيقول

نعم فيدعى قومه فيقال هل بلغكم؟ فيقولون: لا، فيقال من شهد لك؟ فيقول محمد و امته ، فيدعى امة محمد فيقال هل بلغ هذا؟ فيقولون نعم فيقول و ما علمكم بذلك؟ فيقولون أخبرنا نبينا بذلك ان الرسل قد بلغوا فصدقناه ، قال فذالكم قوله تعالى ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُنُّا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ آیت ۱۳۲، سورۃ البقرۃ (ابن ماجہ شریف، کتاب الزحمد، باب صفة امۃ محمد ﷺ، ص ۲۲۷، نمبر ۲۲۸)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ کچھ نبی قیامت آئیں گے اور انکے ساتھ دوآدمی ہوں گے ، اور کچھ نبی آئیں گے ، اور انکے ساتھ تین یا زیادہ ادمی ہوں گے ، ان سے پوچھا جائے گا ، کیا آپ نے اپنی قوم کو پورا پیغام پہنچا دیا تھا ، وہ کہیں گے ہاں ، اب ان کی قوم کو بلا یا جائے گا ، اور ان سے پوچھا جائے گا ، کیا تم کو نبی نے پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے نہیں تو ، نبیوں سے پوچھا جائے گا پیغام پہنچانے پر آپ کا گواہ کون ہے ، نبی فرمائیں گے ، محمدؐ اور ان کی امت ، اب محمدؐ کی امت بلائی جائے گی ، اور پوچھا جائے گا ، کیا ان نبیوں نے پیغام پہنچا دیا ہے؟ ، امت محمدیہ کہے گی ہاں ، تو اللہ پوچھیں گے تم کو اس کا کیا پتہ ہے ، تو امت محمدیہ کہے گی ، ہم کو ہمارے نبی نے اس بات کی اطلاع دی تھی کہ تمام نبیوں نے پیغام پہنچا دیا ہے ، اور ہم نے اس کی تصدیق کی ہے [اس لئے ہم مے اس کی گواہی دی] حضورؐ نے اس کی تائید میں یہ آیت پڑھی [وَكَذَلِكَ، إِنْ] ایسے ہی ہم نے تم کو وسط امت بنایا ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو ، اور رسول تم پر گواہ بنے۔

اس حدیث میں ہے کہ حضورؐ نے جو امت کو پیغام پہنچا دینے کی خبر دی تھی اس کی بنیاد پر یہ امت گواہی دے گی ، اس کے لئے حضرنا نظر ہونا ضروری نہیں۔ آپ اس تفصیل کو پورے غور سے دیکھیں

اس حدیث میں بھی گواہی دینے کی پوری تفصیل ہے

8۔ عن ابی سعید قال قال رسول الله ﷺ یحییٰ نوح و امته فیقول اللہ تعالیٰ هل بلغت فیقول نعم ای رب ، فیقول لامته هل بلغکم ؟ فیقولون لا ما جائنا من نبی فیقول لنوح من یشهد لک ؟ فیقول محمد ﷺ و امته فیتشهد انه قد بلغ ، و هو قوله جل ذکرہ ﷺ و کذالک جعلنا کم امة وسطاً لتکونوا شہداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا - (آیت ۱۲۳، سورت بقرہ ۲۵)۔ (بخاری شریف، باب قول اللہ عز و جل، ولقد ارسلنا نوح ای قومہ [آیت ۲۵، سورت ہود ص ۵۵۵، نمبر ۳۳۳۹])

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ قیامت میں نوحؐ اور انی امت لائی جائے گی، اللہ پوچھیں گے کیا تم نے اپنی امت کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، حضرت نوحؐ فرمائیں گے، ہاں! اللہ امتحات سے پوچھیں گے، کیا تم کو رسالت پہنچا دیا، تو وہ کہیں کے کہ ہمارے پاس تو کوئی نبی ہیں نہیں آئے، تو اللہ نوحؐ سے کہیں گے کہ تمہارا گواہ کون ہے؟ تو نوحؐ کہیں گے کہ محمدؐ اور انی امت، تو محمدؐ گواہی دیں گے کہ ہاں حضرت نوحؐ نے پیغام پہنچا دیا تھا، اللہ کے اس قول میں اسی واقعے کا ذکر ہے۔ اسی طرح تم کو وسط امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور رسول [محمدؐ] تم پر گواہ بنیں گے۔

اگر شہید کے لفظ سے حضور کو حاضر ناظر مان لیا جائے تو پھر اس امت کو بھی حاضر ناظر مانا پڑے گا کیونکہ اس کے بارے میں بھی آیت میں ہے ﴿لَتَكُونُوا شُهَدَاءُ عَلَى النَّاسِ﴾، کہ تم لوگوں پر شہید ہوں گے، اور دوسری امتوں کو بھی حاضر ناظر مانا ہوگا، کیونکہ انکے بارے میں بھی آیا کہ، ﴿فَجِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بَشَهِيدٍ﴾، کہ ہر امت میں سے بھی ایک ایک شہید لا اول گا

اصل بات پہلے گزر جکی ہے کہ اللہ نے قرآن میں یہ کہہ دیا ہے کہ پچھلے نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو اللہ کا

پیغام پھو نچا دیا ہے، قرآن کی اس بات پر یقین کرتے ہوئے امت محمدیہ بھی گواہی دے گی کہ تمام نبیوں نے اپنا اپنا پیغام پھو نچا دیا ہے، اور خود بھی گواہی دیں گے کہ سارے نبیوں نے اللہ کا پیغام پھو نچا دیا ہے

اس آیت میں ہے کہ ہر قوم میں اللہ نے رسول بھیجا تھا۔

20۔ وَ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (آیت ۵۲، النور ۲۳)

ترجمہ۔ اور رسول کا فرض اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وہ صاف صاف بات پھنچا دیں

21۔ وَ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (آیت ۱۸، العنكبوت ۲۹)

ترجمہ۔ اور رسول کا فرض اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وہ صاف صاف بات پھنچا دیں

22۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةُ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنُّی وَ بَيْنَكُمْ۔۔۔ (آیت ۱۹، سورت الانعام ۶)

ترجمہ۔ اللہ سے بڑھ کر کون سی چیز گواہی دینے والی ہوگی، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔

اسی خبر پر اعتماد کرتے ہوئے حضور ﷺ اور انکی امت قیامت میں گواہی دیں گے کہ تمام نبیوں نے اپنا اپنا پیغام پھنچا دیا ہے، اس لئے یہ امت اور حضور حاضر ناظر نہیں تھے

## کچھ حضرات نے ان آیتوں سے حاضر ناظر ثابت کی ہیں

کچھ حضرات نے ان 3 آیتوں سے حاضر ناظر ثابت کی ہیں اور دلیل یہ دی ہے کہ حالات دیکھ کر ہی گواہی دی جاتی ہے اور حضور پہچلنے والوں کے لئے گواہی دیں گے اس لئے حضور حاضر ناظر ہو گئے

کچھ حضرات نے شاہد اکا ترجمہ حاضر کیا ہے  
آیت یہ ہے۔

23۔ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْ فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ (آیت ۱۵)  
سورت مزمل (۳۷)۔ ترجمہ۔ جھٹلانے والویقین جانو ہم نے تمہارے پاس تم پر گواہ بننے والا ایک رسول اسی طرح بھیجا، جیسے ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا۔

یہاں شاہد اکا ترجمہ رسالت کو پہنچا دینے کی گواہی ہے، تفسیر ابن عباس میں عبارت یہ ہے ﴿شَاهِدًا عَلَيْكُم﴾ (بالبلاغ) بالبلاغ کی تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ شاہد اکا ترجمہ رسالت پہنچا دینے کی گواہی ہے، کیونکہ فرعون کی طرف جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے وہ بھی رسالت پہنچا دینے کیلئے ہی ہیں

24۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا ۝، وَ دَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ سِرَاجًا مُّنِيرًا۔ (آیت ۲۵، سورت الحزاب ۳۳)۔ ترجمہ۔ آئے نبی! بیشک ہم نے تمہیں ایسا بنا کر بھیجا ہے کہ تم گواہی دینے والے، خوشخبری سنانے والے اور خبردار کرنے والے ہو، اور اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہو، اور روشنی پھیلانے والے چراغ ہو۔

یہاں بھی شاہد اکا ترجمہ رسالت پہنچا دینے کی گواہی کے معنی میں ہے، تفسیر ابن عباس میں اس کی تفسیر

بالبلغ سے کی ہے، ﴿شَاهِدًا﴾ علی امتك بالبلاغ۔ (آیت ۲۵، الحزاب ۳۳) علی امتك بالبلاغ کی تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ شاہدا کا ترجمہ رسالت پہنچا دینے کی گواہی ہے، آگے کی آیت میں ﴿دَاعِيَا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ﴾ ہے، اللہ کی طرف بلانے والا ہے، جس سے رسالت پہنچانے کے معنی کا ثبوت ہے، حاضر ناظر کے معنی میں نہیں ہے۔

25۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَ مُبِشرًا وَ نَذِيرًا۔ (آیت ۸، سورت الفتح ۲۸)

ترجمہ۔ آئے پیغمبر ہم نے تمہیں گواہی دینے والا خوشخبری دینے والا، اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے یہاں بھی تفسیر ابن عباس میں شاہدا کی تفسیر بالبلاغ سے کی ہے، ﴿شَاهِدًا﴾ علی امتك بالبلاغ۔ (آیت ۸، سورت الفتح ۲۸) علی امتك بالبلاغ کی تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ شاہدا کا ترجمہ اللہ کے پیغام پہنچا دینے کی گواہی دینا ہے، حاضر ناظر کے معنی میں نہیں ہے۔

## ہرامت میں سے گواہ لائے جائیں گے تو اس پوری امت کو حاضر ناظر مانا پڑے گا

اگر شہد کے لفظ سے حضورؐ کو حاضر ناظر ثابت کریں تو امّتی بھی قیامت میں دوسرا قوموں پر گواہی دے گی تو اس امّتی کے ہر فرد کو حاضر ناظر مانا پڑے گا، کیونکہ آیت میں ہے کہ یہ امّتی بھی دوسرا قوموں پر گواہ ہو گی، اس لئے شہد کے لفظ سے حضورؐ کو حاضر ناظر ثابت کرنا صحیح نہیں ہے۔ آپ بھی غور کریں

آئیں یہ ہیں

26۔ وَ كَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَ سَطَا لِتُكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ (آیت ۱۲۳، سورت بقرہ ۲)

ترجمہ۔ اور اے مسلمانو! اسی طرح تو ہم نے تم کو ایک معقول امت بنایا ہے تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو، اور رسول تم پر گواہ بنے

27۔ وَ يَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَ جِئْنَابِكَ شَهِيدًا عَلَى هُؤُلَاءِ۔ (آیت ۸۹، سورت انخل ۱۶)

ترجمہ۔ اور وہ دن بھی یاد رکھو جب ہرامت میں ایک گواہ نہیں میں سے کھڑا کریں گے، اور اے پیغمبر! ہم تمہیں ان لوگوں کے خلاف گواہی دینے کے لئے لائیں گے

28۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَ جِئْنَابِكَ عَلَى هُؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ (آیت ۷۱، سورت نساء ۲۴) ترجمہ۔ کیا حال ہو گا جب ہم ہرامت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے، اور اے

پیغمبر ہم تم کو ان لوگوں کے خلاف گواہ کے طور پر پیش کریں گے۔

29- لَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَ تَكُونُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ (آیت ۸۷، سورت الحج) ۲۲) ترجمہ۔ تاکہ یہ رسول تمہارے لئے گواہ بنیں اور تم [یہ امت] دوسرا لوگوں کے لئے گواہ بنو۔

30- يَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا۔ (آیت ۸۳، انخل ۱۶)

ترجمہ۔ اس دن کو یاد کرو جس دن ہرامت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے۔

31- وَنَزَّلْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ۔ (آیت ۵۷، سورت القصص) ۲۸)

ترجمہ۔ اور ہم ہرامت میں سے ایک گواہی دینے والا انکال لائیں گے، پھر کہیں گے کہ لا اؤ اپنی کوئی دلیل

ان 6 آیتوں میں ہے کہ ہرامت میں سے گواہ لائیں گے تو وہ تمام امتی بھی حاضر ناظر ہو جائے گی، صرف ایک رسول حاضر ناظر نہیں رہیں گے۔۔۔ آیتوں پر غور کر لیں

## شہد کے تین معانی ہیں

اس لئے سیاق و سبق دیکھ کر آیت کا ترجمہ کرنا ہوگا۔ تاکہ دوسری آیتوں سے اس کا معنی لکھ رکھا جائے  
[۱]۔ گواہی دینا۔

[۲]۔ موجود ہونا اور دیکھنا

[۳]۔ گواہوں کا تزکر کرنا، اور یہ کہنا کہ ان گواہوں نے سچ کہا ہے۔

[۱] شہد کا معنی گواہی دینا اس آیت میں ہے

32۔ وَشَهَدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا۔ (آیت ۲۶، یوسف ۱۲)

ترجمہ۔ حضرت زلیخا کے اہل میں سے ایک بچے نے گواہی دی۔

اس آیت میں شہد کا ترجمہ صرف گواہ دینا ہے، کیونکہ بچے نے حضرت یوسفؑ کو زلیخا کے کمرے میں نہیں دیکھا تھا، اس لئے اس آیت میں شہد کا ترجمہ گواہ دینا ہے

[۲] شہد کا ترجمہ موجود ہونا، اس آیت میں ہے

33۔ وَ مَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ فَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَ مَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔

(آیت ۳۳، سورت قصص ۲۸)

ترجمہ۔ آئے پیغمبر آپ اس وقت کوہ طور کی مغربی جانب حاضر نہیں تھے جب ہم نے موئی کو احکام سپرد کئے تھے، اور آپ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اس کو دیکھ رہے تھے۔

اس آیت میں شہد کا ترجمہ ہے آپ وہاں حاضر نہیں تھے

[۳] گواہوں کا تزکیہ کرنا

تزریق کا مطلب یہ ہے کہ یہ تصدیق کرے کہ گواہ نے جو گواہی دی ہے وہ صحیح اور صحیح ہے

34۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَ جِئْنَا بِكَ عَلَى هُولَاءِ شَهِيدًا ۔ (آیت ۳۱،

سورت نساء ۲)

ترجمہ۔ کیا حال ہو گا جب ہم ہرامت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے، اور اسے پیغمبر ہم تم کو ان لوگوں کے خلاف گواہ کے طور پر پیش کریں گے۔

تفسیر ابن عباس میں اس آیت میں شہیدا کا ترجمہ تزریق کیا ہے وَ جِئْنَا بِكَ عَلَى هُولَاءِ شَهِيدًا

﴿وَ يَقَالُ لِامْتَكَ شَهِيدًا مِنْ كِيَا مَعْدُلاً ، مَصْدَقًا لَهُمْ﴾، یعنی امت نے جو گواہی دی ہے حضور

اس کا تزکیہ کریں گے، کہ میری امت نے جو گواہی دی ہے، وہ ٹھیک ہے، صحیح ہے،

جب شہد کا تین معانی ہیں تو سیاق و سبق دیکھ کر ہی شہد کا ترجمہ کرنا ہو گا، تاکہ اس کا معنی دوسرا آئیوں

سے ٹکرانے جائے ۔

## ان احادیث سے حاضر ناظر ہونے کا شبهہ ہوتا ہے

9۔ عن ثوبان قال قال رسول الله ﷺ ان الله زوى لى الارض فرأيت مشارقها و مغاربها و ان امتي سيلع ملکتها ما زوى لى منها۔ (مسلم شریف، کتاب الفتن، باب بلاک ہنڈہ الاممہ بعضہم بعض، جس ۱۲۵۰، نمبر ۲۸۸۹، ۲۷۸/۲۸۸۹)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ اللہ نے زمین میرے لئے سکیڑ دی، جس سے میں زمین کی مشرق اور مغرب کو دیکھ لیا، اور جہاں تک زمین سکیڑی میری امت وہاں تک پہنچ جائے گی۔

یہ ایک مججزہ کا ذکر ہے کہ، مشرق اور مغرب کی زمین آپ کے سامنے کر دی کر دی، اور آپ نے اس کو دیکھ لیا، اس میں زوی، ماضی کا صیغہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایک مرتبہ ایسا کیا گیا، ورنہ اگر آپ ہمیشہ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں تو آپ کے سامنے زمین کو کرنے کا مطلب کیا ہے، وہ توہ روقت آپ کے سامنے ہے ہی، اس لئے اس حدیث سے حاضر ناظر ثابت نہیں ہوتا۔ یہ آپؐ کی زندگی میں ایک مججزہ ہے جس کا اس حدیث میں ذکر ہے،

دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث میں صرف زمین آپ کے سامنے کی گئی ہے پوری کائنات نہیں ہے آپ خود بھی غور کر لیں۔

اس حدیث سے بھی حضورؐ کے حاضر ناظر ہونے کا شبهہ ہوتا ہے

10۔ عن عبد الله بن عمر و [بن العاص] قال الدنيا سجن المؤمن و جنة الكافر ، فإذا مات المؤمن يخلّى به يسرح حيث شاء . و الله اعلم۔ (مصنف ابن ابی شیبۃ، باب

کلام عبد اللہ بن عمر، ج ۷، ص ۵، نمبر ۳۲۷۲ (۱۴۰۵)

ترجمہ۔ عبد اللہ بن عمر بن العاص نے فرمایا: دنیا میں کسی قید نہ ہے اور کافر کی جنت ہے، پس جب مومن مر جاتا ہے تو وہ دنیا سے چھوٹ جاتا ہے، اور جہاں چاہتا ہے گھومتا رہتا ہے  
اس صحابی کے قول میں یسری حیث شاء، کہ جہاں چاہتا ہے گھومتا رہتا ہے سے بعض حضرات  
نے استدلال کیا ہے مومن کی رو حیں دنیا میں جہاں چاہتی ہیں گھومتی رہتی ہیں، اور اسی پر قیاس کر کے  
حضور بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہیں  
لیکن اس میں تین خامیاں ہیں

[۱]۔۔ یہ حدیث نہیں ہے یہ صحابی کا اپنا قول ہے، جس سے عقیدہ ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے۔  
[۲]۔۔ دوسری بات ہے کہ جب دنیا قید ہے اور موت کی وجہ سے وہاں سے نکل گئی تو دوبارہ دنیا جیسی  
قید میں مومن کی روح کیوں آئے گی۔

[۳]۔۔ اور تیسرا بات یہ ہے کہ دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں جہاں چاہتی ہے گھومتی رہتی ہے، کیونکہ  
دوسری حدیث میں شہیدوں کے بارے میں ہے کہ انکی روح جنت میں جہاں چاہتی ہے گھومتی رہتی  
ہے، دنیا میں نہیں گھومتی۔

### 11- حدیث یہ ہے

- عن ابی هریرة قال قال رسول الله ﷺ رأيت جعفرا يطير في الجنة مع الملائكة

(ترمذی شریف، کتاب المناقب، باب مناقب جعفر بن طالب، ص ۸۵۵، نمبر ۲۷۲۳)

ترجمہ۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے حضرت جعفرؑ کو دیکھا کہ وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں  
اس حدیث میں ہے کہ حضرت جعفرؑ جنت میں جہاں چاہتے ہیں پھرتے ہیں۔ اس لئے عبد اللہ بن عمر  
کے قول کا مطلب بھی یہی ہو گا کہ مومن موت کے بعد جنت میں پھرتے ہیں، دنیا میں پھرنا ثابت نہیں

ہوگا

اس حدیث میں بھی اس کی تصریح ہے کہ شہداء کی رو جیں جنت میں جدھر چاہتی ہے گھومتی ہیں، دنیا میں نہیں

12- عن مسروق قال سأله عبد الله هو ابن مسعود عن هذه الآية ﴿وَلَا تَحْسِبَنَّ  
الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ (آیت ۱۲۹، آل عمران ۳)  
قال اما انا قد سألنا عن ذالك فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة  
بالعرش تسرح من الجنة حيث شائت ثم تأوى الى تلك القناديل - (مسلم شریف،  
کتاب الامارة، باب بیان ان ارواح الشهداء فی الجنة و انهم احياء عند ربهم يرزقون، ص ۸۲۵، نمبر  
۳۸۸۵/۱۸۸۷)

ترجمہ۔ حضرت مسروقؓ فرماتے ہیں کہ میں نے عبد اللہ بن مسعود سے اس آیت ﴿وَلَا تَحْسِبَنَّ  
الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ کے بارے میں پوچھا، فرمایا  
کہ میں اس آیت کے بارے میں حضورؐ سے پوچھ چکا ہوں، فرمایا کہ شہیدوں کی روح سبز پرندے کے  
پیٹ میں ہوتی ہے، اور قدیمیں عرش کے ساتھ لکھی ہوتی ہیں، وہ روح جہاں چاہتی ہے چلی جاتی ہے،  
پھر اس قنادیل میں آ کر ٹھہر جاتی ہے  
اس حدیث میں بھی ہے کہ جنت میں جدھر چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، دنیا میں ادھر ادھر پھرنے کا  
ثبت نہیں ہوگا،

اس حدیث میں ہے کہ مومن کی روح بھی جنت میں ہوتی ہے

13- عن عبد الرحمن بن كعب الانصارى انه اخبره ان اباه كان يحدث ان رسول

الله ﷺ قال انما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجرة الجنة حتى يرجع الى جسده يوم يبعث - (ابن ماجة شریف، کتاب الزهد، باب ذکر القبر والملئ، ص ۲۲، نمبر ۳۲۷، منداحمد، بقیة حدیث کعب بن مالک الانصاری، جلد ۲۵، ص ۵۷، نمبر ۷۷۱، ۱۵۷)

ترجمہ۔ حضور نے فرمایا کہ مؤمن کی روح ایک پرندہ جیسی ہوتی ہے جو جنت کے درختوں میں لکھی ہوتی ہے، پھر قیامت کے دن اٹھائے جانے کے وقت جسم کی طرف لوٹائی جائے گی، اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مؤمن کی روح جنت میں ہوتی ہے، دنیا میں ادھرا دھرنیں بھٹکتی۔ یہ عقیدہ ہندوؤں کا ہے کہ مرنے کے بعد میت کی رو ہیں دنیا میں بھٹکتی رہتی ہیں۔

اس عقیدے کے بارے میں 34 آیتیں اور 13 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں  
آپ ان آیتوں اور حدیثوں میں خود غور کر لیں

## ہندوؤں کا عقیدہ یہ ہے کہ دیوی اور دیوتا ہر جگہ حاضر ہیں اور ہر چیز کو دیکھتے ہیں

ہندوؤں کا عقیدہ یہ ہے کہ انکے رشی منی، یعنی انکے پرانے بزرگ، اور دیوی، دیوتا ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، یہاں تک کہ بتوں کے اندر بھی وہ حاضر ہیں، اور اپنے پوچا کرنے والے کی ہربات کو سن رہے ہیں، اور انکو کو دیکھی رہے ہیں، اور اس کی مدد بھی کرتے ہیں، اسی لئے تو وہ ان کی بُت بنا کر پوچا کرتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں، ورنہ تو وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ مٹی کی بنی بُت ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے، لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اسکے رشی منی اس میں حاضر و ناظر ہیں اس لئے وہ بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں انکو پوچھتے، اور ان سے، اپنی منتیں مانگتے ہیں۔

اس لئے اللہ نے 5 آیتوں میں یہ واضح کر دیا کہ آپ فلاں مقام پر نہیں تھے، تاکہ لوگ حضور گو حاضر ناظر سمجھ کر ان سے منتیں نہ مانگ لگیں، اور ان کے سامنے اپنی مرادیں نہ پیش کرنے لگیں۔

اس نکتہ پر غور فرمائیں۔

## ۹۔ مختارکل صرف اللہ ہے

البنت حضورؐ کو دنیا میں بہت سے اختیار دئے گئے ہیں، اور آخرت میں بھی بہت سارے اختیار دئے جائیں گے، جو اولین اور آخرین میں سے سب سے زیادہ ہیں لیکن وہ جزا اختیارات ہیں کل نہیں ہیں

ع بعد از خدا بزرگ تولی قصہ مختصر

اس عقیدے کے بارے میں 36 آیتیں اور 10 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

### اختیارات کی 4 فتنمیں ہیں

- [۱]۔۔۔ ازل سے اب تک ہر ہر چیز کرنے کا اختیار، یہ اختیار صرف اللہ کو ہے۔
- [۲]۔۔۔ حضورؐ کو زندگی میں بہت سے اختیار دئے گئے
- [۳]۔۔۔ حضورؐ کو قیامت میں چار اختیار دئے جائیں گے
- [۴]۔۔۔ کیا حضورؐ کو زید کوشقاد دینے، روزی دینے، نفع اور نقصان دینے کا اختیار ہے

[ا]۔ ازل سے اب تک ہر ہر چیز کرنے کا اختیار،

یہ اختیار صرف اللہ کو ہے

اس کے لئے یہ آیتیں ہیں

۱۔ اللہُ خَالِقُ كُلٌّ شَيْءٍ وَ هُوَ عَلٰى كُلٌّ شَيْءٍ وَ كَيْلٌ۔ (آیت ۲۲، سورت الزمر ۳۹)

ترجمہ۔ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہی ہر چیز کا رکھوا لا ہے

۲۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلٌّ شَيْءٍ۔ (آیت ۲۲، سورت غافر ۲۰)

ترجمہ۔ وہ ہے اللہ جو تمہارا پانے والا ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے

۳۔ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ۔ (آیت ۷، سورت حود ۱۱)

ترجمہ۔ یقیناً آپ کا رب چوچا ہے کرتا ہے

۴۔ دُوْ الْعَرْشِ الْمَجِيدِ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ۔ (آیت ۱۶، سورت البروج ۸۵)

ترجمہ۔ عرش کا مالک ہے، بزرگی والا ہے، جو کچھ ارادہ کرتا ہے کرگزرتا ہے

۵۔ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلٌّ شَيْءٍ وَ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ (آیت ۱۶، سورت الرعد ۱۳)

ترجمہ۔ آپ یہ کہہ دیجئے کہ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ ایک ہی غالب ہے

ان ۵ آیتوں میں ہے کہ ازل سے اب تک کا پورا پورا اختیار صرف اللہ کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے

## [۲]۔ زندگی میں حضور ﷺ کو بہت سارے اختیار دئے گئے

کھانے کے پینے کے سونے کے جاگنے کے، امر کے، نبی کے، احکام پھیلانے کے اختیارات دئے گئے تھے

خاص طور پر ان چار اختیار کے لئے آپ کو معمور ثکیا گیا تھا  
اس کے لئے آتیں یہ ہیں

6۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِ رَسُولًاٰ مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَنْذُلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتٍ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ  
يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفْنِي ضَالَالٍ مُّبِينٍ۔ (آیت ۲، سورۃ الجمعۃ)  
۲۲۔ ترجمہ۔ وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جوانکے سامنے اس کی  
آیتوں کی تلاوت کریں، اور ان کو پا کیزہ بنائیں، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں، جبکہ وہ اس  
سے پہلے کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے

7۔ رَبَّنَا وَ ابْعَثْتَ فِيهِمْ رَسُولًاٰ مِّنْهُمْ يَنْذُلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ  
وَ يُزَكِّيْهِمْ۔ (آیت ۱۲۹، سورۃ البقرۃ)

۔ ترجمہ۔ اور ہمارے پروڈگار! ان میں ایک ایسا رسول بھی بھیجننا جو انہیں میں سے ہو، جوانکے سامنے  
تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پا کیزہ بنائے۔

اس آیت میں ہے کہ حضور ﷺ کو چار کام کے لئے معمور ثکیا گیا ہے۔ [۱]۔ قرآن کی تلاوت کرنے  
کے لئے [۲]۔ قرآن سکھلانے کے لئے، [۳]۔ حکمت سکھلانے کے لئے [۴] اور ترکیہ کرنے  
کے لئے، اس لئے زندگی میں حضور گویا اختیار تو ہے۔

8۔ وَ دَاعِيَاً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ سِرَاجًا مُّنِيرًا۔ (آیت ۳۶، سورت الاحزاب ۳۳)

ترجمہ۔ اللہ کے حکم سے لوگوں کو بلانے والے اور روشنی پھیلانے والے چراغ ہو

9۔ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلْغُ مَا أُنزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ۔ (آیت ۲۷، سورت المائدہ ۵)

ترجمہ۔ اے رسول جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کر

10۔ وَ لَا يَبْيَسْنَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونَ۔ (آیت ۲۳، سورت الزخرف ۳۳)

ترجمہ۔ اور اس لئے لایا ہوں کہ تمہارے سامنے وہ چیزیں واضح کر دوں جن میں تم

اختلاف کرتے ہو، لہذا تم اللہ سے ڈرو، اور میری بات مان لو

ان 5 آیتوں میں ہے کہ آپ کو زندگی میں دین اور احکام پھیلانے کے، اور امر و نہی کے نافذ کرنے

کے اختیار دئے گئے تھے انکے علاوہ بھی زندگی میں بہت سارے اختیار دئے گئے تھے۔

[۳]۔ حضورؐ کو قیامت میں چار اختیار دئے جائیں گے

قیامت میں اللہ کے حکم سے اور بھی اختیار دئے جائیں گے، لیکن یہ چار اختیاراً ہم ہیں

- (۱) شفاعت کبریٰ کا اختیار
- (۲) شفاعت صغیری کا اختیار
- (۳) اللہ کی حمد کرنے کا اختیار
- (۴) حوض کو ثرپر پانی پلانے کا اختیار

[۱] شفاعت کبریٰ کا اختیار

قیامت میں حساب کرنے کے لئے جو سفارش کی جائے گی، اس کو شفاعت کبریٰ، کہتے ہیں، کیونکہ یہ شفاعت بہت مشکل ہو گی، اور یہ سفارش کرنے کا حق صرف حضورؐ دیا جائے گا، کسی اور کوئی نہیں اس کے لئے حدیث یہ ہے

1- عن انس قال قال رسول الله ﷺ يجمع الله الناس يوم القيمة فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا ..... ثم يقال لى : ارفع رأسك و سل تعطه ، و قل يسمع ، و اشفع تشعف فارفع رأسي فأحمد ربى بتحميد ربى يعلمنى ، ثم اشفع فيحدلى حدا ثم اخر جهنم من النار و ادخلهم الجنة ثم اعود فاقع ساجدا مثله فى الثالثة او الرابعة حتى ما يبقى فى النار الا من حبسه القرآن - (بخاري شریف، کتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، ص ۱۱۳۶، نمبر ۶۵۶)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کریں گے، لوگ کہیں گے ہمارے رب سے

کوئی سفارش کرتا تو ہم اس جگہ کی مصیبتوں سے نجات پالیتے۔۔۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہا جائے گا کہ اپنا سراٹھاۓ، مانگنے آپ کو دیا جائے گا، فرمائے، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ سفارش کیجئے، سفارش قول کی جائے گی، میں سراٹھاؤں گا، اور اللہ کی ایسی تعریف کروں گا جو اللہ مجھے تعلیم دیں گے، پھر میں سفارش کروں گا تو ایک حد تک میری سفارش قول کی جائے گی، پھر میں انکو آگ سے نکالوں گا اور جنت میں داخل کروں گا، پھر میں دوبارہ پہلے کی طرح سجدے میں جاؤں گا، [پھر تیری مرتبہ، پھر چوتھی مرتبہ سجدے میں جاؤں گا] پھر جہنم میں وہی باقی رہیں گے جکو قرآن نے جہنم میں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے [یعنی جو کافر ہو گا وہی جہنم میں باقی رہیگا]

اس حدیث میں تین چیزوں کا ثبوت ہے، [۱] ایک شفاعت کبریٰ کا [۲]، دوسرا حمد کرنے کا [۳]، اور تیسرا شفاعت صغیری کا

## [۲] شفاعت صغیری کا اختیار

2- حدثنا انس بن مالک ان النبی ﷺ قال لکل نبی دعوة دعاها لامته و انی اختبات دعوتی شفاواة لامتی یوم القيامة۔ (مسلم شریف، کتاب الایمان، باب اختباء النبی دعوة الشفاعة لامته، ص ۱۰۶، نمبر ۲۰۰۷)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ ہر نبی کے لئے ایک مقبول دعا ہوتی ہے جو اپنی امت کے لئے وہ کرتے ہیں اور میں نے اپنی امت کے لئے ایک دعا چھپا کر رکھی ہے، اور وہ یہ کہ قیامت کے دن اپنی امت کے لئے سفارش کروں گا۔

اس حدیث میں شفاعت صغیری کا ذکر ہے، جو حضور ﷺ کو دی جائے گی ۔

لیکن یہ شفاعت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوگی

اس کے لئے یہ آیت ہے

11- من ذا الَّذِي يُشْفِعُ عَنْهُ إِلَّا بِأَذْنِهِ۔ (آیت ۲۵۵، سورت البقرۃ ۲)

ترجمہ۔ کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے

12- مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ۔ (آیت ۳، سورت یونس ۱۰)

ترجمہ۔ کوئی اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کسی کی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔

### [۳] حمد کرنے کا اختیار

حضور گویا میں اللہ کی ایسی تعریف کرنے کا اختیار دیا جائے گا جو کسی اور کوئی نہیں دیا جائے گا

اس کے لئے حدیث یہ ہے

3- عن انس قال قال رسول الله ﷺ يجمع الله الناس يوم القيمة فيقولون لو

استشفعناعلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا ..... ثم يقال لى : ارفع رأسك و سل

تعطه ، و قل يسمع ، و اشعف تشفع فارفع رأسى فأحمد ربى بتحميد ربى بعلمنى - (

بخاری شریف، کتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، ص ۱۱۳۶، نمبر ۶۵۶ ص)

ترجمہ۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کریں گے، لوگ کہیں گے ہمارے رب سے

کوئی سفارش کرتا تو ہم اس جگہ کی مصیبتوں سے نجات پا لیتے۔۔۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہا

جائے گا کہ اپنا سراٹھائے، ماٹھے آپ کو دیا جائے گا، فرمائے، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ سفارش

کیجئے، سفارش قبول کی جائے گی، میں سراٹھاؤں گا، اور اللہ کی ایسی تعریف کروں گا جو اللہ مجھے تعلیم دیں

گے۔

## [۳] حوض کو شرپ پانی پلانے کا اختیار

4- عن عبد الله بن عمر و قال النبي ﷺ حوضى مسيرة شهر مأوفه أبيض من اللبن و ريحه أطيب من المسك و كيزانه كنجوم السماء ، من شرب منها فلا يظمآنبدا .

(بخاری شریف، کتاب الرقاق، باب فی الحوض، ح ۱۱۳۸، نمبر ۶۵۷۹)

ترجمہ۔ حضور نے فرمایا کہ میرا حوض ایک مہینے تک چلنے کی مسافت تک ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور اس کی خوبیوں سے زیادہ اچھی ہے، اس کے پیالے آسمان میں ستارے جتنے ہیں، جو اس سے ایک مرتبہ پی لیگا کبھی پیسا نہیں ہوگا

ان 4 چار حدیثوں سے معلوم ہوا کہ حضور کو قیامت میں چار بڑے بڑے اختیار دئے جائیں گے

## [۳]۔ اختیار کی چوتحی قسم،

### نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے

اختیار کی چوتحی قسم ہے نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار، کسی کو اولاد دینا، کسی کو شفاء دینا، کسی کو روزی دینا، کسی کو موت دینا، کسی کو حیات دینا، بارش برسانا، قحط لانا، یہ اختیارات حضور ﷺ کو بھی نہیں ہیں، اور کسی اور کو بھی نہیں ہیں، یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے

اس کے لئے یہ آیتیں یہ ہیں

13۔ ۶۱۔ مَا كُنْتُ بِدُعًا مِّنَ الرُّسُلِ، وَ مَا أَدْرِي مَا يَفْعُلُ بِي وَ لَا بِكُمْ ، إِنِّي أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُؤْخِذُ إِلَيَّ۔ (آیت ۶۱، سورت الاحقاف ۲۶)۔ ترجمہ۔ کہو کہ میں پیغمبر میں سے کوئی انوکھا پیغمبر نہیں ہوں۔ مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور نہ معلوم کہ تمہارے ساتھ کیا ہو گا، میں کسی اور چیز کی نہیں صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے بھیجی جاتی ہے

اس آیت میں مجھے بھی معلوم نہیں کہ اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، تو حضورؐ واختیار کیسے ہوا

14۔ ۶۲۔ ۶۲۔ لَمَّا كُلِّمَ رَسُولُهُ مُحَمَّدًا لَّمْ يَأْتِهِ مُلْتَحِدًا ۖ (آیت ۶۲، سورۃ الجن ۲۷)

ترجمہ۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں نہ تمہارے نقصان کا مالک ہوں اور نہ بھلانی کا مالک ہوں۔ آپ کہہ

دیجئے! مجھے اللہ سے نہ کوئی بچا سکتا ہے، اور نہ میں اسے چھوڑ کر کوئی پناہ کی جگہ پا سکتا ہوں

اس لئے یہ چوتحی قسم کا اختیار بھی حضورؐ کے پاس نہیں ہے۔۔ آپ خود بھی آئیوں پر غور کر لیں۔

حضرور ﷺ سے اعلان کروایا گیا کہ میرے ہاتھ میں  
نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں ہے

اس کے لئے آیتیں یہ ہیں

15- قُلْ لَا أَمِلْكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَ لَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ (آیت ۱۸۸، سورۃ الاعراف ۷)  
ترجمہ۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے آپ کو بھی نقصان اور نفع پہنچانے کا مالک نہیں ہوں، مگر اللہ جتنا چاہے گا اتنا ہوگا

16- قُلْ لَا أَمِلْكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَ لَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ (آیت ۲۹، سورۃ یونس ۱۰)  
ترجمہ۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے آپ کو بھی نقصان اور نفع پہنچانے کا مالک نہیں ہوں، مگر اللہ جتنا چاہے گا اتنا ہوگا

17- قُلْ إِنِّي لَا أَمِلْكُ لَكُمْ ضَرًّا وَ لَا رَشِداً (آیت ۲۰، سورۃ الحج ۲۷)  
ترجمہ۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں نہ تمہارے نقصان کا مالک ہوں اور نہ بھلانی کا مالک ہوں  
18- قُلْ إِنِّي لَنْ يُحِبِّرْنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدًا وَ لَنْ أَجِدْ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِدًا۔ (آیت ۲۱، سورۃ الحج ۲۷)- ترجمہ۔ آپ کہہ دیجئے! مجھے اللہ سے نہ کوئی بچا سکتا ہے، اور نہ میں اسے چھوڑ کر کوئی پناہ کی جگہ پا سکتا ہوں

19- قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي۔ (آیت ۱۵، سورۃ یونس ۱۰)  
ترجمہ۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کروں

20- قُلْ مَا كُنْتُ بِدُعاً مِنَ الرُّسُلِ ، وَ مَا أَذْرِي مَا يَفْعَلُ بِي وَ لَا بِكُمْ ، إِنِّي أَتَبِعَ إِلَّا مَا

یوْحَنْیٰ إِلَیٰ - (آیت ۹، سورت الاحقاف ۲۶)۔ ترجمہ۔ کہو کہ میں پیغمبر میں سے کوئی انوکھا پیغمبر نہیں ہوں۔ مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور نہ معلوم کہ تمہارے ساتھ کیا ہو گا، میں کسی اور چیز کی نہیں صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے پہچھی جاتی ہے۔

ان ۶ آیتوں میں حضور ﷺ سے اعلان کروایا گیا کہ مجھے اختیار نہیں ہے، تو پھر حضور ﷺ کو کیسے مختارکل کہا جائے؟۔

ان آیتوں میں ہے کہ حضور ﷺ کو بہت سے اختیارات نہیں ہیں

21۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدًاهُمْ وَ لَكِنَ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ (آیت ۲۷۲، سورۃ البقرۃ ۲)

ترجمہ۔ آے پیغمبر آپ پر ہدایت دینے کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے

22۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحَبْبَتْ ، وَ لَكِنَ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهَتَّدِينِ -

(آیت ۵۶، سورۃ القصص ۲۸)

ترجمہ۔ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔

اس آیت میں ہے کہ آپ کسی کو ہدایت دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے، ہاں اللہ جس کو چاہیں اس کو ہدایت دے سکتے ہیں۔ تو پھر آپ مختارکل کیسے ہوئے

23۔ وَ لَا تَقُولُنَّ لِشَيْءٍ إِنْ فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَأً إِلَّا أَنْ يَشَاءُ اللَّهُ (آیت ۲۳، سورۃ الکہف ۱۸)

ترجمہ۔ آے پیغمبر کسی بھی کام کے بارے میں کبھی یہ نہ کہو کہ میں یہ کام کرلوں گا، ہاں یہ کہو کہ اللہ چاہے گا

تو کرلوں گا

24- لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ طَالِمُونَ - (آیت ۱۲۸، سورت آل عمران ۳)۔ ترجمہ۔ آئے پیغمبر پ کو اس فیصلے کا کوئی اختیار نہیں ہے، کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے، کیونکہ یہ ظالم لوگ ہیں

25- يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَ الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ (آیت ۱۹، سورت الانفطر ۸۲) ترجمہ۔ یہ وہ دن [قیامت] ہوگا جس میں کوئی آدمی کسی دوسرے کے لئے کچھ کرنے کا مالک نہیں ہوگا، اور تمام تر حکم اس دن اللہ ہی کا چلے گا۔

26- مَا كَانَ لِنَبِيٍّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَ لَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ - (آیت ۱۱۳، سورت التوبۃ ۹) ترجمہ۔ یہ بات تو نہ نبی کو زیب دیتی اور نہ دوسرے مونموں کو کہ وہ مشرکوں کے لئے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں

27- مَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ - (آیت ۷۸، سورت غافر ۴۰) ترجمہ۔ اور کسی رسول کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی مجزہ لے آئے ان ۷ آیتوں کو غور سے دیکھیں کہ حضور ﷺ کو بہت سی چیزوں کا اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ تو حضور ﷺ کو مختارکل کیسے کہا جائے؟۔

## اللہ کی مرضی کے بغیر حضور گومسلہ بیان کرنے کا بھی حق نہیں ہے

ان آئیوں میں تو یہاں تک ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر حضور گومسلہ بیان کرنے کا بھی حق نہیں ہے

28- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَا تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبَغْفِي مَرْضَاتِ أَزْوَاجَكَ - (آیت، سورت تحريم ۲۶)۔ ترجمہ۔ آئے نبی جس چیزوں میں نے تمہارے لئے حلال کی اپنی یوں یوں کی خوشنودی کے لئے اسے کیوں حرام کرتے ہو۔

29- مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُشْخَنَ فِي الْأَرْضِ . (آیت ۲۷، سورت الانفال ۸). ترجمہ۔ یہ بات کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ انکے پاس قیدی رہیں جب تک کہ وہ زمین میں ڈشمنوں کا خون اچھی طرح نہ بھالیں حضور نے بدتری قیدیوں سے فدیہ لینے کا حکم دیا تھا، جو اللہ کی مرضی نہیں تھی تو فوراً حضور گواں سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔

ان 2 آئیوں کو دیکھیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر آپ کو مسلہ بیان کرنے کا بھی حق نہیں ہے تو آپ مختارکل کیسے ہو گئے؟

## حضرور نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ کی اجازت سے کی ہے

اس کے لئے یہ آیتیں ہیں

30۔ وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ (آیت ۲۶، سورت النساء ۲)

ترجمہ۔ ہم نے کسی بھی رسول کو اسی لئے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے انکی اطاعت کی جائے

31۔ وَ مَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لَكُلِّ أَجْلٍ كِتَابٍ۔ (آیت ۳۸، سورت الرعد ۱۳)

ترجمہ۔ اور کسی رسول کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی آیت بھی لاسکے

32۔ وَ مَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ (آیت ۸، سورت غافر ۲۰)

ترجمہ۔ اور کسی رسول کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ لے آئے

33۔ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ۔ (آیت ۱، سورت ابراہیم ۱۷)

ترجمہ۔ یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کو اس کے رب کے حکم سے اندر ہیروں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ۔

34۔ وَ دَاعِيَا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ سَرَاجًا مُّنِيرًا۔ (آیت ۳۶، سورت الحزاب ۳۳)

ترجمہ۔ اللہ کے حکم سے لوگوں کو بلانے والے اور روشنی پھیلانے والے چراغ ہو

ان ۵ آیتوں میں ہے کہ حضور کو بہت سے اختیار دئے گئے تھے، لیکن وہ سب اللہ کے حکم سے تھے

## اللہ کے اختیارات لامحدود ہیں وہ حضور ﷺ کو کیسے حاصل ہو سکتے ہیں؟

اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، اس کا اختیار لامحدود ہے اور حضور ﷺ کی ذات محدود ہے اس لئے وہ تمام اختیارات حضور گو کیسے حاصل ہو سکتے ہیں، یہ ناممکن ہے، اس لئے حضور مختارکل نہیں ہیں، ہاں دنیا میں اور آخرت میں کچھ اختیار دئے گئے ہیں، جنکی تفصیل اوپر گزری۔

اس آیت میں ہے کہ اللہ جو کچھ چاہتے ہیں کرتے ہیں

35- إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ۔ (آیت ۷۰، سورت ھود ۱۱)

ترجمہ۔ یقیناً آپ کا رب چوچا ہے کرتا ہے

36- ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدِ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ۔ (آیت ۱۶، سورت البروج ۸۵)

ترجمہ۔ عرش کا مالک ہے، بزرگی والا ہے، جو کچھ ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے

حضور گواں قسم کا اختیار نہیں ہے کہ جو چاہے کر لیں، یہ اختیار تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے

ان 36 آیتوں سے ثابت ہوا کہ حضور ﷺ کو زندگی میں بہت سے اختیار دئے گئے تھے،

اور قیامت میں بھی بہت سے اختیار دئے جائیں گے

یہ اختیارات تمام اولین اور آخرین سے زیادہ ہیں

ان سب کے باوجود آپ مختارکل نہیں ہیں، اور نہ آپ کسی کے نفع و نقصان کے مالک ہیں

## حضرورؐ کو کلی اختیار نہیں ہے، احادیث سے اس کا ثبوت

ان احادیث میں ہے کہ مجھے اختیار نہیں ہے

5۔ عن ابی هریرةؓ ان النبی ﷺ قال .... یا ام الزبیر بن العوام عمة رسول الله ﷺ بیا فاطمة بنت محمد اشتريا انفسکما من الله ، لا املک لکما من الله شيئا ، سلانی من مالی ما شئتما۔ (بخاری شریف، باب من انتسب الی اباہ فی الاسلام والجایلیۃ، ص ۵۹۲، نمبر ۳۵۲)۔ ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا۔۔۔ اے رسول اللہ کی پھوپھی ام زبیر بن عوام، اے فاطمہ بنت محمد اللہ سے اپنے لئے کچھ خریدلو میں تم لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا ہوں، میرے مال میں سے جو چاہو ما نگ لو۔

6۔ ان ابا هریرةؓ قال قام رسول الله ﷺ حين انزل الله عز و جل ﷺ وَ أَنْذَرَ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٢٦﴾ [آیت ۲۶، سورۃ الشرا، ۲۱۲]... یا صفیہ عمة رسول الله ، لا اغنى عنک من الله شيئا ، و یا فاطمة بنت محمد ﷺ سلینی ما شئت من مالی ، لا اغنى من الله شيئا۔ (بخاری شریف، باب حل یخل الساء والولمی الاقارب، ص ۳۵۵، نمبر ۲۷۵۳)۔ ترجمہ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپؐ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ۔۔۔ اے رسول کی پھوپھی صفیہؓ میں اللہ کی جانب سے تم کو کام نہیں آسکتا، اور اے فاطمہؓ میرے مال میں سے مجھے سے ما نگ لو، میں اللہ کی جانب سے کچھ کام نہیں آسکتا۔

ان دونوں حدیثوں میں ہے کہ میں قیامت میں کام نہیں آسکتا، ہاں ایمان ہو اور اللہ شفارس کرنے کی

اجازت دے تو میں شفارس کروں گا۔

7- عن انس قال قال رسول الله ﷺ يجمع الله الناس يوم القيمة فيقولون لو استشفينا على ربنا حتى يرينا من مكاننا ..... ثم يقال لى : ارفع رأسك و سل تعطه ، و قل يسمع ، و اشفع تشفع فارفع رأسي فأحمد ربى بتحميد ربى يعلمنى ، ثم اشفع فيحدلى حدا ثم اخر جهنم من النار و ادخلهم الجنة ثم اعود فاقع ساجدا مثله فى الثالثة او الرابعة حتى ما يبقى فى النار الا من جبسه القرآن - (بخارى شریف، کتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، ص ۱۱۳۶، نمبر ۲۵۶۵)

ترجمہ۔ حضور پاک ﷺ نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کریں گے، لوگ کہیں گے، ہمارے رب کے سامنے کوئی سفارش کرتا تو اس جگہ سے ہمیں عافیت ہو جاتی۔۔۔ پھر مجھ سے کہا جائے گا، سر اٹھاؤ اور مانگو دیا جائے گا، کہو بات سنی جائے گی، سفارش کرو سفارش قبول کی جائے گی، تو میں سر اٹھاؤں گا، اور ایسی حمد کروں جو اللہ اس وقت مجھے سکھائیں گے، پھر میں سفارش کروں گا تو ایک حد متعین کر دی جائے گی، پھر میں ان لوگوں کو جہنم سے نکالوں گا اور جنت میں داخل کروں گا، پھر پہلے کی طرح دوبارہ میں سجدے میں گرفڑوں گا، یہ تیسری مرتبہ ہو گایا پوچھی مرتبہ ہو گا، یہاں تک کہ جہنم میں وہی باقی رہیں گے جنکو قرآن نے روکے رکھا ہے [یعنی صرف کافر جہنم میں باقی رہ جائیں گے]

اس حدیث میں ہے کہ قیامت میں حضور اللہ سے مانگیں گے اور اللہ دیں گے، پھر یہ بھی ہے کہ تمام کی شفارس بیک وقت نہیں کریں گے، بلکہ ایک مرتبہ ایک حد متعین کی جائے گی، پھر دوسری مرتبہ دوسری حد متعین ہو گی، اور تیسری مرتبہ ایک حد متعین کی جائے گی، پھر پوچھی مرتبہ سفارش کی ایک حد متعین کی جائے، اس طرح چار مرتبہ میں آپ کی سفارش پوری ہو گی، اس لئے آپ قیامت میں بھی مختار کل نہیں ہوں گے،۔۔۔ ان حدیثوں میں آپ خود بھی غور فرمائیں۔

اس حدیث میں یہاں تک روکا گیا ہے کہ، یہ بھی نہ کہے کہ اللہ اور محمد ﷺ نے چاہا، بلکہ یوں کہو کہ اللہ نے چاہا، پھر محمد ﷺ نے چاہا

8۔ حدیث یہ ہے۔ عن حزیفة بن الیمان ..... تقولون ما شاء الله و شاء محمد ، و ذکر ذالک للنبی ﷺ فقال اما و الله ان كنت لا عرفها لكم ، قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد۔ (ابن ماجہ شریف، کتاب الکفارات، باب اُنہی ان یقال ما شاء اللہ و شاءت، ص ۳۰۲، نمبر ۲۱۱۸، مسن احمد، حدیث حذیفة بن یمان، ج ۳۸، ص ۳۲۶، نمبر ۲۳۳۳۹)

ترجمہ۔ حذیفة بن یمان سے روایت ہے۔۔۔ تم لوگ کہتے ہو جو اللہ چاہتے ہیں، اور محمد چاہتے ہیں [تو وہ کام ہوتا ہے]، اس کا تذکرہ حضورؐ کے سامنے ہوا، تو حضورؐ نے فرمایا خدا کی قسم تم لوگوں کی اس بات کو جانتا تھا، یوں کہو، جو اللہ چاہتے ہیں، پھر محمد چاہتے ہیں [یعنی اللہ کے چاہنے کے بعد محمدؐ نے چاہا، تاکہ چاہنے میں شرکت نہ ہو]

اور طبرانی کبیر میں تو ہے کہ، صرف یہ کہو کہ اللہ نے چاہا، نبی میں حضور ﷺ کے چاہنے کا نام ہی نلو،

9۔ حدیث یہ ہے۔ عن ربیع بن خراش عن اخ لعائشة زوج النبی ﷺ ... انما کان یمنعني ان انہا کم من ذالک الحیاء ، فاذاقلتم فقولوا ، ما شاء الله وحده۔ (طبرانی کبیر، طفیل بن سخیر الدوسی اخوعائشہ، ج ۸، ص ۳۲۵، نمبر ۸۲۱۵)

ترجمہ۔ حضرت عائشہ کے بھائی ربع بن خراش سے روایت ہے۔۔۔ شرم کی وجہ سے میں یہ بات نہیں کہہ رہا تھا، جب تم کہو تو یوں کہو کہ، صرف اللہ جو چاہے وہ ہوتا ہے اس حدیث میں ہے کہ صرف یہ کہو کہ اللہ جو چاہے وہ ہوتا ہے۔

اس لئے ان 5 آحادیث سے پتہ چلتا ہے، کہ حضور ﷺ مختارکل نہیں ہیں۔

اور جب حضور مختارکل نہیں ہیں تو کوئی بھی نبی، یا صاحبی، یا ولی بھی مختارکل نہیں ہیں

**ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ اس کی دیوی دیوتا کو کل اختیارات ہیں**

ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ اس کی دیوی، دیوتا کو، یہاں تک کہ اس کی مورتیوں کو بھی نفع نقصان پہنچانے کا اختیار ہے، چنانچہ انکے یہاں کچھ دیوی نفع پہنچانے کے لئے مختص ہیں، کچھ نقصان پہنچانے کے لئے مختص ہیں، کچھ کے ذمے بارش برسانے کا کام ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ دیوی، دیوتا کو پوچھتے ہیں، اور ان سے اپنی ضرورتیں مانگتے ہیں، اور انکی مورتی بنا کر اس کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں

چونکہ یہ شرک تھا اس لئے اللہ نے قرآن حکیم میں اس پر پورا زور دیا، اور حضور ﷺ سے اعلان کروایا کہ میرے ہاتھ میں نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں ہے۔

اس نکتہ پر غور فرمائیں

# ۱۰۔ علم غیب صرف اللہ کو ہے

اس عقیدے کے بارے میں 55 آیتیں اور 17 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

علم غیب صرف اللہ کو ہے، ہاں حضور<sup>ؐ</sup> کو غیب کی بہت ساری باتیں وحی کے ذریعہ، یا معاشر میں لیجا کر، یا جنت اور جہنم کو آپ کے سامنے کر کے بتائی گئیں ہیں جو کائنات میں سب سے زیادہ علم ہے، اس لئے یوں کہا جائے کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، اور حضور<sup>ؐ</sup> کو 7 طریقوں سے غیب کی بہت سی باتیں بتائی گئی ہیں جو اولین اور آخرین میں سے سب سے زیادہ ہیں  
البتہ یہ علم جز ہے، کل علم نہیں ہے

ع بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

تمام نبیوں کو وحی کے ذریعہ غیب کی بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں، اسی لئے ان کو نبی کہا جاتا ہے، یعنی غیب کی باتیں بتانے والے۔

لیکن غیب کی باتیں بتانے کی وجہ سے وہ، عالم الغیب، نہیں ہو جاتے، کیونکہ اگر غیب کی باتیں بتانے سے وہ عالم الغیب ہو جائیں تو تمام نبیوں کو، عالم الغیب، ماننا پڑے گا، اس صورت میں تنہا حضور<sup>ؐ</sup> عالم الغیب نہیں رہیں گے۔ اس نکتہ پر غور کر لیں۔

## علم غیب کی تین صورتیں ہیں

[۱]۔۔ وہ علم غیب جو ذاتی ہے، اور ہر چیز کو شامل ہے، اور ہمیشہ کے لئے شامل ہے، یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ علم لا انہتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے یہ علم غیب صرف اللہ کو ہے، کسی اور کوئی نہیں ہے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔

علم غیب اللہ کا علم ہے جس کی کوئی انہتا نہیں ہے، اور حضور ﷺ کی تو انہتا ہے، تو یہ بے انہتا والاعلم حضور گوکیسے ہو سکتا ہے!

[۲]۔۔ علم غیب کی دوسری صورت یہ ہے کہ، غیب کی باتیں ہیں، غیب کی چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بتائی۔ حضور گوکیسے نے جتنی باتیں بتائیں، وہ تو رسول اللہ کے لئے ثابت ہیں یہ علم ایک توالد تعالیٰ کا بتایا ہوا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ یہ علم بعض ہے اللہ کا کل علم نہیں ہے اس آیت میں ہے کہ غیب کی کچھ خبریں وحی کے ذریعہ سے آپ کو بتائی جا رہی ہے ذاَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهُ إِلَيْكَ۔ (آیت ۳۲، سورت آل عمران ۳)

ترجمہ۔ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعہ آپ کو دے رہے ہیں

[۳]۔۔ اور تیسرا صورت یہ ہے کہ مثلاً زید کے کھانے پینے، بیمار، شفا، اولاد، موت، حیات، نفع نقصان کا علم، کیا یہ علم حضور گوکیسے؟

تو آگے 40 آیتیں اور 5 حدیثیں آرہی ہیں کہ یہ علم بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کوئی نہیں ہے۔

## [۱]۔۔۔ وَهُوَ عِلْمٌ غَيْبٌ جَوْذَاتٍ هُوَ، اور ہر چیز کو شامل ہے یہ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کو ہے

[۱]۔۔۔ اللہ کا ذاتی علم غیب جو ہمیشہ کے لئے ہے، اور صرف اللہ ہی کو ہے،  
اس کے لئے آیتیں یہ ہیں۔

ان آیتوں میں حصر اور تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے

۱۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبَعْثُرُونَ -  
[آیت ۲۷، سورت نمل]۔۔۔ ترجمہ۔ آپ اعلان کر دیجئے کہ زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا کسی کو  
علم غیب نہیں ہے، اور لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کب دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔

۲۔ وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ - (آیت ۵۹، سورۃ الانعام)۔۔۔  
ترجمہ۔ اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اللہ کے علاوہ ان کو کوئی نہیں جانتا۔

۳۔ وَلِلَّهِ الْغَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يَرْجُعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ - (آیت ۱۲۳، سورت حود)۔۔۔  
ترجمہ۔ آسمان اور زمین میں جتنے پوشیدہ ہیں سب اللہ ہی کے علم میں ہیں، اور اسی کی طرف سارے  
معاملات لوٹائے جائیں گے۔

۴۔ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلَامُ الْغُيُوبُ - (آیت ۱۱۶)  
سورت المائدۃ (۵)۔۔۔ ترجمہ۔ میرے دل میں کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں، اور میں آپ کی پوشیدہ باقیوں  
کو نہیں جانتا، یقیناً آپ کو تمام چھپی ہوئی باقیوں کا پورا پورا علم ہے

نوٹ: یہاں انک اور ان سے حصر ہے کہ صرف تو ہی جانتا ہے، پھر علام مبالغے کا صیغہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ بہت جانے والے ہیں، پھر غیوب بھی مبالغے کا صیغہ ہے کہ غیوب کی ہر ہر چیز کو جانے والے ہیں، اس لئے اس صفت کا مالک کوئی اور نہیں ہے۔

5۔ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ (آیت ۲۶، سورت الکھف ۱۸)

ترجمہ۔ آسمانوں اور زمین کے ساری غیوب کی باقیں اللہ ہی کے علم میں ہیں

6۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ (آیت ۲۶، سورت الملک ۲۷)

ترجمہ۔ آپ اعلان کر دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور میں تو صرف صاف طریقے پر خبردار کرنے والا ہوں

7۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبُ إِلَّا اللَّهُ۔ (آیت ۲۵، سورت انمل ۲۷)

ترجمہ۔ آپ اعلان کر دیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ کے علاوہ کسی کے پاس علم غیوب نہیں ہے

8۔ قُلُولَا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ۔ (آیت ۱۰۹، سورت المائدۃ ۵)

ترجمہ۔ رسول کہیں گے، ہمیں کچھ علم نہیں ہے، غیوب کی ساری باتوں کو جانے والے تو صرف آپ ہی ہیں

9۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ (آیت ۱۸، سورۃ

الحجرات ۳۹)۔ ترجمہ۔ اللہ آسمانوں اور زمین کے تمام چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہے، اور جو کچھ تم

کرتے ہو اللہ سے اچھی طرح دیکھ رہا ہے

10۔ إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ الْغَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ (آیت ۳۸)

سورت فاطر ۳۵)۔ ترجمہ۔ اللہ آسمانوں اور زمین کے تمام چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہے، بیشک وہ

سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہے۔

11۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سُرُّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَامُ الْغُيُوبِ۔ (آیت ۷۸،

سورت التوبۃ ۹)۔ ترجمہ۔ کیا ان منافقوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ ان کی تمام پوشیدہ باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو جانتا ہے اور یہ کہ غیب کی ساری باتوں کا پورا پورا علم ہے۔

12۔ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ۔ (آیت ۲۲، سورت الحشر ۵۹)

ترجمہ، اللہ جپھی ہوئی اور کھلی باتوں کو جانے والے ہیں وہی ہے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے

13۔ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ (آیت ۱۸، سورت التغابن ۲۷)

ترجمہ، اللہ جپھی ہوئی اور کھلی باتوں کو جانے والا ہے، وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔

14۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرُّهُمْ وَ نَجْوَاهُمْ وَ أَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ (آیت ۷۸)

سورت التوبۃ ۹)۔ ترجمہ۔ کیا ان منافقوں کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ ان کی تمام پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو

جانتا ہے، اور یہ کہ انکو غیب کی ساری باتوں کا پورا پورا علم ہے۔

15۔ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ (آیت ۳۷، سورت الانعام ۶)

ترجمہ، اللہ غائب اور حاضر ہر چیز کو جانے والا ہے اور وہی بڑی حکمت والا ہے، پوری طرح باخبر ہے

16۔ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَعَالَى عَمَّا يُشَرِّكُونَ۔ (آیت ۹۲، سورت المؤمنون ۲۳)

ترجمہ، اللہ غائب اور حاضر ہر چیز کو جانے والا ہے، اس لئے وہ انکے شرک سے بہت بلند و بالا ہے

17۔ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ۔ (آیت ۳۶ سورت الزمر ۳۹)

ترجمہ، اللہ غائب اور حاضر ہر چیز کو جانے والا ہے

18۔ ثُمَّ تَرَدُّوْنَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَيُبَيِّنُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ (آیت ۸، سورت الجمعہ ۶۲)

ترجمہ، پھر تمہیں اس اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جسے تمام پوشیدہ اور کھلی باتوں کا پورا علم ہے، پھر وہ بتائے گا کہ تم کیا کچھ کیا کرتے تھے۔

19۔ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظَهِّرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا۔ (آیت ۲۶، سورت الحج ۲۷)

ترجمہ۔ وہی اللہ سارے بھید جانے والا ہے، چنانچہ وہ اپنے بھید پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔

20۔ وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ (آیت ۷۷، سورت الحلق ۱۶)

ترجمہ۔ آسمانوں اور زمین چھپی ہوئی با توں کا علم صرف اللہ کو ہے

21۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ

هذا۔ (آیت ۲۹، سورت حود ۱۱)۔ ترجمہ۔ غیب کچھ بتیں ہیں جو ہم تمہیں وہی کے ذریعہ بتا رہے

ہیں، یہ بتیں نہ تم اس سے پہلے جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم۔

نوٹ: اس آیت میں اللہ خود فرماتا ہے ہیں کہاے نبی تمہیں کچھ معلوم نہیں تھا، اور نہ آپ کی قوم کو معلوم تھا

اگر آپ کو علم غیب تھا تو تیس سال میں قرآن کو آپ پر اتنا نے کی ضرورت کیا تھا، وہ پہلے ہی سے آپ

کو معلوم ہونا چاہئے

اس کی دلیل یہ آیت ہے۔

22۔ إِنَّا نَحْنُ نَرَأْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا۔ (آیت ۲۳، سورۃ الانسان ۶۷)

ترجمہ۔ آے پیغمبر! ہم نے ہی تم پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے

23۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَلَنَاهُ تَنْزِيلًا۔ (آیت ۱۰۶، سورۃ

الاسراء ۱۷)۔ ترجمہ۔ اور ہم نے قرآن کے جدا جدا حصے بنائے تاکہ تم اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کے سامنے

پڑھو، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتنا رہے۔

ان آیتوں میں ہے کہ آہستہ آہستہ آپ پر قرآن اتنا را۔

ان 23 آیتوں میں ہے کہ علم غیب صرف اللہ کو ہے کسی اور کو نہیں ہے، اور وہی ہر چیز کو جانتا ہے، کسی

اور کو یہ علم نہیں ہے جب ان آیتوں میں کسی اور کے لئے غیب ہونے کا صریح انکار ہے تو حضور ﷺ

کے لئے علم غیب ثابت کرنا صحیح نہیں ہے

حضرورؐ سے باضابطہ یہ اعلان کروایا گیا کہ مجھے علم غیب نہیں ہے

اس کے لئے ۸ آتیں یہ ہیں

24- قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ آیاً نَبْعَثُونَ  
[آیت ۲۵، سورت النمل ۲۷]

- ترجمہ۔ آپ اعلان کر دیجئے کہ زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا کسی علم غیب نہیں ہے، اور لوگوں کو یہ بھی پہنچیں ہے کہ کب دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔

25- قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ۔ (آیت ۵۰، سورت الانعام ۶)  
ترجمہ۔ آے پیغمبر! ان سے کہو : میں تم سے نہیں کہتا کہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کا پورا علم رکھتا ہوں۔

26- قُلْ مَا كُنْتُ بِدُعاً مِّنَ الرُّسِيلِ وَمَا أَذْرِي مَا يَفْعُلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا  
يُوْحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (آیت ۹، سورت الاحقاف ۲۶)

- ترجمہ۔ کہو کہ میں پیغمبروں میں سے کوئی انوکھا پیغمبر نہیں ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور نہ معلوم کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، میں کسی اور چیز کی نہیں، صرف اس وجہ کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے بھیجی جاتی ہے

27- وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ۔ (آیت ۳۱، سورت ہود ۱۱)  
ترجمہ۔ میں تم سے نہیں کہتا کہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کی ساری باتیں جانتا ہوں۔

28- قُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَإِنْتَظِرُ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ۔ (آیت ۲۰، سورت یوس ۱۰)

ترجمہ۔ آپ گھمہ دیجئے کہ غیب کی باتیں تو صرف اللہ کے اختیار میں ہیں، لہذا تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں

29- يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ لَا يُعْجِلُهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ۔ (آیت ۱۸، سورت الاعراف ۷)

ترجمہ۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، وہی اسے اپنے وقت پر کھول کر دیکھائے گا۔

30- يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ۔ (آیت ۲۳، سورت الاحزاب ۴۳)

ترجمہ۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے

31- وَ لَوْ كُثُرَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا سُتْكَثُرُ مِنَ الْخَيْرِ وَ مَا مَسَنَى السُّوءُ (آیت ۱۸۸، سورۃ الاعراف ۷)

ترجمہ۔ اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اچھی اچھی چیزیں خوب جمع کرتا، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچتی

ان ۸ آیتوں میں حضور سے یہ اعلان کروایا گیا ہے کہ، مجھے علم غیب نہیں ہے۔ صرف اللہ کے پاس علم غیب ہے، تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ حضور ﷺ کو علم غیب ہے

حضرۃ ﷺ سے اعلان کروایا گیا کہ میرے پاس جو علم ہے  
وہ وحی کے ذریعہ سے ہے  
میں اسی کی اتباع کرتا ہوں

ان 6 آیتوں میں حصر اور تاکید کے ساتھ ہے کہ میرے پاس جو بھی علم ہے وہ وحی کے ذریعہ ہے

32۔ قُلْ إِنَّمَا أَتَيْتُ مَا يُوْحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّيْ - (آیت ۲۰۳، سورت الاعراف ۷)

ترجمہ۔ آپؐ کہہ دیجئے میں تو صرف اس وحی کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی جانب سے  
وحی کی جاتی ہے۔

33۔ إِنْ أَتَيْتُ بِإِلَّا مَا يُوْحَى إِلَيَّ - (آیت ۵۰، سورت الانعام ۶)

ترجمہ۔ میں تو صرف اس وحی کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے

34۔ إِنْ أَتَيْتُ بِإِلَّا مَا يُوْحَى إِلَيَّ - (آیت ۱۵، سورت یونس ۱۰)

35۔ إِنْ أَتَيْتُ بِإِلَّا مَا يُوْحَى إِلَيَّ وَ مَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (آیت ۹، سورت الاحقاف ۴۶)

36۔ وَ أَتَيْتُ مَا يُوْحَى إِلَيْكَ - (آیت ۱۰۹، سورت یونس ۱۰)

37۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوْحَى - (آیت ۲، سورت النجم ۵۳)

ان 6 آیتوں میں حصر کے ساتھ حضور نے یہ بتایا کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ صرف وحی کے ذریعہ  
آیا ہوا ہے، میں اسی کی اتباع کرتا ہوں، اس لئے علم غیب ثابت کرنے کے لئے بہت کچھ سوچنا ہوگا۔

اس کے باوجود علم غیب مانے تو اس کے لئے کوئی آیت ہو جس میں صراحت کے ساتھ یہ اعلان کیا گیا ہو  
کہ میں نے حضورؐ کو تمام علم غیب عطاً طور پر دئے ہیں۔

## ان پانچ باتوں کا علم کسی کو بھی نہیں ہے

اس آیت میں ہے کہ ان پانچ چیزوں کا علم تو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔

38- إِنَّ اللَّهَ عِنْدُهُ عِلْمٌ السَّاعَةُ وَ يُنَزِّلُ الْعِيْثُ، وَ يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وَ مَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا ذَاتَكَسِبٌ غَدَاءً، وَ مَا تَدْرِي نَفْسٌ بِإِيْ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ خَبِيرٌ۔ (آیت ۳۲، سورۃلقمان ۳۱) ترجمہ۔ یقیناً اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش بر ساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماوں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کسی تنفس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور کسی تنفس کو یہ پتہ ہے انکو سر زمین میں موت آئے گی، بیشک اللہ ہر چیز کا مکمل علم رکھنے والا ہے، ہربات سے پوری طرح باخبر ہے۔

اس آیت میں ہے کہ، ان پانچ چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے، کسی اور کوئی نہیں ہے

## حضور سے اعلان کروایا گیا کہ، علم غیب ہوتا

### تو مجھے کوئی نقصان ہی نہیں پہنچتا

39- وَ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا سُتَكُثِرُ مِنَ الْخَيْرِ وَ مَا مَسَنَى السُّوءُ۔ (آیت ۱۸۸، سورۃالاعراف ۷) ترجمہ۔ اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اچھی اچھی چیزیں خوب جمع کرتا، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچتی۔

اس آیت میں ہے کہ، حضور ﷺ سے کہلوار ہے ہیں کہ اگر مجھے علم غیب ہوتا تو خیر کی بہت سے چیزیں جمع کر لیتا، اور مجھے کوئی نقصان چھوتا بھی نہیں۔

حضورؐ سے اعلان کروایا گیا کہ، اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجی ہے  
اور صرف وہی غیب جانتا ہے

آیت یہ ہے

40۔ وَ عِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۔ (آیت ۵۹، سورۃ الانعام ۶)

ترجمہ۔ اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اللہ کے علاوہ ان کو کوئی نہیں جانتا۔

ان 40 چالیس آیتوں میں حضورؐ یہ انکار کر رہے ہیں کہ مجھے علم غیب نہیں ہے تو پھر علم غیب کیسے ثابت کر دیا جائے۔

اور اگر عطائی طور پر علم غیب ہے تو ان آیتوں میں اس کا انکار نہیں ہونا چاہئے۔

یا پھر کسی آیت میں صراحت کے ساتھ اس کا ذکر ہو کہ اللہ نے حضور ﷺ کو عطائی طور پر تمام علم غیب دیا ہے۔، جو تلاش کرنے کے بعد مجھے نہیں ملی۔

اور جن دو آیتوں سے علم غیب ثابت کرتے ہیں وہاں وہی کاذکر موجود ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو وحی کے ذریعہ سے غیب کی بہت سی باتیں بتائی گئی ہیں۔

## حضرور ﷺ کو علم غیب نہیں تھا، احادیث میں اس کا ثبوت

5 حدیثیں یہ ہیں

حضرور ﷺ کی بیوی حضرت عائشہؓ پر منافقین نے تہمت لگائی، جس کی وجہ سے تقریباً ایک ماہ تک حضورؐ پریشان رہے، پھر حضرت عائشہؓ کی برأت میں سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئیں تب حضورؐ کو اطمینان ہوا۔ اگر حضورؐ عالم الغیب تھے تو ایک ماہ تک پریشان ہونے کی ضرورت کیا تھی، آپؐ کو معلوم ہو جانا تھا کہ حضرت عائشہؓ بری ہیں۔ اس کے لئے حدیث یہ ہے۔

1۔ عتبہ بن مسعود عن عائشہؓ رضی الله عنها زوج النبی ﷺ حین قال لها اهل الافک ما قالو.... وقد لبث شهرا لا يوحى اليه في شأنى بشيء قالت فتشهد رسول الله ﷺ حین جلس ثم قال اما بعد يا عائشة انه بلغنى عنك كذا فان كنت بريئة فسييرئك الله و ان كنت الممت بذنب فاستغفرى الله و توبى اليه ..... و انزل الله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْأَفْكَرِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ﴾ [آیت ۱۱]، سورت النور ۱۸﴾ (بخاری شریف، کتاب المغازی، باب حدیث الافک، ص ۱۰۵، نمبر ۳۱۲۳، مسلم شریف، کتاب التوبۃ، باب فی حدیث الافک و قبول التوبۃ، ص ۱۲۰۵، نمبر ۷۰۲۰/۲۷) حضرت عائشہؓ پر تہمت، اور انکی برأت کے بارے میں یہ بہت لمبی حدیث ہے۔ یہ اس کا مختصر ہے۔

ترجمہ۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں، تہمت لگانے والوں نے جب کہا۔۔۔ ایک مہینے تک میرے بارے میں کوئی وحی نہیں آئی، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضورؐ نے بیٹھ کر حمد و شکر کی، پھر فرمایا، عائشہؓ! تمہارے بارے میں ایسی ایسی باتیں پہنچی ہیں، اگر تم بری ہو تو اللہ بری کر دیں گے، اور اگر تم نے گناہ

کیا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو۔۔۔ پھر اللہ نے یہ آیتیں اتاریں [آیا رس ۱۸] یقیناً جو تہمت لگانے والے تھے وہ ایک جماعت تھی۔ ان

اس حدیث میں دیکھیں کہ حضور گواپنی چیتی بیوی کے بارے بھی علم نہ ہو سکا کہ یہ بری ہیں یا نہیں اور ایک ماہ تک پریشان رہے۔ اگر آپ اعلم غیب ہوتا تو یہ پریشانی کیوں ہوتی۔

نماز جیسی اہم عبادت میں آپ بھول گئے، اور پھر فرمایا کہ میں بھی بھولتا ہوں، اور یہ بھی کہا کہ مجھے یاد دلا دیا کرو، اگر آپ عالم الغیب ہیں تو بھولنے کا کیا مطلب، پھر یاد کروانے کے لئے کیوں کہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا۔

اس کے لئے حدیث یہ ہے

2- قال عبد الله صلى النبی ﷺ ..... قال انه لو حدث في الصلوة شيء لنبأكم به و لكن انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فإذا نسيت فذكرونني - (بخاري شریف، کتاب الصلاة، باب التوجة نحو القبلة حيث كان، ص ۲۰۷، نمبر ۲۰۴ مسلم شریف، کتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والتجو دله، ص ۲۳۲، نمبر ۵۷۲، ۱۲۸۵)

ترجمہ۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ حضور نے نماز پڑھائی۔۔۔ فرمایا اگر نماز میں کوئی تبدیلی ہوئی ہوتی تو میں تم لوگوں کو ضرور بتاتا، لیکن میں تمہاری طرح انسان ہوں، جس طرح تم لوگ بھولتے ہو میں بھی بھولتا ہوں، پس جب بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔

اس حدیث میں ہے کہ میں بھول جاتا ہوں تو علم غیب کیسے ہوا۔

- فیصلے جیسے اہم موقع پر ایک غیر سچ کو سچا مان لیں اور اس کے لئے فیصلہ بھی کر دیں، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ غیب نہیں جانتے ہیں، ورنہ غیر سچ کو آپ سچا کیسے مان سکتے ہیں۔

3- ان امہا ام سلمة زوج النبی ﷺ ..... فخر ج الیہم فقال : انما انا بشر و انه يأتينى الخصم فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض فاحسب انه صدق فاقضى له بـذاك۔ (بخاری شریف، کتاب المظالم، باب اثمن خاصم فی باطل و هو يعلمہ، ص ۳۹۶، نمبر ۲۲۵۸) ترجمہ۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے۔۔۔ حضور گوگوں کے پاس آئے اور فرمایا میں ایک انسان ہوں، میرے پاس جھگڑے لیکر آتے ہیں، یہ بہت ممکن ہے کہ بعض دلیل پیش کرنے میں زیادہ ماہر ہو جس سے میں گمان کر لوں کہ یہ سچا ہے، اور اس کے لئے اس کا فیصلہ کر دوں۔

اس حدیث میں ہے کہ کبھی کسی کو اس کی باتوں سے سچا مان لیتا ہوں، تو پھر حضور کو علم غیب کیسے ہو گیا!

- قیامت میں بھی حضور ﷺ کو علم غیب نہیں ہو گا، جس کی وجہ سے آپ ﷺ ایسے آدمی کو آپ مومن اور اپنا ساتھی سمجھ لیں گے جو بعد میں مومن نہیں رہے تھے ،

4- حدیث یہ ہے۔ عن ابن عباس .... الا و انه یجاء برجال من امتی فیو خذ بهم ذات الشمال فاقول يا رب أصیحابی فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک فاقول كما قال العبد الصالح و كنت علیہم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتني كنت انت الرقیب علیہم فیقال ان هولاء لم یز الوا مرتدین علی اعقابهم منذ فارقہم۔ (بخاری شریف، کتاب الفہیر، باب وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم - ص ۹۱، نمبر ۳۶۲۵، مسلم شریف، کتاب الفضاہل، باب اثبات حوض مینا ﷺ وصفاتہ، ص ۱۰۱۸، نمبر ۲۳۰۷، نمبر ۵۹۹۶)

ترجمہ۔ حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ۔۔۔ قیامت میں میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں

گے، انکے بد اعمالیوں نے اس کو گرفتار کر لیا ہوگا، میں [حضورؐ] کہوں گا یہ میرے ساتھی ہیں، تو مجھ سے کہا جائے گا آپ کے بعد اس نے کیا کام کیا یہ آپ کو معلوم نہیں ہے، تو وہی بات کہوں گا جو ایک نیک بندے [حضرت عیسیٰ علیہ السلام] نے کہی تھی، آئے اللہ جب آپ نے مجھے موت دی، تو آپ ہی اس پر نگران رہے، پھر مجھ کو اطلاع دی جائے گی، کہ جب سے آپؐ ان لوگوں سے جدا ہوئے ہیں تو یہ اپنی ایڑیوں کے بل واپس لوٹ گئے تھے۔

شفاعت کبریٰ کے وقت بھی آپؐ کو حمد یاد نہیں ہوگا،

اس وقت اللہ آپؐ کو حمد کا الہام کریں گے

5۔ اس کے لئے حدیث یہ ہے

5۔ عن انس بن مالک قال قال رسول الله ﷺ يجمع الله تعالى الناس يوم القيمة فارفع رأسى فاحمد ربى بتحميد يعلمنيه ربى (مسلم شریف، کتاب الایمان، باب ادنی اہل الجنة منزلة فیها، ص ۱۰۱، نمبر ۳۷۵/۱۹۳۷) رجباری شریف، کتاب التوجید، باب قول اللہ تعالیٰ لما خلقت بیدی، ص ۲۷۵، نمبر ۳۱۰ (۷)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ لوگوں کو جمع کریں گے۔۔۔ میں اپنا سر اٹھاؤں گا، پھر رب کی ایسی حمد کروں گا، جس کو اللہ مجھے سکھائیں گے

اس حدیث میں ہے کہ میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا تو اللہ مجھے حمد کا الہام فرمائیں گے جس سے میں عجیب حمد کروں گا، جس سے معلوم ہوا کہ حضورؐ علم غیب نہیں تھا۔

ان 5 حدیثوں سے معلوم ہوا کہ حضورؐ علم غیب نہیں تھا، ہاں غیب کی کچھ باقتوں کی آپؐ کو خبر دی گئی ہے، جو اولین اور آخرین کے علم سے زیادہ ہے، یہ صحیح ہے۔

## جو اللہ کے علاوہ کے لئے علم غیب مانے وہ کافر ہے امام ابوحنفیہؓ کی رائے

امام ابوحنفیہؓ کی مشہور کتاب فقہاء کبریٰ ہے، حضرت ملا علی قاریؓ نے اس کی شرح کی ہے، جس کا نام شرح فقہاء کبریٰ ہے، اس میں ہے، کہ جو اللہ کے علاوہ کو عالم الغیب مانے وہ کافر ہے۔  
شرح فقہاء کبریٰ کی عبارت یہ ہے۔

ثم اعلم ان الانبياء ﷺ لم يعلموا المغيبات من الاشياء الا ما علمهم الله تعالى  
احيانا.

و ذكر الحنفية تصريحا بالتكفير باعتقاد ان النبي ﷺ يعلم الغيب لمعارضة قوله تعالى، ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبُ إِلَّا اللَّهُ﴾ - [آیت ۲۵، سورت انمل ۷۲] کذافی المسامرة۔ (شرح فقہاء کبریٰ، مسئلۃ فی ان تقدیل الکاصن بما تخبر به من الغیب کفر، ص ۲۵۳)

ترجمہ۔ پھر یہ جان لو کہ، انہیاء علیہم السلام غیب کی بالتوں کو نہیں جانتے تھے، ہاں کبھی کبھار جتنا بتا دیا جاتا تھا اتنا جانتے تھے۔

حنفیہ نے اس بات کو صراحت سے لکھا ہے کہ جو اعتقاد رکھے کہ حضور ﷺ غیب کو جانتے تھے، وہ کافر ہے، کیونکہ اس کے خلاف میں اللہ تعالیٰ کا قول ہے [آیت ۲۵، سورت زمین ۷۲]، آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے۔

شرح فقہاء کبریٰ اس عبارت میں ہے کہ جو یہ اعتقاد رکھے کہ حضور ﷺ کو علم غیب تھا وہ کافر ہے۔

حضور ﷺ کو غیب کی بہت سی باتیں بتائی گئیں ہیں

جو اولین اور آخرین سے زیادہ ہیں

لیکن وہ جز علم ہے کل نہیں ہے

[۲]۔۔۔ علم غیب کی دوسری صورت یہ ہے کہ، غیب کی باتیں، غیب کی چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بتائی ہیں۔ حضور گواہ اللہ تعالیٰ نے جتنی باتیں بتائیں، وہ تو رسول ﷺ کے لئے ثابت ہیں۔ یہ علم ایک توالہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ علم بعض ہے اللہ کا کل علم نہیں ہے لیکن یہ بعض علم بہت چھوٹا نہیں ہے، یہ علم بھی اتنا عظیم ہے کہ اولین اور آخرین کو جتنا علم دیا گیا ہے ان سے زیادہ ہے

حضور ﷺ کو جو غیب کی باتیں بتائی گئی ہیں

اس کی 7 صورتیں ہوتی تھیں

[۱]۔ وحی کے ذریعہ حضور ﷺ غیب کی باتیں بتائی جاتی تھیں

[۲]۔ انباء الغیب، یعنی غیب کی خبر دی گئی، اس کے ذریعہ غیب کی باتیں بتائی جاتی تھیں

[۳]۔ غیب کی بات ہے، حضور ﷺ پر اس کو ظاہر کی گئی ہے۔ تفسیر ابن عباس میں ہے کہ یہ بعض علم غیب ہے، سب نہیں ہے۔

[۴]۔ غیب کی بات ہے، حضور ﷺ کو اس پر مطلع کیا گیا ہے، یہ بھی حضور گودی گئی ہے۔ تفسیر ابن عباس میں ہے کہ یہ بعض علم غیب ہے، سب نہیں ہے۔

[۵]۔ غیب کی بہت ساری باتیں ہیں، جنکو حضور ﷺ کے سامنے کر دی گئی۔ جیسے معراج میں لیجا کر آپؐ کو بہت کچھ دکھلایا گیا،

[۶]۔ یا نماز میں جنت اور جہنم کی چیزیں دکھلائی گئیں

[۷]۔ یا زمین کو آپؐ کے سامنے کر دی گئی، اور مشرق سے مغرب تک آپؐ نے دیکھ لی۔

یہ سب بھی بعض غیب ہیں، وہ تمام غیب نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہیں

[۱]--- وَهُوَ عِلْمٌ غَيْبٌ جَوَوْحِیٌّ کے ذریعہ دیا گیا ہے۔

اس کے لئے آپ تین یہ ہیں

41- قُلْ مَا كُنْتُ بِدُّعَاً مِنَ الرُّسُلُ وَ مَا أَدْرِی مَا يَفْعَلُ بِي وَ لَا يُكْمُمُ إِنْ اتَّبَعْ إِلَّا مَا يُؤْخِذُ إِلَيَّ وَ مَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ (آیت ۹، سورت الاحقاف ۲۶)

ترجمہ۔ کہو کہ میں پیغمبروں میں سے کوئی انوکھا پیغمبر نہیں ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور نہ معلوم کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، میں کسی اور چیز کی نہیں، صرف اس وجی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے بھیجی جاتی ہے

42- وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُؤْخِذُ (آیت ۳-۲، سورت النجم ۵۳)

ترجمہ۔ اور یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، یہ تو خالص وحی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے

[۲]--- وَهُوَ عِلْمٌ غَيْبٌ جَوَوْحِیٌّ کے ذریعہ دیا گیا ہے، جسکو انباء الغیب کہا گیا ہے ،

ان ۳ آتوں میں یہ وضاحت ہے کہ غیب کی کچھ ہی خبروں کی آپ پر وحی کی گئی ہے، سب کی نہیں

43- ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ إِلَيْكَ۔ (آیت ۲۲، سورت آل عمران ۳)

ترجمہ۔ یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعہ آپ کو دے رہے ہیں

44- ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ إِلَيْكَ وَ مَا كُنْتُ لَدَيْهُمْ۔ (آیت ۱۰۲، سورت یوسف)

(۱۲) ترجمہ، یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعہ آپ کو دے رہے ہیں، اور آپ انکے پاس نہیں تھے

45- تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ إِلَيْكَ۔ (آیت ۳۹، سورت ھودا ۱۱)

ترجمہ۔ یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعہ آپ کو دے رہے ہیں

ان آئیوں میں ہے کہ غیب کی کچھ باتیں ہیں جو حجت کے ذریعہ مجھے بتائی گئی ہیں اسی کو انباء الغیب کہا گیا [۳]۔۔۔ تیسری صورت یہ ہے کہ۔۔۔ ہے غیب کی بات، حضور ﷺ پر اس کو ظاہر کی گئی ہے۔۔۔ اس کی دلیل یہ آیت ہے

۴۶۔ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ۝ إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدِيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصْدًا ۝ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا۔ (آیت ۲۸، سورۃ الحجۃ ۲۷)

ترجمہ۔ اللہ ہی غیب کی ساری باتیں جانے والا ہے، چنانچہ وہ اپنے بھید پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مساوئے کسی پیغمبر کے جسے اس نے [اس کام کے لئے] پسند فرمایا ہو، ایسی صورت میں وہ اس پیغمبر کے آگے پچھے کچھ محفوظ لگا دیتا ہے تاکہ اللہ جان لے کا انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام کو پہنچادے ہیں اس آیت میں ہے کہ۔۔۔ آپ پر غیب کی باتیں ظاہر کی ہیں

[۴]۔۔۔ غیب کی باتیں ہیں، حضور ﷺ کو ان پر مطلع کیا گیا ہے، یہ بھی حضور گودی گئی ہے۔۔۔ تفسیر ابن عباس میں ہے کہ یہ بعض علم غیب ہے، سب نہیں ہے۔۔۔ اس کی دلیل یہ آیت ہے۔۔۔

۴۷۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلَعُكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَ لِكَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَنْ رُسِّلَهُ مِنْ يَشَاءُ۔ (آیت ۹، سورۃ آل عمران ۳)

ترجمہ۔ اور ایسا نہیں کر سکتا کہ تم کو براہ راست غیب کی باتیں بتادے، ہاں وہ [جتنا بتانا مناسب سمجھتا ہے اس کے لئے] اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔۔۔ اس آیت میں ہے۔۔۔ اللہ نے حضور کو غیب کی بعض باتوں پر مطلع کیا ہے

[۵]--- پانچویں صورت یہ ہے کہ۔ غیب کی باتیں ہیں، لیکن حضورؐ کے سامنے کر دی گئیں۔  
اس کا ثبوت اس آیت میں ہے

48- سُبْحَنَ الَّذِي بِعْدِهِ لَيْلٌ مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي  
بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِتُرْيَهُ مِنْ آيَاتِنَا۔ (آیت ۱، سورت بنی اسرائیل ۱۷)  
ترجمہ۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے  
ماحوں پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں، تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں  
اس آیت میں۔ اس کا ذکر ہے کہ آپؐ کو کائنات کی بہت ساری چیزیں دکھلائی گئیں ہیں

[۶]--- چھٹی صورت آپؐ کے سامنے جنت اور جہنم کر دی گئی، جس کی وجہ سے حضورؐ جنت اور جہنم  
کی بہت سی چیزیں دیکھیں

6- عن انس <sup>رض</sup> قال سألهُ النبِيُّ ﷺ حتَّى أحفوهُ بالمسئلَةِ فصعدَ النبِيُّ ﷺ ذاتَ يوْمِ  
المنبرِ فقال لا تسألوني عن شَيْءٍ إِلَّا بَيَّنْتُ لَكُمْ ..... فقال النبِيُّ ﷺ مَا رأيْتُ فِي  
الخَيْرِ وَ الشَّرِ كَالْيَوْمِ قَطُّ ، انْه صورت لِي الْجَنَّةُ وَ النَّارُ حَتَّى رأَيْتُ هُمَا دُونَ الْحَائِطِ  
(بخاری شریف، کتاب الفتن، باب التعود من الفتن، ج ۲۲، نمبر ۸۹)

ترجمہ۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے حضورؐ سے پوچھنا شروع کیا تو آپؐ ایک دن منبر پر  
چڑھے، اور کہا کہ جو کچھ تم پوچھو گے، میں تمکو اس کے بارے میں بتاؤں گا۔۔۔ حضورؐ نے فرمایا کہ آج  
کی طرح میں نے کبھی خیر اور شر کو نہیں دیکھا، میرے سامنے جنت اور جہنم کر دی گئی، یہاں تک کہ میں  
نے ان دونوں کو دیوار کے پیچے دیکھا۔

اس حدیث میں۔۔۔ ہے کہ حضورؐ کے سامنے جنت اور جہنم کر دی گئی اور آپؐ نے ان کو قریب سے دیکھا

[۷] -- یادِ دنیا اور آخرت کی کچھ چیزیں آپ کے سامنے کر دی گئی، اور آپ نے انکو دیکھ لی۔

7- عن ابی بکر الصدیق قال اصیح رسول الله ﷺ ذات یوم .... فقال نعم عرض  
علی ما هو کائن من امر الدنیا و امر الآخرة۔ (مسند احمد، مسند ابی بکر، ج ۱، ص ۱۰، نمبر ۱۶)،  
ترجمہ۔ ایک دن صحیح ہوئی۔۔۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں جو [بڑے بڑے معاملے] ہونے  
والے ہیں وہ عرض کر دئے گئے

اس حدیث میں ہے۔۔ دنیا اور آخرت میں جو بڑے بڑے معاملے ہونے والے ہیں وہ میرے سامنے  
کر دئے گئے، تو یہ صورت بھی ہے کہ حضورؐ کے سامنے غیب کی کچھ باتیں ظاہر کر دی گئی، اور آپؐ نے ان  
کو دیکھ لیا، یہ غیب کی باتیں بتانے کی پانچویں صورتیں ہیں  
لیکن آگے بتایا جائے گا کہ یہ غیب کی بعض باتیں ہیں، کل نہیں ہیں، اور وہ ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ کا  
علم تولاً مُنتہی ہے، تو وہ حضورؐ کیسے دیا جاسکتا ہے، جن کی مُنتہی ہے۔

## وَهُآیتٍ جن سے کلی علم غیب ہونے کا شہہ ہوتا ہے

کچھ حضرات ان احادیث سے علم غیب عطائی ثابت کرتے ہیں بعض حضرات نے آیت میں تینا لکل شیء، سے استدلال کیا ہے کہ اس کتاب میں ہر چیز ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کو تمام کے علوم غیب دے دئے گئے۔

آیت یہ ہے

49- وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَ هُدًى وَ رَحْمَةً وَ بُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (آیت ۸۹، سورت الحلق ۱۶)۔ ترجمہ۔ اور ہم نے تم پر یہ کتاب اتاری ہے تاکہ وہ ہربات کو کھول کر بیان کرے، اور مسلمانوں کے لئے ہدایت، اور رحمت، اور خوشخبری ہو تفسیر ابن عباس میں، تبیاناً لِكُلِّ شَيْءٍ، کی تفسیر کی ہے، من الحلال، و الحرام، و الامر، و النهي، کہ اس کتاب [قرآن] میں حلال، حرام، امر، اور نہی، کی تفصیل ہے، تمام علم غیب نہیں ہے تفسیر کی عبارت یہ ہے۔ (تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ) من الحلال، و الحرام، و الامر، و النهي) اس لئے اس آیت سے کلی علم غیب ثابت کرنا مشکل ہے

50- مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَ لِكُنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيلُ كُلِّ شَيْءٍ وَ هُدًى وَ رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ - (آیت ۱۱، سورت یوسف ۱۲)۔ ترجمہ۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو جھوٹ موت گھڑی گئی ہو، بلکہ اس سے پہلے جو کتاب آچکی ہے اس کی تصدیق ہے، اور ہربات کی وضاحت، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے لئے ہدایت اور رحمت کا سامان ہے بعض حضرات نے استدلال کیا ہے کہ، اس آیت میں ہے کہ حضور پر قرآن اتارا، اور اس آیت میں ہے

کہ تمام چیزوں کی تفصیل ہے تو حضورؐ کو تمام چیزوں کا علم غیب ہو گیا۔ لیکن تفسیر ابن عباس میں ہے کہ یہاں تمام تفصیل سے مراد حلال اور حرام کی تفصیل ہے، تمام علوم غمیبیہ نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو اس کتاب میں ہے بھی نہیں۔ اور اللہ کا لامحہ و علم اس کتاب میں کیسے ہو سکتا ہے تفسیر ابن عباس کی عبارت یہ ہے۔

تفسیر ابن عباس کی عبارت یہ ہے۔ ﴿وَ تَفْصِيلٌ كُلُّ شَيْءٍ﴾ تبیان کل شیء من الحال و الحرام۔ (تفسیر ابن عباس، آیت ۱۱۱، سورت یوسف ۱۲، ص)

51- عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا。 إِلَّا مِنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدِيهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا، لِيَعْلَمُ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَ أَحَاطَ بِمَا لَدِيهِمْ وَ أَخْصَى كُلُّ شَيْءٍ عَدْدًا۔ (آیت ۲۶۔ ۲۸، سورۃ الجن ۷۲)

ترجمہ۔ اللہ ہی غیب کی ساری باتیں جانے والا ہے، چنانچہ وہ اپنے بھید پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مساوئے کسی پیغمبر کے جسے اس نے [اس کام کے لئے] پسند فرمایا ہو، ایسی صورت میں وہ اس پیغمبر کے آگے پچھے کچھ محفوظ لگادیتا ہے تاکہ اللہ جان لے کا انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام کو پہنچادے ہیں اس آیت سے بعض حضرات نے استدلال کیا ہے کہ، اللہ جن رسول سے راضی ہوتے ہیں ان پر غیب ظاہر کر دیتے ہیں، لہذا حضورؐ پر غیب ظاہر کر دیا اس لئے وہ علم غیب جانے والے بن گئے۔ لیکن اس آیت سے استدلال درست نہیں ہے کیونکہ اس آیت میں ہے قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ اس علم کو رسول پر ظاہر کرتے ہیں جو رسالت کے قبل سے ہو، تمام علم غیب نہیں ہے، آپ خود بھی آیت پر غور کر لیں

تفسیر ابن عباس میں ہے کہ یہاں بھی غیب سے مراد بعض غیب ہے، اس کی عبارت یہ ہے۔ ﴿فَلَا

یظهر ﴿فَلَا يطْلُعُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدٌ إِلَّا مَنْ أَرَتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾ الا من اختار من الرسل فانه يطلع على بعض الغيب۔ (تفیر ابن عباس، ص ۲۵-۲۶، آیت ۲۷، سورت الحجج ۲۷) اس تفسیر میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اللہ بعض غیب پر مطلع کرتے ہیں۔ پورا علم غیب نہیں دے دیا۔

52۔ ما كَانَ اللَّهُ لِيُطَلَّعُكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَ لِكِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ بِمَا مَنَّ يَشَاءُ۔ (آیت ۳۶، سورۃ آل عمران)

ترجمہ۔ اور ایسا نہیں کہ سلتا کہ تم کو براہ راست غیب کی باتیں بتادے، ہاں وہ [ختنا بتانا مناسب سمجھتا ہے اس کے لئے] اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اس آیت میں ہے۔ کہ اہل کہہ تم لوگوں کو اللہ غیب پر مطلع نہیں کرتا، ہاں اپنے رسول میں جکلو چاہتے ہیں انکو غیب کی کچھ باتوں کی اطلاع دے دیتے ہیں۔

تفسیر ابن عباس میں یہاں بھی ہے کہ يَعْلَمُ بِعَوْنَى عَوْنَى ہے جو حضور گوجی کے ذریعہ بتایا گیا ہے، اس کی عبارت یہ ہے۔ ﴿وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُطَلَّعُكُمْ﴾ یا اهل مکہ ﴿عَلَى الْغَيْبِ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ یعنی محمدؐ فی طلوعہ علی بعض ذالک بالوحی۔ (تفیر ابن عباس، ص ۸۰، آیت ۳۶، سورۃ آل عمران) اس تفسیر میں دیکھیں، علی بعض ذالک بالوحی، عبارت ہے، کہ وحی کے ذریعہ غیب کی بعض باتوں کی حضور گواطلاع دیتے ہیں، اس لئے یہ کل علم غیب نہیں ہے۔

53۔ وَ لَا رَطْبٌ وَ لَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ (آیت ۵۹، سورۃ الانعام ۶)

ترجمہ۔ یا کوئی خشک، یا کوئی ترچیز ایسی نہیں ہے جو ایک کھلی کتاب میں درج نہ ہو۔ بعض حضرات نے کتاب مبین سے استدلال کیا ہے کہ کتاب مبین سے مراد قرآن کریم ہے، اور یہ حضور

کو دیا گیا ہے، اس لئے حضور کو سارا علم غیب حاصل ہو گیا لیکن یہ استدلال اس لئے صحیح نہیں ہے، کیونکہ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے، جو حضورؐ کو نہیں دی گئی ہے، یہ صرف اللہ کے پاس ہے، اور اس میں سب چیز یہ لکھی ہوئی یہ تفسیر ابن عباس میں بہاں لوح محفوظ، لکھا ہوا، اس کی عبارت یہ ہے ﴿کتاب مبین﴾ کل ذالک فی اللوح المحفوظ ، مبین مقدارہا و وقتہا )

اور لوح محفوظ حضور ﷺ کو نہیں دی گئی ہے اس لئے حضورؐ کو تمام علم غیب نہیں ہوا

## وہ احادیث جن سے علم غیب پر استدلال کیا جاتا ہے

یہاں چار حدیثیں ہیں جن میں ما کان و ما یکون، کاذکر ہے، یعنی جو کچھ ہو چکا ہے اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے حضورؐ نے ان سمجھی چیزوں کو صحابہ کے سامنے بیان کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضورؐ خلق کی پیدائش سے لیکر جنت اور جہنم میں داخل ہونے تک کی غیب کی بات معلوم ہے، اور ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ، ما کان اور ما یکون، کا علم حضورؐ کو حاصل ہے ان احادیث سے کچھ حضرات نے حضورؐ کے لئے علم غیب ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن غور سے دیکھیں گے تو یہ معلوم ہو گا کہ ان احادیث میں یہ ہے کہ حضورؐ کو بڑے بڑے فتنے کی اطلاع دی گئی ہے، یا بڑے بڑے واقعات کی اطلاع دی گئی تھی جن کاذکر حضورؐ نے صحابہ کے سامنے کیا، کیونکہ علم غیب بے انتہاء ہے ان سب کو ایک دن میں کیسے بیان کیا؟ اور بعض حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ حضورؐ نے حضرت حذیفہؓ کے سامنے قیامت تک آنے والے فتنوں کا ذکر کیا ہے اور ان احادیث سے سب علم غیب لے لیں تو یہ احادیث پچھلے 40 آیتوں کے خلاف ہو جائے گی، جن میں ذکر ہے کہ حضورؐ کو علم غیب نہیں ہے

احادیث یہ ہیں

8- عن حذيفة قال قام فينا رسول الله ﷺ مقاماً ما ترك شيئاً يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به حفظه من حفظه و نسيه من نسيه قد علمه أصحابي هؤلاء - (مسلم شریف، کتاب الفتن، باب اخبار النبی ﷺ فیما یکون الی قیام الساعة، ص

(۷۲۶۳/۲۸۹۱، نمبر ۱۲۵)

ترجمہ۔ حضرت حذیفہؓ نے فرمایا حضورؐ ہمارے سامنے کھڑے ہوئے، قیامت تک جتنی باتیں اس جگہ ہونے والی ہیں اس کو بیان کیا، کسی نے ان کو یاد رکھا، اور کسی انکو جلا دیا، میرے یہ ساتھی اس بات کو جانتے ہیں

اس حدیث میں بھی ہے کہ قیامت تک جتنی باتیں ہونے والی ہیں انکو حضورؐ نے بیان کیا دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ، اس حدیث میں بڑے بڑے فتنے کا ذکر ہے، پورا علم غیب نہیں ہے، کیونکہ اسی حدیث کو دوسری سند سے بیان کیا ہے جس میں بڑے بڑے فتنے کا ذکر ہے، وہ احادیث یہ ہیں

9۔ قال حذیفہ بن الیمان والله انی لاعلم الناس بكل فتنۃ هی کائنة ، فيما بینی و بین الساعۃ۔ (مسلم شریف، کتاب الفتن، باب اخبار النبی ﷺ فيما یکون الی قیام الساعۃ، ص ۷۲۶۲/۲۸۹۱، نمبر ۱۲۵)

ترجمہ۔ حضرت حذیفہ بن یمانؓ نے فرمایا کہ، میرے درمیان اور قیامت کے درمیان جتنے فتنے ہونے والے ہیں، خدا کی قسم میں لوگوں میں سے، انکو زیادہ جاننے والا ہوں ۔  
اس لئے یہ پورا علم غیب نہیں ہے ان احادیث میں قیامت تک آنے والے بڑے بڑے فتنوں کا ذکر ہے۔

10۔ عن حذیفة انه قال اخبرني رسول الله ﷺ بما هو كائن الی ان تقوم الساعۃ فما منه شيء الا قد سأله (مسلم شریف، کتاب الفتن، باب اخبار النبی ﷺ فيما یکون الی قیام الساعۃ، ص ۱۲۵، نمبر ۷۲۶۵/۲۸۹۱)

ترجمہ۔ حضرت خدیفہؓ فرماتے ہیں کہ قیامت تک جو کچھؓ فتنے ہونے والے ہیں حضورؐ نے مجھ کو ان کی خبر دی ہے، اور ان میں سے ہر ایک کو میں نے پوچھ بھی لیا ہے

11- حدثنا ابو زید [يعنى عمر و بن اخطب] قال صلى بنا رسول الله ﷺ الفجر و صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فاخبرنا بما كان و بما هو كائن فاعلمنا أحفظنا - (مسلم شریف، کتاب الفتن، باب اخبار النبي ﷺ فيما يكون الى قيام الساعة، ج ۱، رقم ۲۸۹۲، نمبر ۲۶۷)

ترجمہ۔ حضورؐ نے ہم لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی اور منبر پر تشریف لے گئے اور ظہر تک ہمارے سامنے بیان کرتے رہے، پھر اتر کر نماز پڑھائی، پھر منبر پر تشریف لے گئے، اور عصر تک ہمارے سامنے بیان کرتے رہے، پھر منبر سے اترے اور نماز پڑھائی، پھر منبر پر تشریف لے گئے اور آفتاب کے غروب ہونے تک ہمارے سامنے بیان کرتے رہے، اس میں جو کچھ ہو چکے ہیں، اور جو کچھ ہونے والے ہیں، ہم لوگوں کو سب بتایا، اور ہم نے ان کو جان لیا اور ان کو یاد بھی کر لیا۔

اس حدیث میں ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے، اور جو ہونے والے ہیں سب بتایا، اب ظاہر بات ہے کہ ایک دن میں علم غیب کی تمام باتیں نہیں بتاسکتے، بلکہ بڑے بڑے فتنے، اور بڑے بڑے واقعات ہی بتاسکتے ہیں، اسی لئے امام مسلم میں اس حدیث کو کتاب الفتن میں ذکر کیا ہے، اور اسی باب میں حضرت خدیفہؓ کی حدیث پہلے گزری جس میں ہے کہ اس میں بڑے بڑے فتنے کا ذکر ہے جو قیامت تک ہونے ہو لے ہیں، حضورؐ نے ان کا تذکرہ کیا ہے، اس میں تمام علم غیب نہیں ہے ۔

12- سمعت عن عمر<sup>رض</sup> يقول قام فينا النبي ﷺ مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم و أهل النار منازلهم حفظ ذالك من حفظه و نسييه من نسيئه - (بخاري شريف، كتاب بدء الخلق، باب ماجاء في قول الله تعالى ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدِئُ الْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ وَهُوَ أَحَدٌ عَلَيْهِ﴾ [آية ۲۷ سورت الروم] (ص ۵۳۲، نمبر ۳۱۹۶)

ترجمہ۔ حضرت عمر<sup>رض</sup> کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے حضور<sup>صلی اللہ علیہ وسلم</sup> کھڑے ہوئے، اور جب سے مخلوق پیدا ہوئی ہے وہاں سے لیکر جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں، اور جہنم والے جہنم میں داخل ہو جائیں وہاں تک کی خبر نہیں دی، جو ان باتوں کو یاد رکھ سکے انہوں نے یاد رکھا، اور جو بھونے والے تھے انہوں نے بھلا دیا۔

اس حدیث میں بھی بڑی بڑی خبریں، یا بڑے بڑے فتنے، یا بڑے بڑے واقعات حضور<sup>صلی اللہ علیہ وسلم</sup> نے بتائے، اس میں پورا علم غیب نہیں ہے، کیونکہ ایک دن میں پورا علم غیب بتانا ناممکن ہے

13- عن انس<sup>رض</sup> قال سأله النبي ﷺ حتى احفوه بالمسئلة فصعد النبي ﷺ ذات يوم المنبر فقال لا تسألوني عن شئ الا بينت لكم ..... فقال النبي ﷺ ما رأيتك في الخير والشر كاليوم فقط ، انه صورت لى الجنة والنار حتى رأيت هما دون الحائط

قال قتادة يذكر هذه الحديث عند هذه الآية . ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنِ الْأَيَّامِ إِنَّ رَبَّكَ مَعَكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوهُ عَنْهَا هَيْنَ يَنْزِلُ الْقُرْآنَ إِنْ تَبَدَّلُوهُ اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ [آیات ۱۰-۱۱ سورت المائدۃ ۵] (بخاري شریف، کتاب الفتن، باب التغور

من الفتن، ص ۱۲۲، نمبر ۷۰۸۹)

ترجمہ۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے حضورؐ سے پوچھنا شروع کیا تو آپ ایک دن منبر پر تشریف لے گئے، اور فرمایا کہ جو کچھ تم پوچھو گے، میں تمکو اس کے بارے میں بتاؤں گا۔۔۔ حضورؐ نے فرمایا کہ آج کی طرح میں نے کبھی خیر اور شر کو نہیں دیکھا، میرے سامنے جنت اور جہنم کرداری گئی، یہاں تک کہ میں نے ان دونوں کو دیوار کے پیچھے دیکھا۔

بعض حضرات نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ آپ کو علم غیب تھا، تب ہی تو آپ نے فرمایا کہ جو پوچھو گے سب بتاؤں گا

دوسرے حضرات یہ جواب دیتے ہیں کہ خود اس حدیث میں ہے کہ اللہ نے جنت اور جہنم میرے سامنے کرداری جس کی وجہ سے میں بیان کرتا چلا گیا، اس لئے یہ علم غیب نہیں ہے، بلکہ یہ وحی ہے جو آپ پر بار بار نازل ہوتی تھی، یا اطلع علی الغیب ہے، چنانچہ اسی حدیث میں یہ آیت ہے کہ قرآن کے نازل ہوتے وقت سوال پوچھو گے تو سب بات ظاہر کرداری جائے گی، جس سے معلوم ہوا کہ آپ کو وحی کے ذریعہ بات بتادی جاتی تھی۔

14- عن ابی بکر الصدیق قال اصبح رسول الله ﷺ ذات يوم.... فقال نعم عرض على ما هو كائن من امر الدنيا و امر الآخرة ، فجمع الاولون والآخرون في صعيد واحد ففطع الناس بذلك حتى انطلقا الى آدم عليه السلام... و يقول الله عز و جل ارفع راسك يا محمد و قل يسمع و اشفع تشفع۔ (منداحمد، مندابی بکر، ج، ص ۱۰، نمبر ۱۶)

ترجمہ۔ ایک دن صبح ہوئی۔۔۔ تو حضورؐ نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں جتنی چیزیں ہونے والی ہے وہ مجھ پر پیش کی گئی، پس ایک میدان میں اول اور آخر کے تمام لوگوں کو جمع کیا گیا، پس لوگ گھبرا کر

حضرت آدمؑ کے پاس جائیں گے--- اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے محمد اپنے سر کو اٹھائے، اور آپ کہئے بات سنی جائے گی، اور سفارش کیجئے تو سفارش قبول کی جائے گی  
اس حدیث سے بھی بعض حضرات نے استدلال کیا ہے کہ حضور علیم غیب تھا، کیونکہ اس میں ہے کہ دنیا اور آخرت میں جتنی بات ہونے والی ہے، میرے سامنے سب پیش کر دی گئی، اس لئے آپ کو سب چیز کا علم غیب حاصل ہو گیا

دوسرے حضرات نے جواب دیا کہ۔ اس پوری حدیث کو دیکھنے سے پہلے چلتا ہے کہ اس حدیث میں بڑی بڑی چیزیں واضح کی گئی ہیں، اور خاص طور پر قیامت میں کس طرح حضرت آدمؑ اور دوسرے انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے، اور کس طرح آپ شفاعت کبریٰ کریں گے، اس کا ذکر ہے۔ غیب کی تمام باتیں نہیں ہیں

15- عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ أتاني الليلة ربى تبارك و تعالى في احسن صورة . قال احسبه قال في المنام . فقال يا محمد هل تدرى فيم يختص الملاء الاعلى ؟ قال قلت : لا ، قال فوضع يده بين كتفى حتى وجدت بردها بين ثديي ، او قال في نحرى . فعلمت ما في السماوات وما في الأرض قال يا محمد هل تدرى فيم يختص الملاء الاعلى قلت نعم في الكفارات ، المكث في المسجد بعد الصلوة - (ترمذی شریف، کتاب تفسیر القرآن، باب ومن سورۃ ص ۳۲۳، نمبر ۳۲۳۵، نمبر ۳۲۳۷)

ترجمہ - حضور پاکؐ نے فرمایا کہ آج رات اللہ تعالیٰ اچھی صورت میں میرے پاس آئے۔۔۔ راوی کہتے ہیں شاید یہ خواب کی بات تھی۔۔۔ پھر اللہ نے کہا اے محمد آپ کو معلوم ہے کہ ملاء اعلیٰ کے لوگ کس بارے

میں جھگڑا ہے ہیں، میں نے کہا نہیں، تو اللہ نے اپنے ہاتھ کو میرے موٹھے کے درمیان رکھا، یہاں تک کہ سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس ہوتی، آپ نے شدی فرمایا انحری فرمایا، پس جو آسمان میں تھا اور جو زمین میں تھا اس کو جان لیا، اللہ نے پوچھا آئے محمدؐ آپ کو پتہ ہے کہ ملائے اعلیٰ والے کس چیز میں سبقت کر رہے ہیں، میں نے کہاں کفارات میں اور نماز کے بعد مسجد میں ٹھہرنا کا جو ثواب ہے اس بارے میں سبقت کر رہے ہیں ۔

یہاں تین حدیثیں ہیں،

حدیث نمبر ۳۲۳۲ میں ہے۔۔ فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض۔

حدیث نمبر ۳۲۳۳ میں ہے۔۔ فعلمت ما بین المشرق و المغرب۔

اور حدیث نمبر ۳۲۳۵، میں ہے۔۔ فتجلى لى كل شيء و عرفت ۔

بعض حضرات نے ان تین حدیث میں جو، فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، یا، فعلمت ما بین المشرق و المغرب، یا . فتجلى لى كل شيء و عرفت، ہے اس سے ثابت کرتے ہیں کہ حضور گوتمام چیزوں کا علم غیب ہے  
دوسرے حضرات اس حدیث کے بارے میں چار باتیں کہتے ہیں۔

1- یہ حدیث اوپر کی 37 آیتوں کے خلاف ہے، جس میں ہے کہ مجھے علم غیب نہیں ہے۔

2- دوسری بات یہ ہے کہ اسی حدیث میں، لا ادری، ہے، کہ مجھے معلوم نہیں ہے، تو حضور گو علم غیب کیسے ہوا

3- تیسرا بات ہے کہ آپ کو سارا علم غیب نہیں دیا گیا تھا، بلکہ خاص ملائے اعلیٰ کے بارے میں کچھ راز کھولی گئی کہ ملائے اعلیٰ کے لوگ کس بات میں سبقت کرتے ہیں تاکہ حضور اپنی امت کو بھی اس نیکیوں کو بتا

سکیں

۴۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ حدیث خواب کی ہے،  
اس لئے اس حدیث سے تمام چیزوں کا علم غیب ثابت کرنا مشکل ہے

16۔ عن ثوبان قال قال رسول الله ﷺ ان الله زوى لى الارض فرأيت مشارقها و مغاربها و ان امتي سيلع ملكها ما زوى لى منها - (مسلم شریف، کتاب الفتن، باب ہلاک ہنڑہ الامۃ بعضهم بعض، ج ۱۲۵۰، نمبر ۲۸۸۹/۲۸۸۷)

ترجمہ۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ نے میرے لئے زمین کو سمیٹ دیا، پس میں نے اس کے مشرق اور مغرب کو دیکھا، اور جہاں تک سمیٹ گئی میری امت وہاں تک پہنچ جائے گی اس حدیث سے بھی علم غیب ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے

یا ایک مجرہ کا ذکر ہے کہ آپ کے سامنے مشرق اور مغرب کی زمین کر دی گئی، اور آپ نے اس کو دیکھ لیا، لیکن اس حدیث میں وضاحت ہے کہ مشرق اور مغرب کی چیزوں کو دیکھا، صرف مشرق اور مغرب کی چیزوں کو دیکھنا یہ پورا علم غیب نہیں ہے، بلکہ یہ جز ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ، اس میں زوی، ماضی کا صیغہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایک مرتبہ ایسا کیا گیا، ورنہ اگر آپ کو ہمیشہ علم غیب ہے تو آپ کے سامنے زمین کو کرنے کا مطلب کیا ہے، وہ توہر وقت آپ کے سامنے ہے ہی، اس لئے اس حدیث سے علم غیب ثابت نہیں ہوتا۔ بلکہ غیب کی بعض بالتوں کو آپ کو بتائی گئی ہے۔ آپ خود بھی غور کر لیں۔

17۔ عن ابی ذر قال قال رسول الله ﷺ انى ارى ما لا ترون و اسمع ما لا

تسمعون۔ (ترمذی شریف، کتاب الزهد، باب ماجاء فی قول النبی ﷺ تعلموں ما عالم لضحكتم قلیلا، ص ۵۳۰، نمبر ۲۳۱۲) ترجمہ۔ آپؐ نے فرمایا کہ میں جو دیکھتا ہوں تم لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے، اور میں جو سنتا ہوں تم نہیں سن سکتے۔

اس حدیث سے بعض حضرات نے علم غیب پر استدلال کیا ہے، لیکن اس حدیث سے بھی پورا علم غیب ثابت نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کا بعض علم غیب ہے، جو حضور کو بتایا گیا ہے۔

ان 10 دس آیت اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضورؐ کو علم غیب تھا۔ لیکن بار بار عرض کیا جاچکا ہے کہ یہ آیت اور احادیث 40 آئیوں اور 8 احادیث کے خلاف ہیں،

## کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو زید کی ہر حالت کی خبر ہے

[۳]۔۔۔ اور غیب کی تیسری صورت یہ ہے کہ کیا آج زید کی ساری حالت، موت کی حیات کی، روزی کی، شفا کی، نفع کی نقصان کی معلوم ہے تو اس بارے میں آیت بالکل صاف ہے کہ جب حضور کو اپنی حالت کا پتہ نہیں، تو دوسروں کی حالت کا پتہ کیسے ہوگا!

اس کے لئے آیتیں یہ ہیں

54- قُلْ مَا كُنْتُ بِدُعَاٰ مِنَ الرُّسُلِ وَ مَا أَذْرِى مَا يَفْعَلُ بِيْ وَ لَا يُكْمُ إِنْ تَبْعِ إِلَّا مَا يُوْحَى إِلَى وَ مَا آنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (آیت ۹، سورت الاحقاف ۲۶)۔ ترجمہ۔ کہو کہ میں پیغمبروں میں سے کوئی انوکھا پیغمبر نہیں ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور نہ معلوم کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، میں کسی اور چیز کی نہیں، صرف اس وجی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے بھیجی جاتی ہے۔

اس آیت میں حضور اعلان کر رہے ہیں خود میرا بھی پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، اور تیرا بھی پتہ نہیں کہ تیرے ساتھ کیا ہوگا تو آج زید کا علم حضور گوکیسے ہو جائے گا۔

55- تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْعَيْبِ نُوحِيَهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَ لَا قُوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا۔ (آیت ۳۹، سورت ھودا)۔ ترجمہ۔ یہ غیب کی کچھ باتیں ہیں جو ہم تمہیں وحی کے ذریعہ بتا رہے ہیں، یہ باقی نہ تم اس سے پہلے جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم۔

نوٹ: اس آیت میں اللہ خود فرماتا ہے ہیں کہ اے نبی تمہیں کچھ معلوم نہیں تھا، اور نہ آپ کی قوم کو معلوم تھا تو زید کی ہر حال کا علم حضور گوکیسے ہو سکتا ہے

اس عقیدے کے بارے میں 55 آیتیں اور 17 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

## ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ ان کی دیوی اور دیوتا کو علم غیب ہے

ہمارے یہاں کے ہندوکا یہ خاص عقیدہ ہے کہ اس کے رشتی منی [انکے بڑے ولی، جو مر چکے ہیں] وہ غیب کی باتوں کو جانتے بھی ہیں، اور انکی حاجتوں کو سن کر مدد بھی کرتے ہیں، اسی لئے انکابت بناتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں، اور ان سے ضرورتیں بھی مانگتے ہیں۔

اصل بات یہ کہ مسلمان کے علاوہ بہت ساری قوموں کا عقیدہ یہ ہے کہ انکے ولی، یا رہنما، علم غیب کو جانتے ہیں، اور وہ ہماری مدد بھی کر سکتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کے ساتھ ہوں دیوی، دیوتاوں اور اپنے الگ الگ معبودوں کی بھی پوجا کرتے ہیں اور ان سے مدد بھی مانگتے ہیں، اس لئے اللہ نے قرآن میں صاف کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب کا علم نہیں جانتا۔ تاکہ نہ اس کی عبادت کرے، اور نہ اس سے اپنی ضرورت مانگے

اس نکتہ پر غور کریں

## ۱۱۔ صرف اللہ ہی سے مدد مانگ سکتے ہیں

اس عقیدے کے بارے میں 38 آیتیں اور 4 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

### مدد مانگنے کی دو صورتیں ہیں

[۱]--- کوئی سامنے موجود ہو تو اس سے مدد مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ جائز ہے، جیسے حضورؐ سے دعا کرنے کے لئے کہا، یا صاحبہ نے آپ سے کئی چیزیں مانگی، یا جیسے قیامت میں حضورؐ انسانوں کے سامنے ہوں گے تو حضورؐ سے سفارش کی درخواست کریں گے، یا جیسے ڈاکٹر سے کہے کہ آپ میرا اعلان کر دیں، یا مال سے کہے کہ مجھے کھانا دے دیں۔

وہ دعا یا وہ مدد جو حضورؐ سے انکی زندگی میں مانگی ہیں، اور قرآن اور احادیث میں ان کا ذکر ہے، ان عبارات سے بعض حضرات نے یہ استدلال کیا ہے کہ موت کے بعد بھی ان سے مدد مانگنا جائز ہے، حالانکہ موت کے بعد کا معاملہ بالکل الگ ہے، موت کے بعد مدد مانگنے کے لئے باضابطہ آیت یا حدیث ہونی چاہئے

[۲]--- دوسری صورت یہ ہے کہ، ایک آدمی مرا ہو ہے، وہ سامنے موجود نہیں ہے اب اس کے بارے میں یہ یقین کرنا کہ وہ ہماری بات کو سنتا ہے، اور میں جو کچھ مانگوں گا وہ دے دے گا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ایسی مصرف اللہ ہی کر سکتا ہے

## کسی میت سے مانگنے سے پہلے ۴ سوال حل کریں

[۱] پہلا سوال یہ ہے کہ ہم جس میت سے مانگ رہے ہیں وہ ہماری بات سننے بھی ہیں یا نہیں  
 سماں موتی کی بحث میں آرہا ہے کہ مردے ہماری بات سننے بھی ہیں یا نہیں اس بارے میں زبردست  
 اختلاف ہے، ایک جماعت کی رائے ہے کہ مردے نہیں سننے، کیونکہ قرآن نے اعلان کر کے کہا،  
 وَ مَا يَسْتُوِي الْأَحْيَاءُ وَ لَا الْأَمْوَاثُ إِنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ مَنْ يَشَاءُ وَ مَا أَنْتَ بِمُسْمَعٍ مَّنْ فِي  
 الْقَبُورِ۔ (آیت ۲۲، سورت فاطر ۳۵)۔ ترجمہ۔ مردہ اور زندہ برادر نہیں ہیں، اور اللہ تو جس کو چاہتا  
 ہے بات سنادیتا ہے، اور تم ان کو بات سنانہیں سکتے جو قبور میں پڑے ہیں  
 اس آیت میں ہے کہ، اے حضورؐ پ مردے کو نہیں سنا سکتے  
 اور دوسری جماعت کی رائے ہے کہ ہم تو نہیں سنا سکتے، ہاں اللہ چاہے تو کسی بات کو مردے کو سنا سکتے  
 ہیں، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ حضورؐ نے ابو جہل اور ابولہب کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ کیا تم کو وہ چیز مل گئی  
 جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا

حدیث یہ ہے۔ ان ابن عمر اخبرہ قال اطلع النبی ﷺ علی اهل القلیب فقال :  
 وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبَّكُمْ حَقًا ؟ فَقَلَّ لِهِ أَتَدْعُونَ أَمْوَاتًا ، فَقَالَ مَا انتَ باسْمَعْ مِنْهُمْ وَ لَكِنْ  
 لَا يَجِيِّبُونَ۔ (بخاری شریف، باب ماجاء فی عذاب القبر، ص ۲۲۰، نمبر ۱۳۷)

ترجمہ۔ حضور بدرا کے کنویں کے مردے کے پاس کھڑے ہوئے، اور کہا، اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا، تم  
 نے اس کو سچ پالیا؟ لوگوں نے حضورؐ سے کہا کہ آپ مردؤں کو پکار رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ، تم بھی  
 اتنا نہیں سننے جتنا وہ کن رہے ہیں، لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے

اس حدیث میں ہے کہ مردے سنتے ہیں۔

اب چونکہ مردے کے سنتے میں ہی اختلاف ہے اس لئے ہم مردے سے سوال کیسے کریں!

[۲] دوسرا سوال ہے کہ ہم سوال کر لیں، تو کیا مردے ہماری مدد کر سکتے ہیں، جبکہ حدیث میں ہے۔

اذا مات الانسان انقطع عمله۔ ترمذی شریف، نمبر ۶۳۷

ترجمہ۔ انسان جب مرجاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے

، اب وہ دنیوی کوئی کام نہیں کر سکتا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو ہماری مدد کرنے کا اختیار نہیں ہے

[۳] اور تیسرا سوال ہے کہ کیا اللہ نے یا رسول ﷺ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم مردوں سے مانگیں؟

یا ایسے سوال کرنے سے منع کیا ہے

اس تیسرے سوال کے متعلق 30 آیتیں اور 3 حدیثیں آرہی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے

مت مانگو۔

آپ خود بھی ان آیتوں پر غور کریں۔

[۴] اور چوتھا سوال یہ ہے کہ ہندو بھی ایک خدا کو مانتا ہے جسکو وہ، کرشن بھگوان، کہتا ہے لیکن دوسرا

دیوی اور دیوتا سے بھی اپنی مدد مانگتا ہے

، تو آپ بھی جب خدا کے علاوہ، نبیوں سے، ولیوں سے اور دوسرے لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، تو

ہندوؤں اور آپ کے اعتقاد میں کیا فرق رہا؟۔

## دعا صرف اللہ سے مانگنی چاہئے

غائب سے مدد مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مدد مانگ۔

اس کے لئے یہ آیتیں ہیں

۱۔ اَيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اَيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ (آیت ۲، سورہ فاتحہ)

ترجمہ۔ اے اللہ! ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں  
اس آیت میں حصر کے ساتھ بتایا کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اللہ ہی سے مدد مانگتے  
ہیں،

دان رات میں فرض نماز سترہ رکعتیں ہیں، اور کم سے کم سترہ مرتبہ ایک مومن سے کہلوایا جاتا ہے کہ ہم  
صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اس لئے کسی اور کی عبادت بھی جائز  
نہیں اور کسی اور سے مدد مانگنا بھی جائز نہیں ہے۔

۲۔ اَغْيِرَ اللَّهُ تَدْعُونَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ، بَلْ اِيَّاهُ تَدْعُونَ۔ (آیت ۲۰-۲۱، سورۃ الانعام ۶)

ترجمہ۔ تو کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو، بلکہ اسی کو پکارو گے۔

۳۔ اَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ (آیت ۱۸، سورۃ الحج ۲)

ترجمہ۔ سجدہ صرف اللہ کے لئے ہے، اس لئے اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو

۴۔ اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ عِبَادٌ اُمَثَالَكُمْ۔ (آیت ۱۹۷، سورۃ الاعراف ۷)

ترجمہ۔ اللہ کے علاوہ جس کو پکارتے ہو وہ تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں

۵۔ وَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُوْنِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ۔ (آیت ۱۳، سورۃ فاطر ۳۵)

ترجمہ۔ اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکارتے ہو وہ گھٹلی کے چھلکے کا بھی مالک نہیں ہے [ تو تمہاری مدد کیا کریں گے ]

6۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّيْ وَ لَا اُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا۔ (آیت ۲۰، سورۃ الحجۃ ۷۲)

ترجمہ۔ آپ فرماد تھے کہ میں صرف اللہ ہی کو پکارتا ہوں، اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا

7۔ إِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ (آیت ۱۸، سورۃ الحجۃ ۷۲)

ترجمہ۔ اور یقیناً تمام سجدے اللہ ہی کے لئے ہیں اس لئے اللہ کے ساتھ کسی اور کومت پکارو

اس آیت میں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کومت پکارو، تو دوسرے سے دعا مانگنا کیسے جائز ہوگا

8۔ وَ إِنْ يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَافِشَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ (آیت ۷، سورۃ الانعام ۶)

ترجمہ۔ اگر اللہ تم کوئی تکلیف پہنچائے تو اللہ کے علاوہ کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے

9۔ وَ إِنْ يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَافِشَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ (آیت ۱۰، سورۃ یونس ۱۰)

ترجمہ۔ اگر اللہ تم کوئی تکلیف پہنچائے تو اللہ کے علاوہ کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے

ان 9 آیتوں میں حصر اور تاکید کے ساتھ فرمایا کہ صرف اللہ ہی کو پکارو، اور اسی سے مدد مانگو تو اللہ کے علاوہ سے کیسے مانگنا جائز ہوگا۔

آپ خود بھی ان آیتوں پر غور کریں

ان آیتوں میں تاکید اور حصر کے ساتھ کہا گیا ہے  
کہ صرف اللہ ہی سے مدد و سکتی ہے

10۔ وَمَا النُّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ (آیت ۱۲۶، سورت آل عمران ۳)

11۔ وَمَا النُّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ (آیت ۱۰، سورت الانفال ۸)

ترجمہ۔ مدد تو صرف اللہ ہی کے پاس سے آتی ہے، جو مکمل اقتدار کا مالک ہے، حکمت والا ہے

12۔ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ (آیت ۷۷، سورت البقرۃ ۲)

13۔ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ (آیت ۲۲، سورت العنكبوت ۲۹)

14۔ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ (آیت ۳۳، سورت الشوری ۲۲)

ترجمہ۔ اور اللہ کے سواتھ مہارانہ کوئی رکھوا لا ہے اور نہ مددگار ہے

15۔ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ (آیت ۷۰، سورت البقرۃ ۲)

ترجمہ۔ اور اللہ کے علاوہ تمہارانہ کوئی رکھوا لا ہے اور نہ کوئی مددگار

ان 6 آیتوں میں حصر کے ساتھ بتایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے، اور نہ کوئی رکھوا لا ہے

اس لئے اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں ممکن چاہئے

آپ ان آیتوں کو خود بھی غور سے پڑھیں۔

## حضرورؐ سے اعلان کروایا گیا کہ میں بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں

ان آئیوں میں حضورؐ سے اعلان کروایا کہ کہو کہ میں اپنے لئے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں تاکہ لوگ حضورؐ سے نہ مانگیں، اور جب حضورؐ سے مانگنے سے منع کر دیا گیا تو کسی اور سے مانگنے کی اجازت کیسے دی جائے گی

16- قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَ لَا نَفْعًا إِلَّا مَا شاءَ اللَّهُ۔ (آیت ۱۸۸، سورۃ الاعراف ۷)

17- قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَ لَا نَفْعًا إِلَّا مَا شاءَ اللَّهُ۔ (آیت ۲۹، سورۃ یونس ۱۰) ترجمہ آپ کہہ دیجئے کہ میں خود بھی اپنے آپ کو نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، مگر جو اللہ چاہے

18- قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَ لَا رَشْدًا۔ (آیت ۲۱، سورۃ الحجۃ ۲۷)

ترجمہ۔ آپ کہہ دیجئے نہ تمہارا کوئی نقصان میرے اختیار میں ہے، اور نہ کوئی بھلانی

ان 3 آئیوں میں حضورؐ سے اعلان کروایا گیا کہ، یہ کہہ دو کہ میں کسی کے لئے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں،

اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہندوؤں نے اللہ کے علاوہ دیوی اور دیوتا کو نفع اور نقصان کا مالک جانا اس لئے وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دیوی اور دیوتا کی پوجا کرنے لگے اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔

## ان تین آیتوں میں بھی فرمایا کہ آپ کو اختیار نہیں ہے

19- لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَنْوُبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ - (آیت ۱۲۸، آل عمران ۳)

ترجمہ۔ اے رسول آپ کو اس فیصلے کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا انکو عذاب دے

20- وَ لَا تَقُولُنَّ لِشَيْءٍ إِنْ فَاعِلٌ ذَالِكَ عَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ . ( آیت ۲۳، سورت

الکھف ۱۸ )

ترجمہ۔ اے پیغمبر! کسی بھی کام کے بارے میں کبھی بھی یہ کہنے کہ میں یہ کام کرلوں گا، ہاں یہ کہنے ہا اللہ چاہے گا تو کرلوں گا

21- إِنَّكَ لَا تَهِدِي مَنْ أَحَبُّتُ ، وَ لِكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ -  
( آیت ۵۶، سورہ القصص ۲۸ )

ترجمہ۔ اے پیغمبر! آپ جسکو چاہیں ہدایت تک نہیں پہنچا سکتے، بلکہ جس کو چاہتا ہے ہدایت تک پہنچا دیتا ہے

اس آیت میں ہے کہ آپ کسی کو ہدایت دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے، جب تک کہ اللہ نہ چاہے، آپ ہدایت کے لئے مبعوث ہوئے ہیں، تو جب آپ ہدایت بھی نہیں دے سکتے، تو دوسری چیزیں کیسے دے سکتے ہیں، اور ہم کیسے آپ سے مانگ سکتے ہیں؟ اس پر غور فرمائیں

ان آیتوں میں فرمایا کہ اللہ کے علاوہ جتنکو بھی پکارتے ہو  
وہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتا تو تمہاری مدد کیا کرے گا!

آیتیں یہ ہیں

22- وَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَكُمْ وَ لَا أَنفُسَهُمْ يُنْصَرُونَ۔ (آیت ۱۹، سورت الاعراف ۷) ترجمہ۔ اور تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو، وہ نتمہاری مدد کر سکتے ہیں، اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں

23- لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَكُمْ وَ لَا أَنفُسَهُمْ يُنْصَرُونَ۔ (آیت ۱۹۲، سورت الاعراف ۷) ترجمہ۔ وہ نہ انکی مدد کر سکتے ہیں، اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں

24- وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيئُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ۔ (آیت ۱۳، سورت الرعد ۱۳) ترجمہ۔ اللہ کو چھوڑ کر جتنا یہ پکارتے ہیں وہ انکی دعاووں کا کوئی جواب نہیں دیتے۔

25- وَ إِنْ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ (آیت ۲۲، سورت الحج ۲۲) ترجمہ۔ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس کو پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور اللہ ہی کی شان اوپنجی ہے اور بڑا رتبہ والا ہے

26- قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًا أُوْرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ (آیت ۱۱، سورت الحج ۲۸) ترجمہ۔ آپ کہہ دیجئے اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، یا فائدہ پہنچانا چاہے تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں تمہارے معاملے میں کچھ بھی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، بلکہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو پوری طرح جانتا ہے۔

27- فلا يملكون كشف الضر عنكم و لا تحويلا۔ (آیت ۵۶، سورت الاسراء ۷)

ترجمہ۔ جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود سمجھ رکھا ہے، وہ نہ تم سے کوئی تکلیف دور کر سکیں گے اور نہ اسے تبدیل کر سکیں گے

28- وَ مَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكْنُ الْضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ (آیت ۵۳، سورت النحل ۱۶) ترجمہ۔ اور تم کو جو نعمت بھی حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، پھر جب تمکو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی سے فریاد کرتے ہو۔

29- وَ إِذَا مَسَّ الْإِنْسَانُ الضُّرُّ دَعَا نَحْنِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرًّهُ مَرَّ كَانَ لَمْ يَكُنْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٌّ مَسَّهُ۔ (آیت ۱۲، سورت یوسف ۱۰)

ترجمہ۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے، بیٹھے اور کھڑے ہوئے ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو اس طرح چل کھڑا ہوتا ہے جیسے کبھی اس کو پہنچنے والی تکلیف میں ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔

30- وَ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِيِ إِذَا دَعَانِي (آیت ۱۸۶، سورت البقرۃ ۲)

ترجمہ۔ اے رسول جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں [تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ] میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں،

31- وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَ نَعْلَمُ مَا تُوْسِعُ بِهِ نَفْسُهُ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ (آیت ۱۶، سورت ق ۵۰)

ترجمہ۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں انکو ہم خوب جانتے ہیں، اور ہم انکے شرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں

32- قَالَ رَبُّكُمْ اذْعُونُنِي اسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدُ خُلُقُنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ (آیت ۲۰، سورت غافرین ۳۰)

ترجمہ۔ تمہارے رب نے کہا کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، بیشک جو لوگ تکبر کی بنا پر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔  
اس آیت میں تو شدت کے ساتھ یہ کہا ہے کہ جو مجھ سے نہیں مانگے گا اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا  
33- هُوَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ (آیت ۲۵، سورت غافرین ۳۰)

ترجمہ۔ وہی ہمیشہ زندہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبد نہیں، اس لئے اللہ کو اس طرح پکارو کہ تمہاری تابعداری خالص اسی کے لئے ہو۔

34- إِنْ يَنْصُرَكَ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلَكُمْ فَمَنْ دَأَ الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ۔ (آیت ۱۶۰، سورت آل عمران ۳)

ترجمہ۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے؟

35- بَلِ اللَّهِ مَوْلَأُكُمْ وَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ۔ (آیت ۱۵۰، سورت آل عمران ۳)

ترجمہ۔ بلکہ اللہ تمہارا حامی اور ناصر ہے، اوروہ بہترین دوگار ہے

ان 35 آیتوں میں تاکید کی گئی ہے کہ صرف اللہ ہی سے مانگو، اس لئے دوسروں سے مانگنا جائز نہیں ہے

آپ خود بھی آیتوں پر غور کر لیں

## حدیث میں تعلیم دی گئی ہے کہ صرف اللہ ہی سے مدد مانگے

حدیثیں یہ ہیں

1- عن انس قال قال رسول الله ﷺ لیسأْل احْدَكُمْ رَبَّهِ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّیٰ يَسْأَلَ شَعْرَ نَعْلَهُ اذَا انْقَطَعَ - (ترمذی شریف، کتاب الدعوات، باب لیسأْل رَبَّهِ حَاجَتَهُ، ص ۸۲۲، نمبر ۳۶۰۴)۔ ترجمہ۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک اپنے رب سے تمام ہی ضرورت مانگے، یہاں تک کہ جوتے کا تمہارا ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ ہی سے مانگے۔ اس حدیث میں ہے کہ تمام ضروریات اللہ ہی سے مانگنا چاہئے۔

2- عن عائشة قالت كان رسول الله ﷺ اذا اشتكي من انسان مسحه بيمنيه ثم قال اذهب اليه رب الناس و اشف انت الشافي لا شفاء الا شفائقك شفاء لا يغادر سقما - (مسلم شریف، کتاب السلام، باب استجابة رقية المريض، ص ۲۹۱/ ۵۷۰ نمبر ۹۷)۔ ترجمہ۔ حضور ﷺ کی عادت تھی کہ کوئی آدمی یمار ہوتا تو اس میں ہاتھ سے اس کو چھوٹے، پھر یہ دعا پڑھتے، انسان کے رب تکلیف دور کر دیجئے، آپ شفاذینے والے ہیں آپ ہی شفاذیجے، صرف آپ ہی کی شفا ہے، ایسی شفاجو یماری کو نہ چھوڑے۔

اس حدیث میں صرف اللہ سے شفامانگی گئی ہے

## قیامت میں بھی حضور اللہ سے مانگیں گے اور اللہ دیں گے

اس کے لئے حدیث یہ ہے

3- عن انس قال قال رسول الله ﷺ يجمع الله الناس يوم القيمة فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يرينا من مكاننا ..... ثم يقال لى : ارفع رأسك و سل تعطه ، و قل يسمع ، و اشفع تشفع فارفع رأسى فأحمد ربى بتحميد يعلمنى ، ثم اشفع فيحدلى حدا ثم اخر جهنم من النار و ادخلهم الجنة ثم اعود فاقع ساجدا مثله فى الثالثة او الرابعة حتى ما يبقى فى النار الا من حبسه القرآن - (بخارى ثریف، کتاب الرقاد، باب صفة الجنة والنار، ص ۶۵۶، نمبر ۱۳۶)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ اللہ لوگوں کو قیامت کے دن جمع کریں گے، لوگ کہیں گے کہ کوئی ہمارے رب کے سامنے سفارش پیش کرے تو قیامت کے اس میدان سے ہمیں عافیت مل جائے۔۔۔ پھر مجھ سے اللہ کہیں گے، حضور سراجھائے، مانگو، میں دوں گا، آپ کہئے، بات سنی جائے گی، سفارش کیجئے سفارش قبول کی جائے گی، تو میں سراجھاؤں گا، اور اس وقت ایسی تعریف کروں گا جو تعریف مجھے اللہ سکھائیں گے، پھر سفارش کروں گا، تو میرے لئے ایک حد متعین کی جائے گی، پھر ان لوگوں کو میں آگ سے نکالوں گا، اور جنت میں داخل کروں گا، پھر پہلے کی طرح دوبارہ سجدے میں جاؤں گا، تیسرا مرتبہ، یا چوتھی مرتبہ، یہاں تک کہ قرآن نے جنلو جہنم میں رکھا ہے، صرف وہی جہنم میں رہے گا۔

اس حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ کہیں گے کہ آپ مانگیں، اور میں دوں گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت میں بھی آپ کو اختیار نہیں ہو گا، بلکہ آپ مانگیں گے اور اللہ دیں گے، آپ شفاعت مانگیں گے اور اللہ دیں گے۔

## صرف اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہئے

امام غزالیؒ کی رائے

امام غزالیؒ کی کتاب، قواعد العقامد میں یہ عبارت ہے۔

فالله وحده هو الذى يتقرب اليه المسلم بعبادته و بخضوعه

و من الله وحده يستمد المسلم العون و يطلب الهدایة .

هذا هو المعنى الذى يعينه ، او الذى يجب ان يعنيه المسلم كلما قرأ قول الله تعالى

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [آیت ۳، سورت الفاتحہ] (قواعد العقامد لامام غزالی، باب

تقديم، ص ۹)

ترجمہ۔ اللہ ہی ایک ایسی ذات ہے جس کی عبادت کر کے اور اس کے سامنے جھک کر مسلمان اس کی  
قربت حاصل کرتا ہے

مسلمان، جب بھی، ایسا ک نعبد ، و ایسا ک نستعين، پڑھے تو یہی مطلب لے، یا مسلمان پر

واجب ہے کہ یہی مطلب لے، کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور اسی سے مدد مانگتا ہوں

اس عبارت اور آیت میں ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہئے، اور صرف اللہ ہی سے مدد مانگنی

چاہئے۔ یہی توحید ہے۔

## ان آیات اور احادیث سے شبہ ہوتا ہے کہ وفات کے بعد بھی آپ سے مانگنے کی اجازت ہے

پہلی بات یہ ہے کہ 35 آیتوں میں تاکید کے ساتھ گزر اکہ اللہ ہی سے مانگے اس لئے وہی صحیح ہے اور نیچے کی آیتوں میں جس مدد مانگنے کا ذکر ہے وہ آپ کی حیات میں ہے، اور آپ جب زندہ تھے، آمنے سامنے تھے تو اس وقت آپ سے مانگنے کی ترغیب تھی، یا قیامت میں جب امتنی آپ کے سامنے ہو گا تو وہ آپ سے سفارش کرنے کے لئے کہے گا، یا حوض کو شر کا پانی مانگے، اور یہ سب کے لیہاں جائز ہے

سوال اس وقت ہے کہ کیا آپ کی وفات کے بعد ہمیں آپ سے مانگنے کی اجازت دی گئی ہے، یا کسی ولی یا صاحبی سے مانگنے کی اجازت دی گئی ہے تو اس بارے میں مجھے کوئی آیت، حدیث نہیں ملی، جو آیت یا حدیث ملتی ہے وہ آپ کی حیات کے وقت کی ہے، یا قیامت میں امتنی آپ کے سامنے ہو گا، غائب میں مانگنے کی حدیث مجھے نہیں ملی شبہ کی آیتیں یہ ہیں

۱۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُ وُكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهُ وَ اسْتَغْفِرُ لَهُمُ الرَّسُولُ  
لَوْ جَدُوا اللَّهَ تَوَابًا رَّحِيمًا۔ (آیت ۲۶، سورت النساء)

ترجمہ۔ اور جب ان لوگوں نے [منافقین نے] اپنی جانو پر ظلم کیا تھا، اگر یہ تمہارے پاس آ کر اللہ سے مغفرت مانگتے، اور رسول بھی ان کے لئے مغفرت کی دعا کرتے تو یہ اللہ کو بہت معاف کرنے والا اور بڑا مہربان پاتے

نوٹ: اس آیت میں ترغیب دی گئی ہے کہ حضور کے پاس آ کر استغفار کرنے کے لئے کہتے، جس سے معلوم ہوا کہ حضور سے مانگ سکتے ہیں۔ لیکن یہ مانگنا آپ کی حیات میں ہے جو ہر ایک کے نزدیک جائز ہے۔

2- إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقْيِمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوٰةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ - (آیت ۵۵، سورت المائدۃ ۵)

ترجمہ۔ مسلمانو! تمہارا یار و مددگار تو اللہ ہے، اس کے رسول، اور وہ ایمان والے ہیں جو اس طرح نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں کہ وہ دل سے اللہ کے آگے بھجے ہوتے ہیں

اس آیت سے بعض حضرات نے یہ استدلال کیا ہے کہ اس آیت میں کہا کہ رسول مددگار ہیں، اور نماز پڑھنے والے بھی مددگار ہیں، اس لئے ہم ان سے مدد مانگ سکتے ہیں

لیکن تفسیر میں یہ وضاحت ہے کہ عبد اللہ بن سلام، اور انکے ساتھی یہودی تھے، جب وہ مسلمان ہوئے تو انکے رشتہ داروں نے منہ موڑ لیا، تو اللہ نے انکو تسلی دی کہ، گھبرا نے کی بات نہیں تمہارا مددگار تو اللہ، رسول اور مسلمان ہیں، اور یہ حضورؐ کی زندگی میں تھا، ان کی وفات کے بعد حضور سے مانگے، اس آیت سے ثابت نہیں ہوتا

3- وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُ أَوْلَيَاءَ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ - (آیت ۱۷، سورت التوبۃ ۹)

ترجمہ۔ اور مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں

نوٹ: اس آیت سے بھی بعض حضرات نے یہ استدلال کیا ہے کہ مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اس لئے ان سے موت کے بعد بھی مانگ سکتے ہیں، اور اس سے ثابت ہوا کہ

ولی سے بھی مانگ سکتے ہیں لیکن یہ آیت بھی مرنے کے بعد مانگنے کے سلسلے میں نہیں ہے بلکہ زندہ ہو تو ایک دوسرے سے مانگ سکتے ہیں، اسی لئے اسی آیت میں وضاحت ہے کہ نبکی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا، یہ مانگتے ہیں، اس لئے مرنے کے بعد دلوں سے مانگنے کا ثبوت اس سے نہیں ہوتا، اور کیسے ہو گا جبکہ یہ آیت ۳۵ آیتوں کے خلاف ہے۔

4۔ سمعت معاویۃ خطیبا یقول سمعت النبی ﷺ یقول من یرد اللہ به خیرًا یفقهه فی الدین و انما انا قاسم و اللہ یعطی۔ (بخاری شریف، کتاب اعلم، باب من یرد اللہ به خیرًا یتفقہ فی الدین، ص ۷، نمبر ۱۷)

ترجمہ۔ حضورؐ سے کہتے ہوئے سنائے، کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ اور میں تو صرف [رسالت] تقسیم کرنے والا ہوں، ہر چیز کے دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔

بعض حضرات نے اس حدیث سے ثابت کی ہے کہ حضورؐ قسم ہیں اس لئے ان سے مانگ سکتے ہیں لیکن پوری حدیث کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھو دینا یہ اللہ کا کام ہے، اس لئے اسی سے سمجھ مانگو، البتہ حدیث اور قرآن، اور دین کا علم جو اللہ نے مجھے دیا ہے، یا غنیمت کا مال مجھے دیا ہے میں اس کو بیان کرتا ہوں اور اس کو تقسیم کرتا ہوں۔ اسی لئے امام بخاریؓ نے اس حدیث کا باب باندھا، کہ، من یرد اللہ به خیرًا یتفقہ فی الدین۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو فقہ کی سمجھو دے دیتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ تقسیم کرنا آپ کی حیات میں تھا، آپ کی وفات کے بعد بھی آپ دنیا والوں پر تقسیم کر رہے ہیں، اس حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ہے۔

## ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ دیوی اور دیوتا انکی مدد کرتے ہیں

ہندوؤں کا عقیدہ ہے، کہ اس کے رشی منی [بزرگ] کا انتقال ہو گیا تو اس کی روح کو اللہ نے طاقت بخشی ہے کہ جہاں چاہیں جائیں، اور جس کی چاہیں اس کی مدد کریں، مدد کرنا ان رشی منی کی روحوں کے کنٹرول میں ہے، اسی لئے وہ لوگ ایک بھگوان کو توانتے ہیں، لیکن مدد مانگنے کے لئے بہت سارے دیوی اور دیوتا کو توانتے ہیں ان کی مورثی بناتے ہیں، اور اس کی پوجا کرتے ہیں، اور اس سے مدد مانگنے ہیں

اللہ تعالیٰ نے 35 آیتوں میں فرمایا کہ مدد کرنے کا عہدہ کسی اور کوئی نہیں دیا ہے، بلکہ مدد برآہ راست میں خود کرتا ہوں، اس لئے روزی کے لئے شفا کے اور اولاد کے لئے شادی کے لئے، تجارت کی ترقی کے لئے، اور آخرت کے لئے مجھ ہی سے مدد مانگنیں، کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے، اور حضور اسی شرک کو مٹانے کے لئے مبعوث ہوئے تھے، اس کے لئے ان 30 آیتوں کو خور سے پڑھیں، طوالت کے لئے بہت سی آیتوں کو میں نے چھوڑ دی ہیں، آپ اس کے لئے مکتبہ شاملہ پر جائیں

اگر کسی نبی یا ولی سے مانگنا جائز ہو تو اس کے لئے صراحت کے ساتھ کوئی آیت ہو یا پکی حدیث ہو کہ عطاً طور پر میں نے یہ دیا ہے کہ فلاں سے ان کی موت کے بعد بھی مدد مانگو، یہ مدد مانگنا مجھ سے مدد مانگنا ہے، جو مجھے المکتبہ الشاملہ میں بھی تلاش کرنے کے بعد بھی نہیں ملی۔

اس عقیدے کے بارے میں 38 آیتیں اور 4 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

## ۱۲۔ وسیله

وسیله ایک بڑا ہنگامہ خیز مضمون ہے، اس میں کئی فریق ہیں اور ہر ایک اپنی رائے کی طرف دلیلیں دیتے ہیں، اس لئے اس کی تفصیل سنیں

اس عقیدے کے بارے میں 4 آیتیں اور 10 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

## وسیله کی 5 صورتیں ہیں

[۱] --- پہلی صورت۔ دعاء اللہ ہی سے مانگے، لیکن یوں کہے کہ یا اللہ تو اس دعاء کو حضور کے طفیل میں قبول کر لے، تو اس کی گنجائش ہے، لیکن ہمیشہ اس کی عادت نہ بنائے، کیونکہ کچھ ہی حدیثوں میں اس کا ذکر ہے، باقی قرآن اور حدیث میں جتنی دعا میں ہیں ان میں واسطہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ رہا راست اللہ سے مانگنے کا ذکر ہے۔

[۲] --- دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی نیک کام کرے اور اس کو اپنے درجات کی بلندی کے لئے وسیله بنائے، یہ بہتر ہے، آیت میں اس کی ترغیب دی گئی ہے۔

[۳]--- تیسری صورت یہ ہے کہ کسی زندہ آدمی سے درخواست کرے کہ آپ میرے لئے دعا کریں کہ میرا فلاں کام ہو جائے، یا مجھے فلاں نیکی مل جائے، یہ درست ہے، بہت سی احادیث میں ہے کہ صحابہ نے حضور سے دعا کی درخواست کی۔

[۴]--- پچھی صورت یہ ہے کہ کسی نبی، یادوی سے کہے کہ آپ دعاء کریں کہ اللہ یہ کام کر دے یہ کسی زندہ ولی یا نبی سے کہے تو بالکل جائز ہے، لیکن جو نبی، یادوی وفات پاچے ہیں ان سے یہ کہیں کہ آپ میرے لئے دعا کریں اس بارے میں کوئی آیت یا حدیث مجھے نہیں ملی، بلکہ یہ ملتا ہے، کہ موت کے بعد آدمی کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، اور دعا کرنا بھی ایک عمل ہے، اس لئے وہ دعائیں کر سکیں گے، دوسری بات یہ ہے کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں اسی میں اختلاف ہے، تو ان سے کیسے کہا جائے گا کہ آپ میرے لئے دعا کریں۔ اس لئے یہ صورت بھی جائز نہیں ہے۔

[۵]--- پانچویں صورت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگے، اور یوں کہے کہ اے ولی، یا اے نبی تو دعا قبول کر لے، یہ ناجائز ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ سے مانگنا ہوا جونا جائز ہے۔  
پانچوں کی دلیلیں آگے آرہی ہیں

## [ا] دعا اللہ ہی سے کرے لیکن کسی کے طفیل کا واسطہ دے

دعا اللہ ہی سے کرے لیکن کسی کے طفیل کا واسطہ دے تو یہ جائز ہے، لیکن چونکہ دو چار حدیثوں میں ہی وسیلہ کے ساتھ دعا مانگنے کا ذکر ہے، باقی سیکڑوں حدیثوں میں بغیر وسیلے کے براہ راست اللہ ہی سے دعا مانگنی گئی ہے اس لئے قرآن اور حدیث والی دعا مانگنے تو وہ زیادہ قبول ہوگی

[ا]۔۔۔ وسیلہ کی پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ ہی سے دعا کرے اور کہے کہ یا اللہ فلاں کے طفیل میں اس دعا کو قبول کر لے، یا یہ کام کر دے۔ یہ جائز ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہ کرے اس کے لئے احادیث یہ ہیں ۔

1- عن عثمان بن حنيف ان رجلا ضرير البصر اتى النبي ﷺ .... قال فامرہ ان یتوضاء فيحسن و ضوئه و يدعوا بهذ الدعاء اللهم انی أسالک و اتوجه اليک بنبیک محمد بنی الرحمة انی اتوجه بک الى ربی فی حاجتی هذه لتقضی لی اللهم فشققه فی۔ (ترمذی شریف، کتاب الدعوات، باب، ص، ۸۱۶، نمبر ۳۵۷۸ / ابن ماجہ شریف، باب ماجاء فی صلوة الحاجة، ص ۱۹، نمبر ۱۳۸۵)

ترجمہ۔ ایک کم نظر آدمی حضور حضورؐ کے پاس آیا۔۔۔ حضورؐ نے حکم دیا کہ اچھی طرح وضو کرو اور یہ دعا پڑھو۔ اے اللہ آپ کے نبی محمدؐ جو نبی رحمت بھی ہیں، ان کے واسطے سے سوال کرتا ہوں اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اس ضرورت کے بارے میں اپنے رب کی طرف آپ کے واسطے سے متوجہ ہوتا ہوں تاکہ اے اللہ آپ میری ضرورت پوری کر دیں اور حضورؐ کو میرے بارے میں سفارشی

بنا دیجئے

اس حدیث میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ما نگا صرف اللہ ہی سے، البتہ حضورؐ کا واسطہ دیا، اتنا جائز ہے۔

2- عن عمر بن الخطابؓ قال قال رسول الله ﷺ لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب اسألك بحق محمد لـما غفرت لي ، فقال الله يا آدم و كيف عرفت محمدا و لم أخلقه؟ قال يا رب لأنك لما خلقتني بيـدك و نفخت في روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا اله الا الله محمد رسول الله فعلمت انك لم تضـف إلـى اسمك الا اـحبـ الـخـلـقـ الـيـكـ فقال الله : صـدقـتـ يا آـدـمـ انهـ لـاحـبـ الـخـلـقـ الـىـ اـدـعـنـيـ بـحـقـهـ فـقـدـ غـفـرـتـ لـكـ وـ لـوـ لـاـ مـحـمـدـ مـاـ خـلـقـكـ . (متدرک للحاکم، کتاب تواریخ المتقـدـ مـیـنـ مـنـ الـانـبـیـاءـ وـ الـمـسـلـیـمـینـ، بـاـبـ وـکـنـ کـتـابـ آـیـاتـ رـسـوـلـ اللـہـ ﷺ اـتـیـھـ دـلـالـ ) ( ۲۲۲۸، ج ۲، ص ۲۷۲، نمبر ۲۷)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی تو کہا۔ اے اللہ میں محمدؐ کے حق سے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میری لغوش کو معاف کر دیں، اللہ نے پوچھا اے آدم محمد کو میں نے ابھی پیدا بھی نہیں کیا ہے آپ نے اس کو کیسے پہچانا؟ حضرت آدمؑ نے فرمایا کہ اے اللہ جب آپ نے مجھکو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور میرے اندر روح ڈالی تو میں اپنا سرا اٹھایا تو عرش پر میں نے لکھا ہوادیکھا، لا اله الا الله محمد رسول الله، تو میں سمجھ گیا کہ آپ اپنے نام کے ساتھ اسی کو رکھتے ہو مخلوق میں سب سے زیادہ آپ کو محبوب ہو، تو اللہ نے فرمایا آدم! تم نے صحیح کہا، وہ مخلوق میں سے سب سے زیادہ مجھے محبوب ہیں، آپ نے انکے طفیل میں مجھ سے دعا کی، اس لئے میں نے آپ کو معاف کر دیا، اگر محمدؐ

نہ ہوتے تو میں تمکو پیدا بھی نہ کرتا۔

3. عن عباس کانت یہود خیر تقاتل غطفان فکلما التقوا هزمت یہود خیر فعاذت الیہود بهذ الدعاء ، اللہم انا اسئلک بحق محمد النبی الامی الذی و عدتنا ان تخرجه لنا فی آخر الزمان - (مترک للحاکم باب لسم اللہ الرحمن الرحیم، من سورت، ج، ۲، ص ۲۸۹، نمبر ۳۰۲۲)

ترجمہ۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ خیر کے یہود قبیل غطفان سے جنگ کیا کرتے تھے، اور ہوتا یہ تھا کہ جب بھی مقابلہ ہوتا تو خیر کے یہود شکست کھا جاتے، تو یہود یہ دعا پڑھ کر دعا مانگنے لگے، [اے اللہ بنی امی محمدؐ کے طفیل سے ہم آپ سے مانگتے ہیں جس کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ انکو آخری زمانہ میں مبعوث کریں گے۔

اس حدیث میں ہے کہ حضور کے واسطے سے دعا مانگتی ہے

صحابی کے وسیلے سے دعا مانگتی  
اس کے لئے عمل صحابی یہ ہے

4 - عن انس ابن مالک ان عمر بن الخطابؓ کان اذا حضروا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللہم انا کنا نتوسل اليک بنینا ﷺ قنسقینا و انا نتوسل اليک بعم نبینا فاسقنا قال فسقون - (بخاری شریف، باب سوال الناس الامام الاستسقاء اذا قحطوا، ص ۱۲۲، نمبر ۱۰۱۰)

ترجمہ۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب بھی قحط ہوتا تو حضرت عمرؓ عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے باڑش کے لئے دعا مانگتے، اور یوں دعا کرتے، ہم اپنے نبی کے وسیلے سے آپ سے دعا مانگا

کرتے تھے تو آپ بارش دے دیتے تھے، اب ہم ہمارے نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ اس سے بارش ہو جاتی تھی اس قول صحابی میں ہے کہ ہم حضورؐ کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، اور اب انکے چچا حضرت عباسؓ کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔

یہاں یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ صحابہؓ نے حضرت عباسؓ جوز نہ تھے ان کا وسیلہ دیکر دعا مانگی، جو وفات پا گئے تھے ان کا وسیلہ دیکر کے دعائیں مانگی، حضورؐ انتقال کر گئے تھے، اس لئے ان کا وسیلہ دیکر دعائیں مانگی،

5۔ اوس بن عبد الله قال قحط اهل المدينة قحطًا شديدا فشكوا الى عائشة فقالت انظروا قبر النبي ﷺ فاجعلوا منه کوی الى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف قال ففعلوا فمطرنا مطراحتى نبت العشب۔ (سنن داری، باب ما أكرم اللہ نبیہ بعد موته، ج ۱، ص ۲۲۷، نمبر ۹۳)

ترجمہ۔ اوس بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ مدینے میں قحط ہوا تو لوگوں نے حضرت عائشہؓ کے سامنے شکایت کی، حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ حضورؐ کی قبر اور آسمان کے درمیان کھڑکی کھول دو، تاکہ قبر اور آسمان کے درمیان چھٹ نہ رہے، لوگوں نے ایسا ہی کیا، تو اتنی بارش ہوئی کہ گھاس اگ گئے اس عمل صحابی میں ہے کہ حضورؐ کی قبر کے پاس کھڑکی کھولی تو بارش ہوئی جس سے وسیلے کے جواز کا پتہ چلتا ہے

6۔ عن مالک الدار قال و كان خازن عمر على الطعام ، قال اصحاب الناس قحط في

زمن عمر فجاء رجل الى قبر النبی ﷺ فقال يا رسول الله ! استسوق لامتك فانهم قد هلكوا فاتى الرجل فى المنام فقيل له ائت عمر فأقرئه السلام و اخبره انكم مسقيون - (مصنف ابن ابى شيبة، باب ما ذكرنى فضل عمر بن الخطاب، ج ۶، ص ۳۵۹، نمبر ۳۲۰۰۲، رقم ۳۱۹۹۳)

ترجمہ۔ مالک ابن دار فرماتے ہیں کہ کھانے پر حضرت عمر کا ایک خزانچی تھا، عمر کے زمانے میں قحط ہوا، ایک آدمی حضرت عمر کے زمانے میں حضور ﷺ کی قبر کے پاس آیا، اور کہا، یا رسول اللہ اپنی امت کے لئے آپ اللہ سے بارش مانگئے، وہ ہلاک ہو چکے ہیں، اس آدمی کو خواب میں آیا اور اس کو یہ کہا کہ، عمر کے پاس جاؤ اور اس کو سلام کہنا، اور ان کو یہ بتا دینا کہ بارش ہو گی۔

اس عمل صحابی میں ہے کہ صحابی نے حضور کی قبر کے پاس، ان سے یہ درخواست کی آپ اللہ سے امت کے لئے بارش مانگیں

2 حدیث، اور 4 عمل صحابی سے معلوم ہوا کہ مانگے اللہ ہی سے لیکن یوں کہے کہ فلاں کے طفیل میں یہ دعا قبول کر لے تو یہ جائز ہے، کیونکہ حدیث میں اس کا ذکر ہے لیکن چونکہ قرآن اور حدیث کے اور تمام دعاؤں میں وسیلے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ براہ راست اللہ سے مانگنے کا ذکر ہے، اس لئے براہ راست اللہ سے مانگنا اچھا ہے، البتہ بھی کبھار وسیلہ کا ذکر کر لے تو یہ جائز ہے، کیونکہ اوپر کی حدیث میں بھی کبھی کبھار ہی وسیلے سے دعائی ہے آپ خود بھی غور کر لیں

## نیک اعمال کر کے اس کا وسیلہ پکڑے

یہ سب سے بہتر طریقہ ہے

[۲]۔۔۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی نیک کام کرے اور اس کو اپنے درجات کی بلندی کے لئے وسیلہ بنائے، یہ بہت بہتر ہے، اس آیت میں اس کی ترغیب دی گئی ہے۔

۱- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ (آیت ۳۵، سورت المائدۃ ۵)

ترجمہ : اے ایمان والالہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لئے وسیلہ تلاش کرو۔

وسیلہ سے یہاں ہر وہ نیک عمل مراد ہے جو اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بن سکے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لئے نیک اعمال کرو اور اس کو قربت کا وسیلہ بناؤ۔ اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ نیک لوگوں کے وسیلے سے دعماً نہیں ہوں گے۔

ہاں پہلے کچھ حدیثیں گزریں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وسیلہ سے دعماً نگنا جائز ہے بعض حضرات نے یہاں یہی مطلب لینے کی کوشش کی ہے، کہ نیک لوگوں کے وسیلے سے دعماً نہیں ہوں گے، اور اس پر بھی زیادتی یہ کہ خود بزرگ سے ہی دعماً نگانے لگے۔

تفسیر ابن عباس میں اس آیت کی تفسیر میں یوں لکھا۔ ﴿ وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ﴾ الدرجة الرفيعة و یقال اطلبوا الیه القرب فی الدرجات بالاعمال الصالحة۔ یعنی اعمال صالحہ کر کے اللہ کی قربت حاصل کیا کرو۔ دوسری تفسیروں میں بھی اسی قسم کے الفاظ ہیں۔ اس لئے اس آیت سے بزرگوں سے مدد مانگنے کا ثبوت نہیں ہوتا۔ ہاں اوپر دو حدیثیں حدیث گزری، جن سے اتنی گنجائش نکلتی ہے کہ کبھی کبھار اپنی دعائیں یوں کہہ لے کہ یا اللہ فلاں کے طفیل میں میری دعا قبول کر لے، تو اس

کی گنجائش ہے۔ اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ ہی سے مانگے، البتہ یوں کہہ لے کہ اے اللہ اس بزرگ کی لاج رکھ لے اور میری دعا تو قبول کر لے یا اس بزرگ کے طفیل میں یا اللہ میری دعا قبول کر لے، تو اس کی گنجائش ہے

دوسری آیت یہ ہے

۲- اُولَئِكَ الَّذِينَ يُدْعَوْنَ يَتَّفَعُونَ إِلَى رَبِّهِمِ الْوَسِيْلَةِ۔ (آیت ۵، سورت الاسراء ۱۷)

ترجمہ : جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے پروردگار تک فتحنچے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے کون اللہ کا زیادہ قریب ہو جائے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو اس بات پر تنبیہ کی ہے کہ جو لوگ فرشتوں اور جنات کو پوچھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں نجات دے دیں گے، یا کوئی مدد کریں گے، تو یہ خیال غلط ہے، کیونکہ ان فرشتوں اور جنات کا تحوالہ یہ ہے کہ وہ خود اللہ کے محتاج ہیں، اور نیک کام کر کے اللہ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، توجہ وہ خود محتاج ہیں تو ان پوچھنے والوں کو کیا دیں گے، اس لئے ان کفار مکہ کو چاہئے کہ براہ راست اللہ ہی سے مانگیں۔

تفسیر ابن عباس میں اس آیت کی تفسیر یوں ہے۔ ﴿اُولَئِكَ الَّذِينَ يُدْعَوْنَ يَتَّفَعُونَ إِلَى رَبِّهِمِ الْوَسِيْلَةِ﴾ يطلبون بذالک الى ربهم القربة و الفضيلة

جن فرشتوں اور جنات کو یہ کفار مکہ پوچھتے ہیں وہ خود اپنے رب کی قربت اور فضیلت تلاش کر رہے ہیں تو یہ ان پچھاریوں کو کیا دیں گے۔

اس لئے اس آیت سے بھی بزرگوں سے مدد مانگنے کا مفہوم نہیں نکلتا۔ ہاں کوئی زبردستی کھنچتا نہ کرے، اور بزرگوں کی تفسیر کو نظر انداز کر کے بزرگوں سے مدد مانگنے کا مطلب نکالے تو یہ اس کی مرضی ہے۔

## زندہ آدمی سے دعا کے لئے کہے یہ جائز ہے

[۳]۔۔۔۔۔ تیری صورت یہ ہے کہ زندہ آدمی سے دعا کرنے کے لئے کہنا، یا اس سے مدد مانگنا، یا اس کا وسیلہ دیکر اللہ ہی سے مانگنا جائز ہے۔

اس کے لئے یہ آیت ہے

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ الرَّسُولُ  
لَوْ جَدَا اللَّهَ تَوَابَارَ حِيمًا۔ (آیت ۲۶، سورت النساء)

ترجمہ۔ اور جب ان لوگوں [منافقوں] نے اپنی جانو پر ظلم کیا تھا، اگر یہ اس وقت تمہارے پاس آ کر اللہ سے مغفرت مانگتے، اور رسول بھی ان کے لئے مغفرت کی دعا کرتے تو یہ اللہ کو بہت معاف کرنے والا، اور برداہم بریان پاتے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ زندہ آدمی سے دعا کے لئے کہنا جائز ہے

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ (آیت ۳۳، سورت الانفال)

ترجمہ۔ اے پیغمبر اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو اس حالت میں عذاب دے جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں۔

اس آیت سے پتہ چلا کہ نیک آدمی زندہ ہو تو اس سے فائدہ ہوتا ہے

کسی زندہ آدمی سے دعا کے لئے کہنا جائز ہے

7- عن عبد الله بن عمر بن العاص انه سمع النبي ﷺ يقول ... ثم سلوالي الوسيلة فانها منزلة في الجنة لا تبغي الا عبد من عباد الله و ارجوا ان اكون انا هو - (مسلم شریف، کتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل ما يقول المؤذن، ثم يصلى على النبي ﷺ ثم يسأل الله الوسيلة، ص ۱۶۳، نمبر ۳۸۷، نمبر ۸۲۹)

ترجمہ۔ حضرت عبد اللہ بن عمر بن عاص نے حضور ﷺ کو کہتے سن۔۔۔ پھر میرے لئے وسیلہ مانگو، اس لئے کہ یہ جنت میں ایک جگہ جو اللہ کے بندے میں سے ایک ہی کے لئے ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ آدمی میں ہی ہوں گا [جس کو یہ جگہ ملے گی]

8- عن عمر انه استأذن النبي ﷺ في العمرة فقال اى اخي اشركتا في دعائك و

لا تنسانا - (ترمذی شریف، کتاب الدعوات، باب، ص ۸۱۲، نمبر ۳۵۶۲)

ترجمہ۔ حضرت عمرؓ نے حضور سے عمرے کی اجازت مانگی، تو حضورؓ نے فرمایا میرے بھائی! اپنی دعا میں مجھے شریک کرنا، اور مجھے بھولنا نہیں،

دن دونوں حدیثوں میں حضورؓ نے اپنی امتی سے دعا کے لئے کہا ہے، جو زندہ تھے، یا جب وہ زندہ رہیں گے، اس لئے یہ جائز ہے

9- سمع انس بن مالک يذكر ان رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجهه

المنبر و رسول الله ﷺ قائم يخطب فاستقبل رسول الله ﷺ قائما فقال يا

رسول الله هلكت الاموال و انقطعت السبل فادع الله يغينا قال فرفع رسول الله

یدیہ۔ (بخاری شریف، کتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء فی المسجد الجامع، ص ۱۶۲، نمبر ۱۰۱۳)

ترجمہ۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جمع کے دن دروازے سے داخل ہوا جو منبر کے سامنے تھا، اور حضورؐ کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے، وہ حضورؐ کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ مال ہلاک ہو گیا، راستہ چلنا مشکل ہو گیا، اللہ سے بارش کی دعا کیجئے، راوی فرماتے ہیں کہ حضورؐ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لئے اٹھایا۔

اس حدیث میں حضورؐ جو زندہ تھے ان سے دعا کرنے کی درخواست کی ہیں۔

کسی زندہ آدمی سے وسیلہ پکڑنا، اس کے لئے عمل صحابی یہ ہے

10. عن انس ابن مالک ان عمر بن الخطابؓ کان اذا قحطوا استسقى بالعباس  
بن عبد المطلب فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا عليه السلام فتسقينا و انا نتوسل  
اليك بعم نبينا فاسقنا قال فسقون۔ (بخاری شریف، باب سوال الناس الامام الاستسقاء اذا  
قطعوا، ص ۱۶۲، نمبر ۱۰۱۰)

ترجمہ۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ جب بھی قحط ہوتے تو حضرت عمرؓ عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے بارش کے لئے دعا مانگتے، اور یوں دعا کرتے، ہم اپنے نبیؐ کے وسیلے سے آپ سے دعا مانگا کرتے تھے تو آپ بارش دے دیتے تھے، اب ہم ہمارے نبیؐ کے چچا کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ اس سے بارش ہو جاتی تھی اس قول صحابی میں ہے کہ ہم حضورؐ کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، اور اب انکے چچا حضرت عباسؓ کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔

اس عمل صحابی میں ہے کہ زندہ آدمی سے وسیلہ طلب کیا، اور انکے واسطے سے دعا مانگی۔ ان سب حدیثوں، اور عمل صحابی میں اس بات کی بھی وضاحت ہے کہ ان میں اللہ ہی سے دعا مانگی گئی ہے، کسی آدمی سے ضرورت پوری کرنے کے لئے نہیں کہا، البتہ زندہ آدمی کا وسیلہ لیا ہے اس لئے کسی مردہ آدمی سے یوں کہنا کہ آپ یہ کام کر دیجئے، یا آپ شفادے دیجئے، یا آپ اولاد دیجئے، یا بارش بر ساد دیجئے یہ ہرگز جائز نہیں ہے

## جاوروں کی زیادتی

ان احادیث سے صرف اتنی بات ثابت ہوئی کہ کبھی کبھار کسی کے وسیلے سے دعا مانگ لے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن ہمارے مجاور حضرات کو سال بھر کا خرچ نکالنا ہے، اپنی بیوی اور بچوں کو بھی پالنا ہے، اپنارب عرب بھی جمانا، اپنارتبا بھی بڑھانا ہے، اور اپنی شہرت بھی حاصل کرنی ہے اس لئے وہ اس چھوٹی سی گنجائش کا فائدہ اٹھا کر صاحب قبر کے سلسلے میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ان کی کرامات بتاتے ہیں، اور فیض حاصل کرنے کے نام پر، اور حاجات پوری کروانے دینے کے نام پر اچھی طرح رقم وصول کرتے ہیں، اور خوب اپنی جیب بھرتے ہیں

پھر ایسے فضائل بیان کرتے ہیں کہ یہ بار بار آئے اور بار بار ان سے وصول کیا جاسکے، بلکہ بعض مرتبہ بہت سی خرافات میں بتلا کر دیتے ہیں، اور آدمی پھنس کر رہ جاتا ہے، اس بارے میں عورتیں زیادہ پھنستی ہیں، اور وہ زیادہ خرافات میں بتلا ہوتی ہیں، اس لئے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اس عقیدے کے بارے میں 4 آیتیں اور 10 حدیثوں میں آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

## ۱۳۔ یہ ۵ عقیدے اتنے اہم ہیں

کہ

اللہ نے حضور سے، قُل، کے ذریعہ باضابطہ اعلان کروایا کہ آپ اعلان کر دیں کہ  
میرے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں

اس عقیدے کے بارے میں 25 آیتیں اور 0 حدیثوں میں آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

## یہ ۵ عقیدے یہ ہیں

- 1۔ حضور انسان ہی ہیں
  - 2۔ حضور کے ہاتھ میں نفع اور نقصان کا اختیار نہیں ہے
  - 3۔ حضور کو علم غیب نہیں ہے
  - 4۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہئے
  - 5۔ نجات کے لئے صرف حضورؐ کی اطاعت کریں
- نوٹ: کچھ حضرات نے کچھ تفسیر کے جملے کو لیکر ان عقائد کے بارے میں لمبی بحثیں کی ہیں،  
اس لئے محققین فرماتے ہیں کہ علماء کو آگے والی آیتوں کو سامنے رکھ کر عقیدہ بیان کرنا چاہئے

## 1۔ حضور ﷺ سے اعلان کروایا گیا کہ میں انسان ہوں

اس کے لئے آپتین یہ ہیں

- 1۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ۔ (آیت ۱۰، سورۃ الکھف ۱۸)
- 2۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ۔ (آیت ۲، سورۃ فصلت ۲۱)
- 3۔ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا۔ (آیت ۹۳، سورۃ الاسراء ۱۷)
- 4۔ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ۔ (آیت ۱۱، سورۃ ابراہیم ۱۷)

ان 4 آیتوں میں حضورؐ سے اعلان کروایا گیا ہے کہ، میں انسان ہی ہوں۔

۲۔ حضورؐ سے باضافتہ یہ اعلان کروایا گیا کہ مجھے علم غیب نہیں ہے  
اس کے لئے ۸ آیتیں یہ ہیں

۱۔ قُلْ لَاَ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبَعْثُونَ -  
[آیت ۲۵، سورت النمل ۲۷]

۲۔ قُلْ لَاَ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَاَ أَعْلَمُ الْغَيْبِ - (آیت ۵۰، سورت الانعام ۶)

۳۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَاَ أَعْلَمُ الْغَيْبِ - (آیت ۳۱، سورت ہود ۱۱)

۴۔ قُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَإِنْتَظِرُ إِنِّي مَعْكُمْ مِنَ الْمُنْتَظَرِينَ . (آیت ۲۰، سورت یوسف ۱۰)

۵۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ لَا يُجَلِّيهَا لَوْقُتُهَا إِلَّا  
هُوَ - (آیت ۱۸، سورت الاعراف ۷)

۶۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ - (آیت ۲۳، سورت الاحزاب ۳۳)

حضرور ﷺ کو جو کچھ علم دیا گیا ہے وہ وحی کے ذریعہ دیا گیا ہے

اس کے لئے آیتیں یہ ہیں

۷۔ قُلْ إِنَّمَا أَتَيْتُ مَا يُوْحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّيْ - (آیت ۲۰۳، سورت الاعراف ۷)

۸۔ قُلْ مَا كُنْتُ بَدِعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يَفْعَلُ بِيْ وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوْحَى  
إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ (آیت ۹، سورت الاحقاف ۴۶)

ان ۸ آیتوں میں حضورؐ سے اعلان کروایا گیا ہے کہ، مجھے علم غیب نہیں ہے۔

3۔ حضورؐ سے اعلان کروایا گیا کہ  
 میں نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں  
 اس لئے مجھ سے مت مانگو، صرف اللہ سے مانگو

اس کے لئے آیتیں یہ ہیں

- 1۔ قُلْ لَا أَمِلْكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَ لَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ - (آیت ۱۸۸، سورۃ الاعراف ۷)
  - 2۔ قُلْ لَا أَمِلْكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَ لَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ - (آیت ۲۹، سورۃ یونس ۱۰)
  - 3۔ قُلْ إِنِّي لَا أَمِلْكُ لَكُمْ ضَرًّا وَ لَا رَشَدًا - (آیت ۲۱، سورۃ الحجۃ ۷)
  - 4۔ قُلْ إِنِّي لَا أَمِلْكُ لَكُمْ ضَرًّا وَ لَا رَشَدًا (آیت ۲۰، سورۃ الحجۃ ۷)
  - 5۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِذِدْعَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ، وَ مَا أَدْرِي مَا يَعْلَمُ بِي وَ لَا بِكُمْ، إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُؤْخِذُ إِلَيَّ - (آیت ۹، سورۃ الاحقاف ۲۶)
  - 6۔ قُلْ فَمَنْ يُمِلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنَّ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا - (آیت ۱۱، سورۃ الحجۃ ۲۸)
  - 7۔ قُلْ إِنِّي لَنْ يُحِبِّنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدًا وَ لَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِدًا - (آیت ۲۱، سورۃ الحجۃ ۷)
  - 8۔ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تَلَقاءِ نَفْسِي - (آیت ۱۵، سورۃ یونس ۱۰)
- ان 8 آیتوں میں حضورؐ سے اعلان کروایا گیا ہے کہ، میں نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔

## 4۔ حضور ﷺ سے اعلان کروایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں

اس کے لئے آیتیں یہ ہیں

۔ قُلْ إِنَّمَا أَذْعُوْ رَبِّيْ وَلَا اُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ۔ (آیت ۲۰، سورۃ الحجۃ ۲۷)

۔ قُلْ إِنَّمَا أُمْرُتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۔ (آیت ۳۶، سورۃ الرعد ۱۳)

ان 2 آیتوں میں حضورؐ سے اعلان کروایا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ہرگز نہ کریں

## 5۔ حضور ﷺ سے اعلان کروایا کہ نجات کے لئے

### حضرت ﷺ کی اطاعت کریں

اس کے لئے آیتیں یہ ہیں

- قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلُّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ - (آیت ۳۲، سورت آل عمران ۳)

- قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلُّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَ عَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَ إِنْ تَطِيعُوهُ تَهْتَدُوا - (آیت ۵۲، سورت النور ۲۴)

- قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّكُمُ اللَّهُ وَ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ - (آیت ۳۱، سورت آل عمران ۳)

ان 3 آیتوں میں ہے کہ آپ اعلان کر دیں کہ، اگر نجات چاہئے تو صرف حضور ﷺ کی اطاعت کریں

## ۱۲۔ شفاعت کا بیان

اس عقیدے کے بارے میں 4 آیتیں اور 8 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

قیامت میں دو قسم کی سفارشیں ہوں گی

[۱] ایک شفاعت کبریٰ، یہ صرف حضور گودی جائے گی

[۲] دوسری شفاعت صغیریٰ، یہ دوسرے انبیاء، اور صلحاء کو بھی دی جائے گی

یہ تمام سفارش اللہ کی اجازت سے کر پائیں گے، بغیر اللہ کی اجازت کے کچھ نہیں ہوگا  
اس کے لئے آیتیں یہ ہیں

۱۔ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ (آیت ۲۵۵، سورت البقرۃ ۲)

ترجمہ۔ کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے

۲۔ مَا مِنْ شَفَاعَيْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ اذْنِهِ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُهُ۔ (آیت ۳، سورت یوسف ۱۰)

ترجمہ۔ کوئی اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کسی کی سفارش کرنے والا نہیں ہے

۳۔ وَ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ۔ (آیت ۲۳، سورت سباء ۳۷)

ترجمہ۔ اللہ نے جس کو شفارس کی اجازت دی ہوا سی کی شفارس قبول ہو گی

۴۔ قُلِ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا۔ (آیت ۲۲، سورت ازمر ۳۹)

ترجمہ۔ آپ کہہ دیجئے کہ ساری شفارس اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔

## قیامت میں سفارش کرنے کی ۸ صورتیں ہیں

- [۱] شفاعت کبری، یہ شفاعت صرف حضور پاک ﷺ کو دی جائے گی
- [۲] مومن تو ہے، لیکن گناہ کی وجہ سے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے اب اس کی سفارش کر کے جنت میں داخل کروایا جائے گا۔ یہ سفارش حضورؐ کے لئے بھی ہوگی، اور انبیاء اور صلحاء کے لئے بھی ہوگی
- [۳] آپ ﷺ کی سفارش سے بعض مومنین کو بلا حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا
- [۴] حضورؐ کی سفارش کی وجہ سے جہنمی کا عذاب کم کر دیا جائے گا، جیسے حضورؐ کی سفارش سے ابو طالب کا عذاب کم کیا جائے گا۔
- [۵] حضورؐ کی سفارش کی تمام مومنین کو جنت میں داخل کیا جائے گا
- [۶] بعض اہل کبار جو جہنم میں داخل ہو چکے ہیں، سفارش سے وہ جنت میں داخل کئے جائیں گے۔
- [۷] مومن تو ہے، لیکن اس کا گناہ، اور نیکی برابر ہیں، اب اس کو سفارش کر کے جنت میں داخل کروایا جائے گا۔ یہ سفارش حضورؐ کے لئے بھی ہوگی، اور انبیاء اور صلحاء کے لئے بھی ہوگی
- [۸] جنتی کے درجات کو بلند کروانے کے لئے شفارس کی جائے گی یہ سفارش حضورؐ کے لئے بھی ہوگی گی، اور انبیاء اور صلحاء کے لئے بھی ہوگی۔ یہ ۸ آٹھ قسم کی سفارش ہوگی۔

## شفاعت کبریٰ

اس حدیث میں قیامت کے دن امت تمام انبیاء کے پاس جائیں گے کہ وہ کم سے کم حساب کتاب ہو جائے اس کے لئے اللہ سے سفارش کر دیں، لیکن تمام انبیاء انکار کر دیں گے، اور صرف حضور یہ سفارش کریں گے، تو چونکہ صرف حضور یہ سفارش کریں گے اس لئے اس کو سفارش کبریٰ، کہتے ہیں

[۱] حضور گو شفاعت کبریٰ دی جائے گی  
اس کی دلیل یہ حدیث ہے۔

1- عن انس قال قال رسول الله ﷺ يجمع الله الناس يوم القيمة فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يرينا من مكاننا فيأتون آدم فيقولون انت الذى خلقك الله بيده و نفح فهك من روحه و امر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا عند ربنا فيقول لست هنا كم و يذكر خططيته ، و يقول انتو نوحاء ..... فأتوني فأستانذن ربى ثم يقال لي : ارفع رأسك و سل تعطه ، و قل يسمع ، و اشفع تشفع فارفع رأسي . (بخاري شریف، کتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، ص ۱۳۶، نمبر ۶۵۶)

ترجمہ۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ لوگوں کو قیامت کے دن جمع کریں گے، تو لوگ کہیں گے کہ کوئی ہماری سفارش کر لیتا تو ہم کو اس جگہ سے چھکارا مل جاتا، لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اور کہیں گے اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، اور اپنی روح ڈالی ہے، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کو سجدہ کریں، اس لئے آپ اپنے رب کے پاس ہمارے لئے سفارش کریں، حضرت

آدم فرمائیں گے کہ مجھے اس کی جرأت نہیں ہے، پھر وہ اپنی غلطیوں کو یاد کریں گے، پھر کہیں گے تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔۔۔ وہ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں اپنے رب سفارش کرنے کی اجازت مانگوں گا۔۔۔ پھر مجھ سے کہا جائے گا سراٹھا، مانگو، دیا جائے گا، کہو آپ کی بات سنی جائے گی، سفارش کرو سفارش قول کی جائے گی، پھر میں اپنا سراٹھاوں گا۔۔۔

## دوسری سفارشیں

[۲] دوسری سفارش۔ مومن تو ہے، لیکن گناہ کی وجہ سے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے اب اس کی سفارش کر کے جنت میں داخل کروایا جائے گا۔

یہ سفارش حضور کے لئے بھی ہوگی، اور انبياء اور صلحاء کے لئے بھی ہوگی، اس کی دلیل یہ حدیث ہے

2- عن علی بن طالب قال قال رسول الله ﷺ من قرأ القرآن و استظهره فاحل حلاله و حرم حرامه ادخله الله به الجنة و شفعه في عشرة من اهل بيته كلهم وجبت له النار - (ترمذی شریف، کتاب فضائل القرآن، باب ماجاء فی فضل القاری القرآن، ص ۲۹۰۵، نمبر ۲۵۳)

ترجمہ۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا، اور اس کو زبانی یاد کیا، اس کے حلال کو حلال کیا، اور حرام کو حرام کیا تو اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے، اور اس کے گھروں میں سے دس ایسے آدمیوں کے لئے سفارش قبول کریں گے جن کے لئے جہنم واجب ہو جکی تھی اس حدیث میں ہے کہ جہنم والوں کے لئے بھی سفارش ہوگی، اور عام لوگ بھی اس کی سفارش کریں گے

## [۳] تیسرا سفارش۔

آپ ﷺ کی سفارش سے بعض مونین کو بلا حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کی دلیل یہ حدیث ہے

3- عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال يدخل من امتى الجنة سبعون ألفاً بغير حساب

فقال رجل يا رسول الله ! ادع الله ان يجعلنى منهم قال اللهم اجعله منهم - (مسلم)  
شریف، کتاب الایمان، باب الدلیل علی دخول طوائف من المسلمين الجنة بغیر حساب، ص ۱۱۱، نمبر  
(۵۲۰/۲۱۶)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ میری امت میں سے ستر ہزار آدمی بغیر حساب کے جنت میں داخل کئے جائیں گے، ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ میرے لئے دعا فرمائے کہ مجھے بھی اس میں داخل کر دے، تو آپؐ نے فرمایا کہ اے اللہ اس آدمی کو بھی اس میں سے کر دے۔

[۳] چوتھی سفارش۔۔۔ اس سفارش کی وجہ سے ہنمنی کا عذاب کم کیا جائے گا، اس کی دلیل یہ حدیث ہے۔

4۔ عن ابی سعید الخدری ، انه سمع النبیؐ ذکر عنده عمه فقال لعله تنفعه شفاعتی يوم القيامه فيجعل في ضحاص من النار يبلغ كعبية يغلى منه دماغه۔ (بخاری شریف، کتاب مناقب الانصار، باب قصۃ ابی طالب، ص ۲۵۲، نمبر ۳۸۸۵)

ترجمہ۔ حضورؐ کے سامنے آپؐ کے پچھا ابوطالب کا ذکر ہوا تو آپؐ نے فرمایا، قیامت کے دن میری سفارش سے آگ کے نچلے گڑھے میں رکھا جائے، یہ آگ اس کے ٹھنڈے تک پہنچے گی، جس سے اس کا دماغ کھو لے گا

اس حدیث میں ہے کہ حضورؐ کی سفارش سے ہنمنی کا عذاب کم کر دیا گیا۔

[۵] پانچویں سفارش۔۔۔ حضورؐ کی سفارش سے مومنین کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اس کی دلیل یہ حدیثیں ہیں

5۔ عن انس بن مالک قال قال رسول الله ﷺ انا اول الناس يشفع في الجنة و انا اکثر الانبياء تبعاً۔ (مسلم شریف، کتاب الایمان، باب فی قول النبی ﷺ انا اول الناس يشفع في الجنة، ص ۱۰۵، نمبر ۱۹۶) (۲۸۳/۱۹۶)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ میں پہلا آدمی ہوں گا جو جنت کے لئے سفارش کرے گا، اور جتنے بھی نبی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ میرے اتباع کرنے والے لوگ ہوں گے

6۔ حدثنا انس بن مالک ان النبی ﷺ قال لکل نبی دعوة دعاها لامته و انى اختبات دعوتى شفاوة لامتى يوم القيمة۔ (مسلم شریف، کتاب الایمان، باب اختباء النبی دعوة الشفاعة لامته، ص ۱۰۶، نمبر ۲۰۰) (۲۹۲/۲۰۰)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ ہر نبی کے لئے اپنی امت کے لئے ایک دعا ہوتی ہے، اور میں قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کروں گا یہ دعا چھپا کر رکھا ہوں ان دونوں حدیثوں کے اشارہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ کی دعا سے آپؐ کی امت جنت میں داخل ہو گی

[۶] چھٹی سفارش۔۔۔ جو جنم میں داخل ہو چکے ہیں انکو نکال کے لئے سفارش ہوگی اس کی دلیل یہ حدیث ہے۔

7۔ عن عمران بن حصین عن النبی ﷺ قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد ﷺ فيدخلون الجنة يسمون الجنهميين۔ (بخاری شریف، کتاب الرقاق، باب صفة الجنة و النار، ص ۱۱۳۶، نمبر ۲۵۶)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ محمدؐ کی سفارش سے کچھ قوم جنم سے نکل گی اور وہ جنت میں داخل ہو گی، اس

کا نام جہنمی ہو گا۔

8- عن انس بن مالک عن النبی ﷺ قال شفاعتی لاهل الكبائر من امتی - (ابوداؤد  
شریف، کتاب السنۃ، باب فی الشفاعة، ص ۶۷۰، نمبر ۲۷۳۹)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ، میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والے لوگوں کے لئے میری سفارش ہو گی  
ان احادیث میں ہے کہ جہنم میں جو داخل ہو چکے ہیں حضورؐ کی سفارش سے وہ جنت میں داخل ہوں  
گے

[۷] مومن تو ہے، لیکن اس کا گناہ، اور نبیکی برابر ایں، اب اس کو شفارس کر کے جنت میں داخل کروایا  
جائے گا۔ یہ سفارش حضورؐ کے لئے بھی ہو گی، اور انبیاء اور صلحاء کے لئے بھی ہو گی

[۸] جنتی کے درجات کو بلند کروانے کے لئے شفارس کی جائے گی یہ شفارس حضورؐ کے لئے بھی ہو  
گی، اور انبیاء اور صلحاء کے لئے بھی ہو گی

اس عقیدے کے بارے میں 4 آیتیں اور 8 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

## ۱۵۔ تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے

اس عقیدے کے بارے میں 17 آیتیں اور 2 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

انبیاء، ہتھ سے بھیجے گئے۔ کہتے ہیں کہ ایک لاکھ چوٹیں ہزار انبیاء بھیجے گئے ہیں  
ان میں سے کچھ کا ذکر قرآن میں ہے، اور کچھ کا نہیں ہے

لیکن ایک مسلمان پر لازم ہے کہ تمام نبیوں پر ایمان رکھے کہ وہ اپنے اپنے زمانے میں حق پر تھے، اور ان کی شریعت حق تھی، البتہ حضورؐ کے تشریف لانے کے بعد، ان کی شریعت منسوخ ہو گئی، اب حضورؐ کی شریعت پر ایمان لانا، اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے، تب ہی نجات ہوگی

ان حضرات کے یہاں بھی انہیں چھ باتوں پر ایمان لانا ضروری تھا جن چھ باتوں پر حضورؐ کی شریعت میں ایمان لانا ضروری ہے۔ یعنی [۱] اللہ پر ایمان [۲] رسول پر ایمان [۳] کتاب یعنی قرآن کریم

پر ایمان [۴] فرشتہ پر ایمان [۵] اور آخرت کے دن پر ایمان [۶] اور قدری پر ایمان لانا، البتہ ان لوگوں کے لئے جو جزئی مسائل تھے، نماز روزے کے وہ الگ الگ تھے

اس لئے ان نبیوں پر ایمان لانا کہ وہ لوگ اپنے زمانے کے برق نبی تھے، اور ان کی شریعت برق تھی، اس بات پر ایمان لانا بھی ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے، ورنہ ایمان کامل نہیں ہو گا۔

## سب نبیوں کو مانا ضروری ہے ورنہ ایمان مکمل نہیں ہوگا

اسلام کا عجیب کمال ہے کہ تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری سمجھتا ہے، اور ان کا پورا احترام کرتا ہے سب نبیوں کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ مانیں کہ تمام نبی برحق ہیں، اور انکی شریعت انکے زمانے کے لئے بالکل صحیح تھی، البتہ اب وہ شریعت منسوخ ہو جگی ہے، اور ان پر جو کتابیں اتریں ہیں وہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں، اور اپنے زمانے کے لئے بالکل صحیح تھیں، اور ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، البتہ قرآن کے اترنے کے بعد وہ کتابیں اب عمل کے قابل نہیں رہیں، اب قرآن پر ہی عمل کرنا ہوگا

اس کے لئے یہ آیتیں ہیں

۱- قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ مَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَ مَا أَنْزَلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ اسْمَاعِيلَ وَ اسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْبَاطَ وَ مَا أُوتِيَ مُوسَى وَ عِيسَى وَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَهْدِ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ - (آیت ۸۲، سورت آل عمران ۳)۔

ترجمہ۔ کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور جو کتاب ہم پر اتاری گئی ہے اس پر ایمان لائے، اور جو ابراہیم، اور اسماعیل، اور اسحاق، اور یعقوب، اور ان کی اولاد پر کتاب اتاری گئی ہے، ان پر ایمان لاتے ہیں، اور ان باقوں پر جو موسیٰ، اور عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو انکی رب کی جانب سے دی گئی ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، ہم ان پیغمبروں میں کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم ایک اللہ کے آگے سرجھکائے ہوئے ہیں

اس آیت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سب نبیوں پر ایمان لا اور یہ بھی کہا گیا ہے، ان میں کوئی فرق بھی نہ

کرو۔

۲۔ اَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ۔ (آیت ۲۸۵، سورت البقرۃ ۲)

ترجمہ۔ یہ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ان پر انکے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور ان کے ساتھ تمام مسلمان بھی ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم انکے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے [کہ کسی پر ایمان لا سیں اور کسی پر ایمان نہ لا سیں]

۳۔ قُلُّوا اَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزَلَ إِلَى ابْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنَ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ (آیت ۱۳۶، سورت البقرۃ ۲)

ترجمہ۔ مسلمانوں کہہ دو! ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور اس کلام پر بھی جو ہم پر اتنا را گیا، اور اس پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اور ان کی اولاد پر اتنا را گیا، اور اس پر بھی جو موسیٰ، اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور اس پر بھی جو دوسرے نبیوں کو انکے رب کی طرف سے دیا گیا ہے، ہم ان پیغمروں کے بد رمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور اسی خدا کے فرمان بردار ہیں۔

ان آیتوں میں ہے کہ تمام نبیوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، ورنہ ایمان مکمل نہیں ہوگا۔

## قرآن میں کچھ نبیوں کا ذکر ہے، کچھ کا نہیں ہے

البتہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء سمجھے، ان میں سے تین سو پندرہ رسول ہیں

کچھ نبیوں کا ذکر کیا، اور کچھ کا ذکر نہیں کیا اس کے لئے یہ آیت ہے  
 ۴۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَضْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُضْ  
 عَلَيْكَ۔ (آیت ۸۷، سورت المؤمن ۲۳)

ترجمہ۔ آپ سے پہلے بھی میں نے رسول بھیجا، ان میں سے کچھ کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے، اور کچھ کا ذکر نہیں کیا ہے۔

ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کے لئے حدیث یہ ہے  
 - عن ابی امامۃ قال کان رسول الله ﷺ فی المسجد جالسا ... قال قلت يا رسول الله کم و فی عده الانبیاء ؟ قال : مأة الف و أربعون عشرون الفا ، الرسل من ذالك ثلات مائة و خمسا عشر جما غفیرا۔ (منhadīthابی امامۃ الباقی الصدی، ج ۷، ص ۳۵۶، نمبر ۲۲۲۸۸/۲۱۷۸۵) ترجمہ۔ حضرت ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔۔۔ میں نے پوچھا یا

رسول اللہ نبیوں کی تعداد کتنی ہیں؟ تو آپ<sup>ؐ</sup> نے فرمایا، ایک لاکھ چوبیس ہزار، ان میں سے رسول، تین سو پندرہ ہیں، جو بڑی جماعت ہے اس حدیث میں ہے کہ اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی بھیجے، اور ان میں سے تین سو پندرہ رسول ہیں

ان میں سے چار رسول بڑے ہیں

اسلام میں یہ چار رسول بڑے مانے جاتے ہیں، اور ان پر اتری ہوئی کتابیں بھی بڑی مانی جاتی ہیں

[۱] حضرت موسیٰ علیہ السلام

[۲] حضرت عیسیٰ علیہ السلام

[۳] حضرت داؤد علیہ السلام

[۴] اور حضرت محمد ﷺ

## سب نبیوں کے دین میں تھا کہ اللہ ایک ہے

سب نبیوں کے دین میں تھا کہ اللہ ایک ہے، اور چھ باتیں جو ایمان میں ضروری ہیں [اللہ ایک ہے، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان، انکے تمام رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان لانا]، یا ان حضرات کی شریعت میں بھی ضروری تھا، البتہ انکی شریعت کے احکام میں تھوڑا تھوڑا فرق تھا، مثلاً نماز کا طریقہ الگ تھا، روزے کے دن کم بیش تھے اس کے لئے یہ آیتیں ہیں

۵۔ لَكُلٌ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَا جَاءَ۔ (آیت ۲۸، سورت المائدۃ ۵)

ترجمہ۔ تم میں سے ہر ایک امت کے لئے ہم نے ایک الگ شریعت اور طریقہ مقرر کیا ہے

- اَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ ، كُلُّ اَمَنَ بِاللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِّ مِنْ رُسُلِهِ۔ (آیت ۲۸۵، سورت البقرۃ ۲)

ترجمہ۔ یہ رسول [یعنی محمد ﷺ] اس چیز پر ایمان لائے جوان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے، اور ان کے ساتھ تمام مسلمان بھی۔ یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اس آیت میں ہے کہ پچھلے تمام رسولوں کی شریعت میں بھی اللہ تمام رسول، فرشتے، اور تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری تھا

1- عن ابی هریرۃ قال قال رسول الله ﷺ انا اولی الناس بعیسیٰ ابن مریم فی

الدنيا والآخرة ، و الانبياء اخوة لعلات امهاة لهم شتى و دينهم واحد۔ (بخاری شریف، کتاب احادیث الانباء، باب قول اللہ تعالیٰ اذ قال الملاکة يبریم ان اللہ پیش کر بكلمة منه اسمه مسح عیسیٰ ابن مریم [آیت ۲۵، سورت آل عمران [۳۸۰، نمبر ۳۲۲۳])

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ میں دنیا اور آخرت میں عیسیٰ سے زیادہ قریب ہوں، سب نبی باپ پر شریک بھائی ہیں، انکی ماں الگ الگ ہیں اور دین ایک ہی ہے اس آیت اور حدیث میں ہے کہ سب نبیوں کا دین ایک ہے، البتہ جزوی احکام الگ الگ ہیں

## اب حضور ﷺ پر ایمان لانا ضروری ہے

البته حضورؐ کے تشریف لانے کے بعد حضور ﷺ پر ایمان لانا ضروری ہے، اور صرف آپ پر ایمان لانے پر ہی نجات ہوگی  
آئینے یہ ہیں

6۔ ان الدین عند الله الاسلام۔ (آیت ۱۹، سورت آل عمران ۳)

ترجمہ۔ پیشک معتبر دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے

7۔ وَ مَنْ يَتَّبِعَ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ۔ (آیت ۸۵، سورت آل عمران ۳)

ترجمہ۔ جو کوئی شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا گا تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا

8۔ وَ رَضِيَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا۔ (آیت ۳، سورت المائدہ ۵)

ترجمہ۔ اور تمہارے لئے دین اسلام کو ہمیشہ کے لئے پسند کر لیا ہے

ان آیتوں میں ہے کہ اسلام کے علاوہ اس وقت کوئی دین اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے

9۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنَ بِهِ وَ لَتُنْتَصَرَنَّهُ۔ (آیت ۸۱، سورت آل عمران ۳)

ترجمہ۔ پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے تو تم اس رسول پر ضرور ایمان لاوے گے، اور ضرور اس کی مدد کرو گے

اس آیت میں ہے کہ حضورؐ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اسلام لانے پر ہی نجات ہوگی

عن ابی هریرة عن رسول الله ﷺ انه قال و الذى نفس محمد بيده ! لا يسمع  
بى احد من هذه الامة يهودى و لا نصرانى ، ثم يموت ولم يؤمن بالذى ارسلت به  
الا كان من اصحاب النار - (مسلم شریف، کتاب الایمان، باب وجوب الایمان بر رسالة نبینا محمد  
الی جمیع الناس و نخ اہملل بحکمة، ص ۲۷، نمبر ۳۸۶، نمبر ۱۵۳)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ، جس کے قبھے میں محمدؐ کی جان ہے اس امت میں سے کوئی بھی یہودی  
ہو یا نصرانی میرے بارے میں سنے، اور میں جو رسالت لکیر آیا ہوں اس پر ایمان نہ لائے، اور وہ مر  
جائے تو وہ جہنم میں جائے گا

## کسی نبی کو کسی دوسرے نبی پر زیادہ فضیلت دینا ٹھیک نہیں ہے

کسی ایک نبی کو دوسرے نبی کے مقابلے پر اتنا بڑھانا جائز نہیں ہے جس سے اس کی توہین ہو جائے اس حدیث میں اس کا ذکر ہے

2- سمع عمر<sup>رض</sup> يقول على المنبر سمعت النبي ﷺ يقول لا تطروني كما اطرب النصارى ابن مریم فانما أنا عبد الله فقولوا عبد الله و رسوله - (بخاری شریف، احادیث الانبیاء، باب قول اللہ تعالیٰ ﴿وَإِذْ كُرْنَى لِكَتَابِ مَرِيمٍ إِذَا أَنْبَذَكُنَّا إِلَيْهَا﴾ [آیت ۱۶، سورت مریم ۱۹] ص ۵۸۰، نمبر ۳۲۲۵)

ترجمہ۔ حضور<sup>صلی اللہ علیہ وسلم</sup> کہا کرتے تھے جس طرح نصاری نے حضرت عیسیٰ کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا تم بھی مجھے بڑھا چڑھا کر بیان نہ کرنا، میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، اس لئے مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو

اس حدیث میں ہے کہ جیسے نصاری نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، بہت بڑھایا، تم بھی مجھے اتنا نہ بڑھا دینا

## چار بڑی بڑی کتابوں کا ذکر قرآن میں یہ ہے

اللہ نے رسولوں پر کتابیں تو بہت اتاری ہیں، لیکن چار بڑی بڑی کتابیں ہیں جو چار بڑے رسولوں پر اتاری گئی ہیں

قرآن حضرت محمد ﷺ پر۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ انجلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور کچھ صحینے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر قرآن اتارا اس کا ذکر اس آیت میں ہے

۱۰۔ مَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ (آیت ۲، سورت طہ ۲۰)

ترجمہ۔ ہم نے تم پر قرآن اس لئے نازل نہیں کیا کہ تم تکلیف اٹھاؤ اس میں قرآن کے اتارنے کا ذکر ہے

تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری ہے

اس کا ذکر اس آیت میں ہے

۱۱۔ إِنَّا أَنْزَلْنَا التُّورَةَ فِيهَا هُدًىٰ وَ نُورٌ۔ (آیت ۳۲، سورت المائدۃ ۵)

ترجمہ۔ بیشک ہم نے تورات نازل کی تھی، جس میں حدایت تھی اور نور تھا

اس آیت میں تورات کا ذکر ہے

انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اشاری ہے

اس کا ذکر اس آیت میں ہے

۱۲۔ وَ أَتَيْنَاهُ الْأَنْجِيلَ فِيهِ هُدًىٰ وَ نُورٌ وَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ۔ (آیت ۳۶، سورت المائدۃ) (۵)

ترجمہ۔ اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی جس میں حدایت تھی اور نور تھا، اور جو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے،  
اس آیت میں انجیل کا ذکر ہے

زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اشاری ہے

اس کا ذکر اس آیت میں ہے

۱۳۔ وَ لَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَ أَتَيْنَا داؤُدَ زُبُورًا۔ (آیت ۵۵، سورت الاصراء) (۱)

ترجمہ۔ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور حضرت داؤد کو زبور دیا

۱۴۔ وَ أُوحِيَنَا ۔۔ وَ يُونَسَ وَ هَارُونَ وَ سُلَیْمَانَ وَ أَتَيْنَا زَبُورًا۔ (آیت ۱۶۳، سورت النساء) (۲)

ترجمہ۔ اور ہم نے یونس، ہارون اور سلیمانؑ کی طرف وحی بھیجی، اور حضرت داؤد کو زبور عطا کی  
ان دو آیتوں میں زبور کا ذکر ہے

## اور بہت ساری کتابیں اتاری

ان آئیوں میں اور بھی بہت ساری کتابیں اتارنے کا ذکر ہے

15- قُلْ أَمَّنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنَ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ (آیت ۸۲، سورت آل عمران ۳)

ترجمہ۔ کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اور جو کتاب ہم پر اتاری گئی ہے اس پر، اور جو اتاری گئی ہے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر ان کے رب کی طرف سے، اور ان باقوں پر جو ان کے رب کی جانب سے حضرت موسیٰ عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو دی گئیں ہیں۔

16- وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ۔ (آیت ۳۸، سورت المائدۃ ۵)

ترجمہ۔ اے محمدؐ ہم نے آپ پر بھی حق پر مشتمل کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس کی نگہبان ہے

17- إِنَّ هَذَا لِفِي الصُّحُفِ الْأُولَى ، صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى - (آیت ۱۸-۱۹، سورت الاعلیٰ ۸) ترجمہ۔ یہ بات یقیناً پچھلے آسمانی صحیفوں میں بھی درج ہے، اور ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی درج ہے

ان آئیوں میں اور کتابوں کے اتارے جانے کا ذکر ہے

اس عقیدے کے بارے میں 17 آیتیں اور 2 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

## ۱۶۔ رسول ﷺ کی گستاخی

اس عقیدے کے بارے میں 3 آیتیں اور 2 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

رسول کی گستاخی کی تین صورتیں ہیں

[۱] حضور ﷺ کو کھلی گالی دیتا ہو، اور سمجھانے سے بھی باز نہ آتا ہو

[۲] حضور ﷺ کو کھلی گالی تو نہ دیتا ہو، لیکن ایسا جملہ استعمال کرتا ہو جس سے حضور کی توہین ہوتی ہو

[۳] آدمی مسلمان ہے، اس نے کوئی مہم جملہ استعمال کیا ہے، اب دوسرے مسلک والوں نے، یا

دوسرے مذہب والوں نے، اس جملے کو قڑ مرد و کریب زکالا کہ اس نے حضور ﷺ کی گستاخی کی ہے

[۴] غیر مسلم کے ملکوں میں بے ہوئے ہیں وہاں کسی غیر مسلم نے ایسی حرکت کی جس سے حضور کی توہین ہوتی ہو، تو اب کیا کریں

ہر ایک کی تفصیل آگے دیکھیں

## حضرور ﷺ کی گستاخی بہت بڑا بال ہے

حضرور ﷺ کو گالی دینا بہت بڑا بال ہے، بلکہ کسی بھی نبی کو گالی دینا بہت بڑا بال ہے، اس سے ایمان سلب ہو جاتا ہے  
قرآن میں نبیوں کی عزت کرنے اور اس کی اطاعت کرنے بہت تاکید آئی ہے

اس کے لئے آیتیں یہ ہیں

۱۔ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ لَعْنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔ (آیت ۵، سورت الحزادب ۳۳)

ترجمہ۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی ہے، اور ان کے لئے ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے جو ذمیل کر کے رکھ دے گا

۲۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفُعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تُحِيطَ أَعْمَالَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُشَعِّرُونَ۔ (آیت ۲، سورت الحجرات ۸۹)

ترجمہ۔ اے ایمان والو! اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند مت کیا کرو، اور نہ ان سے بات کرتے ہوئے اس طرح زور سے بولا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال بر باد ہو جائیں، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔

۳۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ (آیت ۹،

سورت الفتح (۲۸)

ترجمہ۔ تاکہ اے لوگو! تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور اس کی مدح کرو، اور انکی تعظیم کرو، اور صحیح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو

ان آئیوں میں تاکید کی گئی ہے کہ حضور کی ادنی گستاخی نہ ہو، بلکہ ہر وقت انکے لئے تعظیم کا جملہ نکلے نبی اور رسول کی گستاخی تو دور کی بات ہے، کسی صحابی کی گستاخی بھی جائز نہیں ہے، وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے

[۱] حضور ﷺ کو کھلی گالی دیتا ہو، اور سمجھانے سے بھی بازنہ آتا ہو

پہلی صورت۔ حضور ﷺ کو کھلی گالی دیتا ہو اور سمجھانے کے باوجود بھی بازنہ آتا ہو تو اب یہ کافر اور مرتد ہو گیا، کیونکہ ایمان کے چھ جز میں سے ایک جزر رسول پر ایمان لانا ہے، اور جب اس نے رسول کو گالی دی تو اب رسول پر اس کا ایمان نہیں رہا، اس لئے اب یہ مرتد ہو گیا اب اس کو قتل کیا جائے گا

میں نے، کھلی گالی، کا لفظ کیوں استعمال کیا

یہاں کھلی گالی دیتا ہو، کا لفظ اس لئے استعمال کر رہوں کہ۔ کچھ کتابیں میرے سامنے سے گز ریں، جن میں دیکھا کہ ایک مسلک والے نے دوسرے مسلک والے کی کتابوں سے عبارت لی، پھر اس کو توڑ مڑوڑ کر یہ مطلب بنایا کہ، انہوں نے حضور ﷺ کی گستاخی کی ہے، اور اس کو اتنا پھیلایا کہ لوگوں کو یقین ہونے لگا کہ یہ گستاخ رسول ہیں، اور یہ کافر ہیں، اور ان کے بارے میں یہاں تک لکھ دیا کہ، جوان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے [و من شک فی کفره و عذابه کفر]۔ (در مختار، کتاب الجہاد، باب المرتد، مطلب محم : فی حکم ساب الانبیاء، ج ۲، ص ۳۵۷)

ترجمہ۔ کہ جوان گالی دینے والے کے کفر میں اور اس کے عذاب میں شک کرے، وہ بھی کافر ہے۔  
میں نے اس مسلک والے سے پوچھا، اور اس کی کتابیں دیکھی تو پہنچ چلا کہ وہ مسلک والے قطعاً حضور ﷺ کی گستاخی نہیں کرتے، اور نہ اس مصنف نے گستاخی کی ہے، ہاں بعض باتیں جو آیت اور حدیث میں نہیں ہیں، دوسرے مسلک والے اس کو منوانا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ وہ حدیث میں نہیں ہیں، اس لئے مصنف صاحب اس کو نہیں مانتے، اس لئے دوسرے مسلک والوں نے ہنگامہ کھڑا کیا، اور اس کو گستاخ

سول کہہ کر، کافر قرار دیا، اور یہاں تک لکھ دیا کہ جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے اب آپ ہی انصاف سے بتائے کہ کہاں ہے، حضورؐ کو گالی دینا، اور کہاں ہے قرآن اور حدیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے دوسرے مسلک والوں کی بات نہ ماننا، ان دونوں باتوں میں کتنا بڑا فرق ہے

اس فتوے سے مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کے دلکشیے ہو گئے

اس لئے میں اپنے عنوان میں یہ قید لگا رہا ہوں کہ حضورؐ کو گھلی گالی دیتا ہو، اور سمجھانے کے باوجود نہ مانتا ہو تب وہ آدمی مرتد ہو گا، اس طرح توڑ مڑ کر بات بنانے سے اور گستاخ رسول قرار دینے سے وہ کافرنیں ہو گا۔

دوسری مثال یہ ہے کہ

اخبار اور ٹیلی ویژن میں آیا کہ ایک لڑکا کانج میں پڑھتا تھا، اس کی زبان سے کوئی بات نکل گئی، اس کا مقصد حضورؐ کو گالی دینا نہیں تھا، اور نہ اس کی گستاخی کرنا مقصود تھا، لیکن اس کے ساتھیوں نے اس کی باتوں کو توڑ کر یہ بنایا کہ، اس نے رسولؐ کی گستاخی کی، اس طالب علم نے بار بار انکار کیا، کہ میرا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا کہ میں حضورؐ کی گستاخی کروں، لیکن ساتھیوں نے ایک نہیں مانی، اور اس کو مار مار کر قتل کر دیا، اس بات کو میڈیا والوں نے بہت اچھا لاء، اور دوسری قوموں کو یہ تأشیر دیا کہ، مسلمان بہت سخت ہوتے ہیں، اور ذرا ذرا سی بات مسلمان کو ہی قتل کر دیتے ہیں، یہ ندھب والے اتنے خراب ہوتے ہیں، اور یہ بات یورپ کے ملکوں میں کئی مہینے تک چلتی رہی

اس لئے میری گزارش ہے کہ جب تک صاف طور پر یہ پتہ نہ چلے کہ واقعی اس نے جان بوجھ کر حضورؐ کو گالی دی ہے، یا حضورؐ کی گستاخی کی ہے، اس وقت تک اس پر کفر کا فتوی نہ لگا میں، اس سے بڑا انتشار ہوتا ہے، اور خود مسلمان دلکشیوں میں بٹ جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز تک نہیں

پڑھتے۔

## تیری مثال

ایک مسلک والا اہل بیت کا پورا احترام کرتا ہے، اس کی محبت کو ایمان کا جز مانتا ہے، اس کو اپنے سر پر بیٹھاتا ہے، اور ان کے بارے میں ادنی توہین کا قائل نہیں ہے لیکن دوسرا مسلک والے کے گمان میں ہے کہ جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں اس طرح احترام نہیں کرتا، یا اہل بیت کو اس طرح نہیں مانتا جس طرح ہم مانتے ہیں، اب اس کی وجہ سے اس کو کافر مانتے ہیں، گستاخ اہل بیت مانتے ہیں، اور اس کے پیچھے نماز تک نہیں پڑھتے تو اس طرح کی الزام تراشی کی وجہ سے وہ مرتد نہیں ہوگا، اور وہ واجب القتل نہیں ہوگا، بلکہ یہ تحقیق کرنی پڑے گی کہ واقعی وہ حضورؐ کو گالی دیتا ہے، یا اس کی گستاخی کرتا ہے، اور جان بوجھ کر، سمجھتے ہوئے ایسا کر رہا ہے، تب جا کر وہ مرتد ہوگا، اسی لئے میں نے عنوان میں یہ لکھا، کہ وہ حضورؐ کو کھلی گالی دیتا ہو اور سمجھانے سے بازنہ آتا ہو، کیونکہ آج کل یہ رواج چل پڑا ہے کہ، ہماری بات نہیں مانتے ہیں تو آپ گستاخ رسول ہیں، یا گستاخ اہل بیت ہیں اور سمجھانے کے بعد بازنہ آتا ہو، یہ اس لئے لکھا کہ، بعض مرتبہ آدمی جاہل ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ، کس جملے سے حضورؐ کی گستاخی ہوتی ہے، اس لئے اس کو پہلے سمجھایا جائے کہ اس جملے سے گستاخی ہوتی ہے، اور آپ نے یہ جملہ کہا ہے اس سے حضورؐ کی گستاخی ہوئی ہے، اب سمجھانے کے بعد بھی گستاخی کرتا ہے تو اب یہ کافر شمار کیا جائے گا

کھلی گالی دینے والے کو قتل کیا جائے گا،

اس کی دلیل یہ احادیث ہیں

۱۔ حدثنا ابن عباس ان اعمی تشم النبی ﷺ و تقع فیہ فینهها فلا تنتهي ویزجرها فلا تنجزر، فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبی ﷺ و تشمته فأخذ المغول فوضعه في بطنه ..... فقال النبی ﷺ الا اشهدوا ان دمها هدر۔ (ابوداؤد شریف، کتاب الحدود، باب الحکم فیمن سب النبی ﷺ، ص ۲۱۳، نمبر ۲۳۶۱)

ترجمہ۔ حضرت عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک نایبنا آدمی حضورؐ کو گالی دیتا تھا اور ان کی برائی بیان کرتا تھا، اس کو روکا، لیکن وہ نہیں رکے، اس کو ڈالا لیکن اس نے نہیں مانا، ایک رات کا واقعہ ہے کہ وہ حضورؐ کی برائی بیان کر رہا تھا، اور انکو گالی دے رہا تھا، تو ایک چھری لی اور اس کے پیٹ میں دھنسا دیا۔ تو حضورؐ نے فرمایا کہ لوگوں کا وہ رہو، اس کا خون معاف ہے۔ [یعنی مارنے والے سے قصاص نہیں لیا جائے گا]

اس حدیث میں، فینهها فلا تنتھی ویزجرها فلا تنجزر، ترجمہ۔ اس کو روکا، لیکن وہ نہیں رکے، اس کو ڈالا لیکن اس نے نہیں مانا۔ سے یہ بھی پتہ چلا کہ گالی دینے والے کو روکنے سے بھی نہ مانے تب وہ کافر، اور مرتد بنے گا۔ کسی مہم جملے سے وہ مرتد نہیں بنے گا

2۔ عن علی ان یہودیہ کانت تشم النبی ﷺ و تقع فیہ فخنقها رجل حتی ماتت فابطل رسول الله ﷺ دمها۔ (ابوداؤد شریف، کتاب الحدود، باب الحکم فیمن سب النبی ﷺ، ص ۲۱۳، نمبر ۲۳۶۲)

ترجمہ۔ حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت حضورؐ کو گالی دیتی تھی اور اس کی برائی بیان

کرتی تھی، اس لئے ایک آدمی نے اس گلا گھونٹ دیا جس سے وہ مر گئی تو حضور نے اس کے خون کو معاف کر دیا۔

ان دونوں حدیثوں میں حضورؐ کو کھلی گالی دینے والوں کو جس نے مارا اس کے قصاص کو معاف کر دیا۔

### حضرور ﷺ کو کھلی گالی دینے سے کافر ہو جائے گا،

حضرورؐ کو گالی دینے کے بعد وہ کافر ہو جائے گا لیکن اس کی توبہ قبول کی جائے گی یا نہیں اس بارے میں دو رائے ہیں ہیں

[۱] ایک رائے یہ ہے کہ اب اگر وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اب اس کو قتل کیا جائے گا، اکثر حضرات اسی طرف گئے ہیں

[۲] دوسرا رائے یہ ہے کہ اگر وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی، اور اس کو توبہ کرنے کے لئے تین دن کی مهلت دی جائے گی، اور ان تین دنوں میں توبہ کر لے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کا حکم مرتد کی طرح ہے، اس کو بھی توبہ کرنے کے لئے تین دن کی مهلت دی جاتی ہے،

[۱] جو حضرات کہتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، ان کی دلیل در مختار کی یہ عبارت ہے - وَ كُلُّ مُسْلِمٍ أَرْتَدَ فَتُوبَتِه مَقْبُولَةٌ، إِلَّا الْكَافِرُ بِسْبُّ نَبِيٍّ) مِنَ الْأَنْبِيَاءَ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ حَدَا وَ لَا تَقْبَلُ تُوبَتِه مَطْلَقاً ... وَ مَنْ شَكَ فِي عَذَابِهِ وَ كَفَرَهُ كَفَرَ . (در مختار، کتاب الحجہاد، باب المرتد، مطلب محمد بن حکم ساب الانبیاء، ج ۲، ص ۳۵۶)

ترجمہ۔ ہر مسلمان جو مرتد ہو جائے اس کی توبہ قبول ہے، لیکن جو حضور ﷺ کو یا کسی اور نبی کو گالی دینے کی وجہ سے کافر بنتا ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہے) ، وہ حد کے طور پر قتل کیا جائے گا، اور کبھی اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے۔۔۔ اگے یہ عبارت بھی ہے، جو اس کے عذاب اور کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔

اس عبارت سے استدلال کرتے ہوئے ایک جماعت نے فرمایا کہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے  
نوٹ: آگے آرہا ہے کہ حد گانے کے لئے اسلامی حکومت ہونا ضروری ہے، اور قاضی فیصلہ کرے تب  
حد گائی جائے گی، ورنہ عوام حد گانے جائے گی تو انتشار ہو گا، اور میڈیا پر وہ جگ ہنسائی ہو گی کہ  
برداشت سے باہر ہو گا

[۲] دوسری رائے یہ ہے، کہ حضور گوگالی دینے والا کافر تو ہے، لیکن اگر وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی، اور اگر اس نے توبہ کر لی تو اب حد نہیں لگائی جائے گی، البتہ اس کو تنبیہ کی جائے گی کہ  
آئندہ وہ ایسا نہ کرے، اور کچھ سزا بھی دی جائے گی  
اس کی دلیل درجتار ہی کی یہ دوسری عبارت ہے

—من سب الرسول ﷺ فانه مرتد و حکمه حکم المرتد و يفعل به ما فعل بالمرتد  
(و هو ظاهر في قبول توبته كما مر عن الشفاء۔ (درجتار، کتاب الجہاد، باب المرتد، مطلب  
محم: فی حکم ساب الانبیاء، ج ۲، ص ۳۶۰)

ترجمہ۔ کسی نے رسول ﷺ کو گالی دی [تو وہ کافر ہو جائے گا] اور اس کا حکم مرتد کا حکم ہے، اس عبارت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ، کہ اس کی توبہ قبول کی جائے گی، جیسا کہ شفاء کتاب سے، یہ بات بھی گزرنی درجتار کی تیسری عبارت

و. لكن صرح في آخر الشفاء بان حكمه كالمرتد، و مفاده قبول التوبة كما لا

یخفی (در مختار، کتاب الجہاد، باب المرتد، مطلب محمد بن حکم ساب الانبیاء، ج ۲، ص ۳۵۷-۳۵۹) ترجمہ۔ الشفاء، کتاب میں اس بات کی تصریح ہے کہ، گالی دینے والے کا حکم مرتد کی طرح ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا، کہ اس کی توبہ قبول کی جائے گی، جیسا کہ پوشیدہ نہیں ہے۔

در مختار کی چوتھی عبارت

قالوا و يستتاب منها فان تاب نكل ، و ان ابى قتل ، فحكموا له بحكم المرتد مطلقا ، و الوجه الاول اشهر و اظہر و (در مختار، کتاب الجہاد، باب المرتد، مطلب محمد بن حکم ساب الانبیاء، ج ۲، ص ۳۵۸)

ترجمہ۔ علماء نے فرمایا کہ، گالی دینے والے سے کہا جائے کہ تم توبہ کرو، اگر اس نے توبہ کر لی [تواب حد تو نہیں لگ کی] لیکن عبرات ناک سزا دی جائے گی، اور اگر توبہ کرنے سے انکار کیا تو قتل کیا جائے گا، علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس گالی دینے والے کا حکم مطلقاً مرتد کے حکم کی طرح ہے۔ لیکن پہلی رائے زیادہ مشہور بھی ہے اور زیادہ ظاہر بھی ہے

ان تین عبارتوں میں ہے کہ حضور<sup>ؐ</sup> کو گالی دینے والا بھی توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی ایک بزرگ کو دیکھا کر، دوسرے مسلم وآل کی مہم عبارت لی اور اس کو توڑ مڑو کر یہ ثابت کیا کہ یہ گستاخ رسول ہے، اور یہ فتوی بھی لگا دیا کہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے بلکہ اس کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔

اس فتوے سے مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت دوٹھوں میں بٹ گئی، اور کافراً اور مسلمان ہونے کا جھگڑا کھڑا ہو گیا، اور بے پناہ انتشار پھیل گیا۔ اس پر افسوس ہی کر سکتے ہیں اور کیا کریں گے!

## جنکے یہاں گستاخ رسول کی توبہ ہے انکے یہاں تین دنوں تک توبہ کی مهلت دی جائے گی

جن حضرات کے یہاں حضور گوگالی دینے والے کی توبہ قبول کی جائے گی، تو اس کو توبہ کرنے کے لئے تین دن کی مهلت دی جائے گی۔ کیونکہ وہ مرتد کی طرح ہے  
حضرت عمرؓ تین دن مهلت دینے پرخی کرتے تھے

1- لما قدم على عمر فتح تستر . وتستر من ارض البصرة . سألهم هل من مغربية ؟ قالوا رجل من المسلمين لحق بالمشري كين فاخذناه ، قال ما صنعتم به ؟ قالوا قتلناه ، قال : أفلأدخلتموه بيته وأغلقتم عليه بابا واطعمتموه كل يوم رغيفا ثم استبتموه ثلاثة . فان تاب والا قتلتكموه ثم قال اللهم لم اشهد ولم امر ولم ارض اذا بلغنى ( مصنف ابن أبي شيبة ، ۳۰۰ ماقالوا في المرتد كم يشتات ، ج سادس ، ص ۲۲۲ ، نمبر ۳۲۷ رسنن للبيهقي ، باب من قال تسبس ثلاثة أيام ، ج ثامن ، ص ۳۵۹ ، نمبر ۱۶۸۸ )

ترجمہ۔ جب حضرت عمر کے پاس تستر کی فتح کی خبر آئی۔ تستر یہ بصرہ کا علاقہ ہے۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا کہ مغرب کا کوئی آدمی ہے؟ لوگوں نے کہ مسلمان کا ایک آدمی مشرک ہو گیا تھا، تو ہم نے اس کو کپڑا لیا، حضرت عمرؓ نے پوچھا اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟، لوگوں نے کہا ہم نے اس کو قتل کر دیا۔ تو حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ، اس کو گھر میں بند کرو دیتے، اور اس کو ہر روز روٹی کھلاتے، پھر تین دنوں تک اس سے توبہ کا مطالبہ کرتے، اگر توبہ کر لیتا تو چھوڑ دیتے، ورنہ اس کو قتل کر دیتے، پھر حضرت عمرؓ نے فرمایا اللہ گواہ رہنا، میں نے نہ ان لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، اور جب اس کے قتل کی بات پہنچی تو میں اس سے

راضی بھی نہیں ہوں۔

2- عن علیٰ قال یستتاب المرتد ثلاثا (مصنف ابن ابی شیبۃ، ۳۰ ما قالوا فی المرتد کم یستتاب، ح سادس، ص ۳۲۲، نمبر ۷۲۷ رسنن للبیهقی، باب من قال تکمیل ثلاثہ ایام، ح ثامن، ص ۳۵۹، نمبر ۷۱۸۸)

ترجمہ۔ حضرت علیؓ مرتد سے تین دنوں تک توبہ کرنے کا مطالبہ کرتے تھے ان صحابی کے قول میں ہے کہ تین دن سے پہلے قتل کرنے پر حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اے اللہ نہ میں اس میں حاضر ہوں اور نہ میں نے اس کا حکم دیا اور نہ میں اس سے راضی ہوں۔ جس سے معلوم ہوا کہ تین دن تک مهلت دینا ضروری ہے۔ تین دنوں کے بعد بھی اپنے قول پر اڑا رہے تب جا کر اس کو قتل کیا جائے گا

## [۲] ایسا جملہ استعمال کرتا ہو جس سے حضور کی توہین کا

### شبہ ہوتا ہو

دوسری صورت یہ ہے کہ حضورؐ کو کھلی گالی تو نہ دیتا ہو، لیکن ایسا جملہ استعمال کیا ہو جس سے حضور کی توہین کا شبہ ہوتا ہو، چونکہ یہ ہم جملہ ہے، ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ توہین کرنا چاہتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ توہین نہیں کرنا چاہتا، بلکہ نادانی میں یہ جملہ منہ سے نکل گیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے توہین کی ہے یا نہیں، اس لئے اس سے پوچھا جائے گا کہ اس سے کیا مراد ہے، اگر اس نے کہا کہ اس سے توہین کرنا مقصود ہے تب تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ رسولؐ کی توہین کی ہے۔ اور اگر اس نے کہا کہ اس جملے سے میرا مقصد توہین کرنا نہیں ہے، بلکہ مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ جملہ، حضورؐ کے لئے توہین کی چیز ہے تو، اس کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن اس کو تنبیہ کی جائے گی کہ آئندہ اس قسم کے جملے استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ جملہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہے

میں نے یہ تفصیل اس لئے لکھی ہے کہ، کئی مرتبہ دیکھا کہ، آدمی پر شبہ والے جملے سے الزام لگایا، وہ آدمی بار بار انکار کر رہا ہے کہ میں نے توہین نہیں کی، اور نہ توہین کا ارادہ ہے، مجھے تو اس کا پتہ بھی نہیں ہے، لیکن لوگ اس کے پیچھے لگ گئے، اور اس کو قتل کر کے چھوڑا، یا اس کو اتنا مارا کہ اس کی حالت خراب کر دی، اور یہ سارا یو ٹیوب پر ڈال دیا، اور دنیا اس حرکت پر افسوس کرتی رہی افسوس یہ ہے کہ کچھ لوگ الزام تراشی پر لگے ہوئے ہیں، ہر جملے کو توہین رسالت بتا کر کفر کا فتوی دے دیتے ہیں، اور اس پر پورا ہنگامہ کرتے ہیں

[۳] تیسری صورت یہ ہے کہ۔۔ آدمی مسلمان ہے، اس نے کوئی مبہم جملہ استعمال کیا ہے، اب دوسرے مسلک والوں نے، یا دوسرے مذہب والوں نے، اس جملے کو توڑ مڑ ور کر یہ نکالا کہ اس نے حضور ﷺ کی گستاخی کی ہے

چونکہ یہ مسلمان ہے، اس لئے غالب گمان یہی ہے کہ اس نے حضورؐ کی توہین نہیں کی ہوگی یا کسی نبی، یا کسی ولی کی توہین نہیں ہوگی، کیونکہ اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ وہ نہ حضورؐ کی توہین کرے، نہ کسی نبی کی توہین کرے، اور نہ کسی اہل بیت، یا کسی ولی کی توہین کرے، اس لئے انہوں نے یا تو نادانی میں یہ بات کہی ہوگی، اس کو پہنچنے نہیں ہے کہ میں نے نبی، یا ولی کی توہین کی ہے، یا اس جملے سے گستاخی ہوتی ہے، یا پھر کسی نے اس کے جملے سے غلط مطلب نکال کر اس کو بدnam کرنے کی کوشش کی ہے، اس لئے اس کہنے والے سے پوچھیں کہ اس جملے سے آپ کا مطلب کیا ہے، اگر وہ کہے کہ، اس سے توہین کرنے کا ارادہ نہیں تھا، تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ اس نے جان کر توہین ہی نہیں کی ہے، البتہ اس کو تنبیہ کی جائے گی کہ آئندہ ایسا جملہ استعمال نہ کریں

اس طرح کارویہ اختیار کرنے سے بہت سارے ہنگامے ختم ہو جائیں گے، اور یہ جو روزانہ مسلکوں میں اختلاف ہوتا ہے وہ بہت کم ہو جائے گا

## [۳] غیر مسلم ملک میں رسول کی گستاخی

چوتھی صورت یہ ہے کہ۔۔۔ غیر مسلم کے ملکوں میں بے ہوئے ہیں وہاں کسی غیر مسلم نے ایسی حرکت کی جس سے حضور کی توہین ہوتی ہو، تو اب کیا کریں

آگے مرتد کی سزا میں تفصیل آرہی ہے کہ، حدلگانے کے لئے تین شرطیں ضروری ہیں

[۱] اسلامی حکومت ہوتب ہی حدلگائی جائے گی، اگر اسلامی حکومت نہ ہو تو حد نہیں لگائی جائے گی

[۲] شرعی قاضی حدلگانے کا فیصلہ کرے تب حدلگائی جائے گی

[۳] شرعی قاضی کی نگرانی میں حدلگائی جائے گی

، حدلگانے کے لئے مجرم کو عوام کے حوالے نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس سے انتشار ہو گا، یوں بھی اس وقت پوری دنیا میں ہیومن رائٹس جاری ہے۔ اس لئے میدیا والے ایسی باتوں کو بہت اچھا لئے ہیں اس لئے جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے وہاں حد نہیں لگائی جائے گی، وہاں کسی نے گالی دی ہے، یا حضور کی توہین کی ہے، تو مناسب انداز میں حکومت سے تعزیر کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔

اگر غیر مسلم ملک میں کسی غیر مسلم نے حضور کی توہین کی تو یہ بھی توہین ہے اور ابھی بات نہیں ہے، لیکن اس کے لئے احتجاج کا طریقہ یہ ہے کہ متعدد ہو کر اس ملک کے قانون کی رعایت کرتے ہوئے احتجاج کریں، اور حکومت سے مطالبہ کریں کہ اس کو مناسب سزا دے، اور تعزیر کرے تاکہ آئندہ کوئی اس قسم کی گستاخی نہ کرے

یہ صورت ہرگز نہ کریں کہ اس آدمی کو ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم اس کو سزا دیں گے، کیونکہ اس صورت

میں مجرم کا خاندان اور اس کے ہم نوادر پڑیں گے، اور انتشار ہو جائے گا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اختلاف اتنا بڑھ جائے کہ آپ کو اس ملک سے نکلا پڑے اور پھر کہیں جگہ نہ ملے یا زیادہ ہنگامہ کرنے کی وجہ سے وہاں کا میڈیا والا آپ کو متشدد والی قوم تصور کرنے لگے اور آپ کی تصویر خراب ہو جائے، اس لئے یہ نہ کریں، بلکہ اس ملک کے قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج کریں۔ اور تعزیر کا مطالبہ کریں جو جائز صورت ہے

## گستاخ رسول اس دور میں ایک بڑا مسئلہ ہے

گستاخ رسول، اس دور میں ایک بڑا مسئلہ ہے، اس سے بھی دنیا میں بڑا انتشار ہو رہا ہے۔

کئی کتابوں کو مطالعہ کرتے وقت دیکھا کہ ایک مسلک والا حضورؐ کو رسول مانتا ہے، انکی پوری عزت کرتا ہے لیکن مثلًا، آیت، لا علم الغیب، کی وجہ سے اتنا مانتا ہے کہ آپ کو بعض علم غیب دیا گیا تھا، لیکن ذرے ذرے کا علم دیا گیا جو صرف اللہ کی صفت ہے وہ نہیں مانتا، یا آیت، لا املک لكم ضراوا لانفعا، کی وجہ سے حضورؐ کو مختار کل نہیں مانتا، تو یہاں آیت کی وجہ سے حضورؐ میں ایک صفت کو نہیں مانتا، کیونکہ اللہ نے خود ہی ان صفات کی نظر کی ہے، اب دوسرے مسلک والے مصربیں کہ اس نے گستاخی کی، اور گویا کہ یہ مرتد ہو گیا، اور اس کے ماننے والے سب مرتد ہو گئے، اور سب کو مرتد والی سزا دی جائے، اور اس پر اتنا اصرار کیا کہ قوم کی قوم دو ٹکڑے ہو گئی ۔۔۔۔۔ یہ بہت بڑی بے انصافی ہے، کہ آیت سے صحیح استدلال کرنے والوں کو گستاخ اور مرتد قرار دے رہیں

یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ ایک گروہ مسلمان ہے، لیکن اپنے زعم کی بنا پر اس کو مرتد قرار دیا، اور یہ بھی لکھ دیا کہ جو اس میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اور یہ حوالہ نقل کر دیا۔ و من شک فی عذابہ و کفرہ کفر۔ (ردد المحتار، کتاب الجہاد، باب المرتد، مطلب مطلب مہم فی حکم ساب الانبیاء، ج ۲، ص ۳۵۶) کہ جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔

اس لئے گستاخ رسول، یا مرتد کا فتویٰ دیتے وقت یہ ضروری ہے کہ واقعی اس نے حضورؐ کو گالیاں دی ہو، اور تین دن سمجھانے کے باوجود بھی توبہ نہ کرتا ہو تب اس کو مرتد قرار دیا جائے گا، صرف ایک مسلک کے شک کی بنیاد پر یا اپنی سوچ کی بنیاد پر مرتد، اور گستاخ رسول قرار نہیں دیا جائے گا، اس کا خیال رکھیں

کچھ لوگوں نے اس کا خیال نہیں رکھا اور مسلمانوں کی درمیان نفرت کی آگ بھڑکادی، جس کی وجہ سے اسلام کے کسی کام کے لئے یہ آپس میں نہیں مل پائے، اور لڑکر تباہ ہو گئے، اس وقت شام، عراق، مصر، لیبیا، یمن، افغانستان کے مسلمان آپس ہی میں لڑکر پورا پورا ملک تباہ ہو گیا۔

اس لئے کسی مسلمان کے لئے گستاخی کا فتوی دینے سے پہلے بہت سوچنے کی ضرورت ہے

اس عقیدے کے بارے میں 3 آیتیں اور 2 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

## ۷۔ تمام صحابہ کرام کا احترام بہت ضروری ہے

اس عقیدے کے بارے میں 10 آیتیں اور 7 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

جس نے حضور گواہیمان کے ساتھ دیکھا اور ایمان ہی پر اس کی موت ہوئی وہ صحابی ہے، کیونکہ ان آنکھوں سے انہوں نے حضور کو دیکھا ہے، اور حضور کے ساتھ رہے ہیں اور ان کی بے پناہ مدد کی ہے جو بعد کے لوگوں کو نصیب نہیں ہے، انہیں کی قربانیوں سے ہم تک دین پہنچا ہے، اس لئے تمام صحابہ کا احترام انتہائی ضروری ہے، چاہے جو صحابی بھی ہو

## ہر صحابی کی عزت کرنا اور دل سے محبت کرنا ضروری ہے

تمام صحابہ سے محبت کرنی چاہئے، کیونکہ یہ حضور کے ساتھی ہیں جنہوں نے ہر حال میں حضور کا ساتھ دیا ہے، ان میں سے کسی کو بھی برے الفاظ سے یاد نہیں کرنا چاہئے، اور جو آپس کا اختلاف ہے، اس کو اجتہادی غلطی پر مجبول کرنا چاہئے، انکی غالطیوں کو پکڑ پکڑ کر بار بار ذکر نہیں کرنا چاہئے۔

ان میں سے بہت سے صحابی وہ بھی ہیں، جو حضور کے خسر ہوتے ہیں جیسے حضرت ابو بکر، حضرت عمرؓ، اور حضرت عثمانؓ حضور کے داماد ہیں، جس طرح حضرت علیؓ حضور کے داماد ہیں، تو جس طرح حضرت علیؓ کو برا بھلا کہنا جائز نہیں ہے اسی طرح حضرت عثمانؓ کو بھی برا بھلا کہنا جائز ہے، کیونکہ وہ بھی حضورؓ کے داماد ہیں۔

حضرت عمرؓ کے بارے میں تو ایک اور فضیلت بھی ہے کہ وہ حضرت علیؓ اور حضرت فاطمہؓ کے داماد ہیں، حضرت فاطمہؓ کی بیٹی حضرت ام کلثومؓ سے حضرت عمرؓ کی شادی ہوئی ہے، اس لئے حضرت عمرؓ کو تو اور بھی برا بھلا نہیں کہنا چاہئے کیونکہ وہ حضرت فاطمہؓ کے داماد ہیں،

حضرت عائشہؓ، حضرت سودہؓ حضورؓ کی بیوی ہیں اور امت کی ماں ہیں، حضرت عائشہؓ تینی محبوب بیوی ہے کہ ان کی گود میں حضورؓ کی وفات ہوئی ہے، اس لئے جس طرح حضرت خدیجہؓ حضورؓ کی بیوی ہیں اور امت کی ماں ہیں، اور ان کو برا بھلا کہنا جائز نہیں ہے اسی طرح حضرت عائشہؓ، حضرت سودہؓ کو بھی برا کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی حضورؓ کی بیویاں ہیں، کوئی آدمی آپ کی بیوی کو برا کہئے تو کتنا برا لگے گا، اسی طرح حضورؓ کی بیوی کو برا کہو گے تو کتنا برا لگے گا، اس لئے حضورؓ کی کسی بیوی کو بھی برا کہنا جائز نہیں ہے، جو حضرات ایسا کرتے ہیں وہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں

## صحابہ کرام سے بے پناہ محبت کریں امام طحاویؒ کا حکم

وَنَحْبُ اصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَفْرَطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، وَنَعْصُمُ مِنْ يَبغضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ وَجَبَّهُمْ دِينَ وَوَإِيمَانَ وَاحْسَانَ، وَبِغَضْبِهِمْ كُفْرًا وَنَفَاقًا وَطَغْيَانًا۔ (عقیدۃ الطحاویۃ، عقیدہ نمبر ۹۳، ص ۲۰)

ترجمہ۔ ہم حضورؐ کے صحابی سے محبت کرتے ہیں، اور ان میں سے کسی کی محبت میں غلوٹہ کریں، اور ان میں سے کسی سے برأت کا اظہار نہ کریں، اور جو ان صحابہ سے بغض رکھتے ہیں یا ان کو خیر کے بغیر یاد کرتے ہیں ان سے ہم بغض رکھیں گے، اور ہم ان کو خیر سے ہی یاد کریں گے، ان حضرات سے محبت کرنا دین ہے، ایمان ہے، اور احسان ہے، اور ان حضرات سے بغض رکھنا کفر ہے، نفاق ہے، اور سرکشی ہے

وَمِنْ أَحْسَنِ الْقَوْلِ فِي اصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِزْوَاجِ الْطَّاهِرَاتِ مِنْ كُلِّ دُنْسٍ وَذُرِيَّاتِهِ الْمَقْدِسِينَ مِنْ كُلِّ رِجْسٍ فَقَدْ بَرِيَ مِنَ النِّفَاقِ۔ (عقیدۃ الطحاویۃ، عقیدہ نمبر ۹۶، ص ۲۱)

ترجمہ۔ رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے صحابی، اور انکی پاک بیویوں کی برایوں کے بارے میں جس نے اچھی بات کہی، اور انکی مقدس اولاد کی اچھائی بیان کی تو وہ نفاق سے بری ہو گیا۔  
اس عقیدے میں ہے کہ حضور کے تمام صحابہ، اور انکی بیویوں کو اچھائی سے یاد کرنا چاہئے، اور ان تمام سے محبت رکھنا چاہئے

## صحابہ کی فضیلت کے بارے میں یہ ۸ آیتیں ہیں

۱۔ وَ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأُنْصَارَ وَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ  
اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ وَ أَعْدَلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا  
ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ (آیت ۱۰۲، سورت التوبۃ ۹)

ترجمہ۔ اور مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ پہلے ایمان لائے، اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہے، اور وہ اس اللہ سے راضی ہیں، اور اللہ نے ان کے لئے ایسے باغات تیار کر کر کے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی زبردست کامیابی ہے

۲۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَأْتُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلَمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ  
فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَ أَثَابَهُمْ فَسْحًا قَرِيبًا۔ (آیت ۱۸، سورت الفتح ۲۸)

ترجمہ۔ یقیناً اللہ ان مومنو سے بڑا خوش ہوا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، اور ان کے دلوں میں جو کچھ تھا وہ بھی اللہ کو معلوم تھا، اس لئے اس نے اس پر سکینت اتار دی، اور ان کو انعام میں ایک قریبی فتح عطا فرمادی۔

۳۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ  
اللَّهِ وَ اللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ۔ (آیت ۱۲۸، سورت البقرۃ ۲)

ترجمہ۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، اور ہجرت کی، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں بہت رحم کرنے والے ہیں

۴۔ وَلِكُنْ حِبَّ الْيُكُمُ الْإِيمَانَ وَرَيْنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَهَ الْيُكُمُ الْكُفُرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعُصِيَانَ أُولُئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ (آیت ۸، سورت الحجرات ۲۹)

ترجمہ۔ لیکن اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے، اور اسے تمہارے دلوں میں پرکشش بنادیا ہے، اور تمہارے اندر کفر کی، اور گناہوں کی، اور نافرمانی کی نفرت بھادی ہے، ایسے ہی لوگ ہیں جو ٹھیک ٹھیک راستے پر آپکے ہیں، جو اللہ کی طرف فضل اور نعمت کا نتیجہ ہے، اور اللہ بہت جانے والے ہیں، حکمت والے ہیں

اس آیت میں صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ اسکے دل ایمان کی محبت ہے، اس لئے ان میں سے کافر کہنا، یا گناہ کار کہنا، بہت برقی بات ہے

۵۔ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ التَّقْوَى الْجَمِيعَانَ، إِنَّمَا اسْتَرَلُهُمُ الشَّيْطَانُ بِيَعْضٍ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ۔ (آیت ۱۵۵، سورت آل عمران ۳)

ترجمہ۔ تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ پھیری جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے، در حقیقت ان کے بعض اعمال کے نتیجے میں شیطان نے ان کو لغزش میں مبتلا کر دیا تھا، اور یقین رکھو اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا برو بار ہے اس آیت میں ہے کہ جگہ کے موقع پر صحابہ سے جو غلطی ہوئی تھی اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اس لئے اب اس غلطیوں کو پکڑ پکڑ کر انکو برا بھلا کہنا بالکل جائز نہیں ہے

۶۔ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحْمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَعًا سُجَّدًا يَتَغَرَّبُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، سِيمَا هُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ آثَرِ السُّجُودِ۔ (آیت ۲۹، سورت الفتح ۲۸)

ترجمہ۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ انکے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے لئے رحم دل ہیں، تم انہیں دیکھو گے کبھی روئے میں ہیں، کبھی جدے میں ہیں، غرض اللہ کی خوشنودی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، ان کی علمتیں سجدے کے اثر سے ان کے چہرے پر نمایاں ہیں

اس آیت میں سارے صحابہ کی تعریف کی ہے، اس لئے کسی کو بھی برا کہنا ٹھیک نہیں ہے

7۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأُنْصَارِ الَّذِينَ أَتَيْعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَرِيْغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ اللَّهُ يَهُمْ رَوْفُونَ رَحِيمُونَ۔ (آیت ۱۷، سورت التوبۃ ۹)

ترجمہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے رحمت کی نظر فرمائی نبی پر، اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے ایسی مشکل گھڑی میں نبی کا ساتھ دیا جبکہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ڈگمگا جائیں، پھر اللہ نے انکے حال پر توجہ فرمائی، یقیناً وہ انکے لئے بہت شفیق بر امیر بان ہے

8۔ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أَوْلَئِكَ أَعْظَمُ درجہ من الدین انسقوا من بعده قاتلوا وَ كَلَّا وَعْدَ اللهِ الْحَسِنِي وَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر۔ (آیت ۱۰، سورت الحمد ۲۷)

ترجمہ۔ تم میں سے جنہوں نے مکہ کی فتح سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی لڑی وہ بعد والوں کے برابر نہیں ہیں، وہ درجے میں ان لوگوں سے بڑھے ہوئے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور لڑائی لڑی، یوں اللہ نے ان سب سے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو واللہ کو پورا خبر ہے اس آیت میں ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا ان کا درجہ بہت زیادہ ہے، اور حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، اور حضرت عثمانؓ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے ہیں اس لئے ان کا درجہ بہت زیادہ

ہے، اس نے ان حضرات کو ہرگز برا بھلانہیں کہنا چاہئے ان 8 آیتوں میں صحابہ رضی اللہ کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور ان آیتوں میں تمام صحابہ شریک ہیں، اس نے کسی صحابی، یا کسی صحابیات کو ہرگز برا بھلانہیں کہنا چاہئے، اس سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ آدمی کے دل سے صحابہ کی عظمت نکل جاتی ہے، اور ان حضرات کے واسطے سے جو دین آیا ہے، اس پر عمل کرنے میں، یا اس کو ماننے میں سستی اور کاملی پیدا ہو جاتی ہے، اس نے تمام صحابہ کی عظمت دل میں بیٹھانا بہت ضروری ہے

## ان احادیث میں صحابہ کرام کو گالی دینے سے منع کیا ہے

حضور ﷺ نے صحابہ کو گالی دینے سے سختی سے منع کیا ہے، اس لئے کسی ادنیٰ صحابی کو بھی ہرگز گالی نہیں دینی چاہئے، اور نہ اکلو برا بھلا کہنا چاہئے،  
اس کے لئے احادیث یہ ہیں

1- عن ابی سعید قال قال النبی ﷺ لا تسبووا اصحابی فلو ان احد کم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفهم۔ (بخاری شریف، کتاب فضائل النبی ﷺ، باب ص ۲۱، نمبر ۳۶۷، مسلم شریف، باب تحریم سب الصحابة، ص ۱۱۳، نمبر ۲۵۳۰) (۶۲۸۷/۲۵۳۰)

ترجمہ۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ میرے صحابی کو گالی مت دو، کیونکہ تم میں سے ایک احد کے برابر سونا خرچ کرے گا تو صحابی کے ایک مدد اور آدھا مدد کے خرچ کے برابر بھی اس کا ثواب نہیں پہنچے گا [کیونکہ انہوں نے حضورؐ کی مدد کے لئے خرچ کیا تھا]

2- عن عطا قال رسول الله ﷺ من سب اصحابی فعلیه لعنة الله۔ (مصنف بن ابی شہیۃ، باب ذکر الکف عن اصحاب النبی ﷺ ج ۲، ص ۳۰۵، نمبر ۳۲۳۱۹)

ترجمہ۔ حضور ﷺ نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ کی لعنت ہے اس حدیث مرسل میں ہے کہ جو صحابہ کو گالی دے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔

3- عن عبد الله بن مغفل المزنی قال قال رسول الله ﷺ الله الله في اصحابي ،

الله اللہ فی اصحابی لا تَخْذُلْهُمْ غَرْضًا بَعْدِی فَمَنْ أَحْبَبْهُمْ فِي جَهَنَّمَ وَمَنْ  
أَبغضَهُمْ فِي بَغْضِهِمْ، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِی وَمَنْ آذَانِی فَقَدْ آذَى اللَّهَ  
تَبارُکَ وَتَعَالَیٰ وَمَنْ آذَا اللَّهَ فَيُوشِكَ ان يَأْخُذَهُ۔ (مسند امام احمد، باب حدیث عبد اللہ  
بن مغفل المزني، ج ۲ ص ۳۶، نمبر ۲۰۰۶)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ، میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے اصحاب کے بارے  
میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد انکو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنائیں، جوان سے محبت کریں گے وہ میری وجہ  
سے محبت کریں گے، اور جوان سے بغض کریں گے وہ میری وجہ سے بغض کریں گے، جس نے انکو  
تکلیف دی اس نے گویا کہ مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی تو اس نے گویا کہ اللہ کو تکلیف  
دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی تو ہو سکتا ہے اللہ اس کو اپنے کپڑوں میں لے  
حضورؐ نے بڑے درد کے ساتھ اپنے صحابی کے بارے میں فرمایا کہ انکو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنا یا جائے۔

4- عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله ﷺ لِأَتَيْنَ عَلَى امْتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي  
اسرائيل حزو النعل ... وَ اَنْ بَنِي اسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثَنَتِينَ وَ سَبْعِينَ مَلْهَةً وَ  
تَفَتَّرَقَ امْتِي ثَلَاثَ وَ سَبْعِينَ مَلْهَةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مَلْهَةً وَاحِدَةً قَالَ وَ مَنْ هُنَّ يَا رَسُولَ  
اللَّهِ؟ قَالَ مَا اَنَا وَ اَصْحَابِي - (ترمذی شریف، کتاب الایمان، باب ماجاء فی افتراق حذہ الاممۃ،  
ص ۲۵۹، نمبر ۲۴۲۱، ابو داود شریف، کتاب السنۃ، باب شرح السنۃ، ص ۲۵۰، نمبر ۲۵۹۷)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ میری امت پر بنی اسرائیل کی طرح وقت آئے گا، بالکل برا بر سر ابر  
بنی اسرائیل بہت تفرقے میں بٹے تھے، اور تم تھتھر فرقے میں بٹو گے سبھی جہنم میں جائیں گے،  
سوائے ایک جماعت کے، لوگوں نے پوچھا میر رسول اللہ وہ جماعت کون سی ہوگی، حضورؐ نے فرمایا، جس

پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں  
 اس حدیث میں ہے کہ میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی، اور سب جہنم میں جائے گی لیکن جو  
 فرقہ میرے صحابہ کے طریقے میں رہے گا، ہی نجات پانے والی ہوگی۔

5۔ سمعت عمران بن حصین یقول قال رسول الله ﷺ خیر امتی قرنی ثم الذين  
 یلوونهم ، ثم الذين یلونهم - (بخاری شریف، باب فضائل اصحاب النبی و من صحاب النبی اور آہ من  
 المسلمين فہم من اصحابہ، ص ۲۱۲، نمبر ۳۶۵۰)

ترجمہ۔ حضور نے فرمایا میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے میں ہیں، پھر وہ لوگ جو  
 اس کے بعد میں آئیں گے، پھر وہ لوگ جو اس کے بعد میں آئیں گے  
 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ کے زمانے میں جو صحابہ تھے وہ اس امت کے بہترین لوگ تھے، اس  
 لئے بھی ان کو برا بھلانیں کہنا چاہئے

6۔ سمعت جابر بن عبد الله یقول سمعت النبی ﷺ یقول لا تمس النار مسلما  
 رأني او رأي من رانی - (ترمذی شریف، باب ما جاء في فضل من رأى النبی ﷺ و صحبه، ص ۸۷۲،  
 نمبر ۳۸۵۸)

ترجمہ۔ میں نے حضور سے کہتے ہوئے سنائے، جس نے مسلمان ہونے کی حالت میں مجھے دیکھا ہو، یا  
 جس نے مجھے دیکھا ہو [یعنی میرے صحابی کو] اس کو دیکھا ہو تو اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔

## صحابہ میں کوئی اختلاف ہے بھی تو اس کی ایسی تاویل کریں جس سے زیادہ سے زیادہ اتفاق کی صورت نکل آئے

قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ صحابہ کے درمیان کوئی اختلاف ہے بھی تو اس اختلاف کو اور بڑھا چڑھا کر بیان نہ کریں، بلکہ ایسی تاویل کریں جس سے اختلاف کی شکل کم ہو جائے، اور زیادہ سے زیادہ اتفاق کی شکل نکلے

ان دونوں آیتوں میں اس کی تعلیم ہے۔

۹۔ وَ إِنْ طَائِفَاتٍ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَلُوا فَاصْلِحُوهُا بَيْنَهُمَا۔ (آیت ۹، سورت الحجرات ۲۹)

ترجمہ۔ اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کراوے

۱۰۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوهُا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ۔ (آیت ۱۰، سورت الحجرات ۲۹)

ترجمہ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، اس لئے اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کراوے،

اور اللہ سے ڈروتا کہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جائے

ان دونوں آیتوں میں ہے کہ اگر لڑائی ہو بھی جائے تو صلح کراوے اس لئے صحابہ کے درمیان کے اختلاف کو

اجتہادی غلطی پر محمل کریں، اور زیادہ سے زیادہ اتفاق کی صورت نکالیں۔ اسے اختلاف میں مزید ہوا

نہیں دینی چاہئے۔

## صحابہ میں اختلاف دیکھیں تو حضور ﷺ نے ہمیں یہ دو نصیحتیں کی ہیں

حضور ﷺ کو وحی کے ذریعہ یہ اطلاع دے دی گئی تھی کہ آپ کے بعد صحابہ کرام میں اختلاف ہو گا، اور حضرت حذیفہؓ کو کافی باتوں کی اطلاع دی تھی، حضور نے فرمایا کہ میرے بعد جب صحابہ میں اختلاف دیکھو تو دو باتیں کریں

[۱] ایک بات تو یہ کہ جتنے خلفاء راشدین ہیں ان کی اتباع کریں

[۲] اور دوسری بات یہ کہ صحابہ کے بارے میں چپ رہو، کسی ایک کی حمایت میں دوسرے پر ہرگز تلوار مت اٹھانا

اس حدیث میں ہے کہ چاروں خلفاء کی سنتوں کو اپنے اوپر لازم پکڑو

- عن العرباض بن ساریة ، قال و عظنا رسول الله ﷺ يو ما بعد صلاة الغداة مو عظة بليغة ذرفت منها العيون و وجلت منها القلوب فقال رجل ان هذه مو عظة مودع فيما ذا تعهد اليها يا رسول الله ؟ ... فانه من يعيش منكم ير اخلاقاً كثيراً و اياكم و محدثات الامور ، فانها ضلاله ، فمن ادرك ذالك منكم فعليكم بستى و سنة الخلفاء الراشدين المهدىين عضوا عليها بالنواجد - (ترمذی شریف، کتاب العلم، باب ماجاء فی الاخذ بالسنة و اجتناب البدعة، ص ۷۰، نمبر ۲۶۷، ابن ماجہ شریف، کتاب المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المحمدین، ص ۶، نمبر ۳۲)

ترجمہ۔ حضرت عرباض بن ساریہ فرماتے ہیں کہ، ایک دن صبح کی نماز کے بعد حضور ﷺ نے ہمیں نصیحت فرمائی، نصیحت ایسی تھی کہ آنکھیں بے پڑیں، دل اچھل پڑا، ایک آدمی کہنے لگے کہ ایسا لگتا ہے کہ، یہ

الوداعی نصیحت ہے، اس لئے ائمہ اللہ کے رسول م سے کیا عہد لینا چاہتے ہیں؟ ۔۔۔ آپ نے فرمایا جو زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، دیکھنا کوئی نئی بات پیدا نہیں کر لینا، اس لئے کہ وہ گمراہی ہے، جو اختلاف کا زمانہ پائے تو اس پر میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی اس پر لازم ہے، انکو دانت سے پکڑ کر رکھنا۔

اس حدیث میں تین باتیں ہیں

[۱] آپ نے بہت درد کے ساتھ آخری نصیحت کی، اس لئے جو عہد آپ نے صحابہ کرام سے لیا وہ بہت اہم ہے [۲] دوسری بات فرمائی کہ میرے بعد بہت اختلاف ہو گا، اس لئے اس وقت میں خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، [۳] اور تیسرا بات یہ فرمائی کہ چاروں خلفاء راشدین حدایت پر ہیں اب جو حضرات صرف حضرت علیؓ کو لیتے ہیں، اور باقی تین خلفاء کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ پھر چاروں خلفاء حدایت پر ہیں تو وہ لوگ جو تین خلفاء کو خطأ اور غلطی رسمار کرتے ہیں وہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اس لئے یہ بہت سوچنے کی بات ہے  
اس حدیث میں ہے کہ صحابہ کے اختلاف کے سلسلے میں چپ رہا کرو

قال لی اہبہن بن صیفی : قال لی رسول الله : يا اهبان ، اما انک ان بقیت بعدی فسٹری فی اصحابی اختلافا ، فان بقیت الی ذالک الیوم فاجعل سیفك من عراجین ، قال فجعلت سیفی من عراجین - ( طبرانی کبیر ، مسندا اہبہن بن صیفی الغفاری ، جلد ایضاً ، نمبر ۸۶۸ ، ۲۹۵ ) - ترجمہ حضرت اہبہنؓ نے فرمایا کہ ، کہ مجھ سے حضورؐ نے فرمایا ، ائمہ اہبہنؓ اگر میرے بعد تم زندہ رہو گے تو میرے صحابہ میں اختلاف دیکھو گے ، اگر تم اس زمانے تک زندہ رہو ، تو اپنی تلوار کی بنا لینا [ یعنی لو ہے کی تلوار سے کسی صحابی کے خلاف لڑائی نہیں کرنا ] ، حضرت اہبہن فرماتے ہیں کہ ، میں نے کھجور کی شاخ کی تلوار بنالی ہے۔

صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہوا ہمیں اس میں نہیں پڑنا چاہئے

### حضرت امام شافعیؒ کا قول

- تلک دماء طهر الله ایدینا منها فلا نلوث السنتنا بها - (شرح فقہ اکبر، بحث فی ان المعاصی تضرر تکہہ خلاف بعض الطوائف، ص ۷۱) ترجمہ۔ صحابہ میں جو خون ہے ہیں، اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو اس سے پاک رکھا، تو اب ہم اپنی زبان کو اس میں ملوث نہیں کریں گے

### حضرت امام احمدؓ کا قول

- و سئل احمد عن امر علی و عائشةؓ ف قال تلک امة قد خلت لها ما كسبت و لكم ما كسبتكم و لا تسئلون عما كانوا يعملون . (شرح فقہ اکبر، بحث فی ان المعاصی تضرر تکہہ خلاف بعض الطوائف، ص ۷۱)

ترجمہ۔ حضرت علیؓ اور حضرت عائشہؓ کے درمیان جو اختلاف ہوا، اس کے بارے میں حضرت امام احمدؓ سے پوچھا، تو انہوں نے فرمایا، وہ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کیا، اس کا نقصان، یا فائدہ انکو ملے گا، اور تم جو کرو گے اس کا نقصان یا نفع تمکو ملے گا، ان لوگوں نے جو کچھ کیا، اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا

ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ صحابہ کے درمیان جو اختلاف تھا وہ ان کی اجتہادی غلطی تھی اس لئے ہم لوگوں کو اس میں نہیں پڑنا چاہئے۔ ان دونوں حضرات نے اوپر والی احادیث سے استدلال کیا، اور اسی پر عمل کیا۔ ہمیں اسی عمل کرنا چاہئے

یہ دس صحابی ہیں جنکو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی ہے

ان دس صحابہ رضی اللہ عنہم کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کے باوجود حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ وغیرہ کو کچھ لوگ برا بھلا کہتے ہیں

7- عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله ﷺ أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، وذليلا في الجنة، وسعید بن وقاص في الجنة، وزيد بن زيد في الجنة، وعبد الرحمن بن الجراح في الجنة - (ترمذی شریف، باب مناقب عبد الرحمن بن عوف، ص ۸۵، نمبر ۳۷۲۷)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ ، ابو بکرؓ جنت میں ہیں، عمرؓ جنت میں ہیں، عثمانؓ جنت میں ہیں، علیؓ جنت میں ہیں، طلحہؓ جنت میں ہیں والزبیرؓ جنت میں ہیں، عبد الرحمن بن عوفؓ جنت میں ہیں، وسعد بن وقاصؓ جنت میں ہیں، وسعید بن زیدؓ جنت میں ہیں، والبوعبیدہ بن الجراحؓ جنت میں ہیں

یہ وہ حضرات ہیں جنکو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی ہے  
اللہ کرے ہمیں بھی ان کا ساتھ نصیب ہو۔

اس عقیدے کے بارے میں 10 آیتیں اور 7 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

## ۱۸۔ اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کا جز ہے

اس عقیدے کے بارے میں 7 آیتیں اور 43 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

حضورؐ کی تمام بیویاں، اور حضرت فاطمہؓ، حضرت علیؑ، اور حضرت حسنؑ، اور حضرت حسینؑ یہ سب اہل بیت میں داخل ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ اہل بیت میں رہیں گے  
یہ بھی ضروری ہے کہ اہل بیت کی محبت میں کسی صحابی کو برا بھلا کہنا بالکل ٹھیک نہیں ہے  
خاص طور پر، حضرت عائشہؓ، اور حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کو برا بھلا کہنا بالکل صحیح نہیں ہے۔

اور جوان میں اختلاف ہوا ہے وہ اجتہادی غلطی ہے، اللہ ان کو معاف کرے۔  
حضرت علیؑ، اور حضرت حسینؑ کے اتنے فضائل کے باوجود وہ مشکل کشا، یا کار ساز نہیں ہیں، اس لئے  
ان سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے، کیونکہ حضورؐ کی تعلیم دینے تشریف لائے تھے

حضورؐ کی تمنا یہ تھی کہ میں خلیفہ متعین کر کے نہ جاؤں بلکہ جمہوریت باقی رہے، اور امت ہی اپنا خلیفہ  
 منتخب کرے، البتہ آپ کی تمنا یہ تھی کہ حضرت ابو بکرؓ پہلے خلیفہ بنے،  
ان سب کی تفصیل آگے آرہی ہے

## اہل بیت میں کون کون حضرات داخل ہیں

حضورؐ کی تمام بیویاں اہل بیت میں داخل ہیں، کیونکہ بیوی ہی کو گھر والی کہتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ حقدار حضرت خدیجہؓ ہیں جو حضرت فاطمہؓ کی ماں ہیں، انکے ساتھ ہی حضرت عائشہؓ، حضرت حفصةؓ، اور تمام بیویاں اہل بیت میں داخل ہیں، اور ان تمام کے لئے آیت کے مصدق میں پاکیزگی کی فضیلت حاصل ہیں

بعد میں حضورؐ نے حضرت فاطمہؓ، حضرت علیؑ، حضرت حسنؑ، اور حضرت حسینؑ کو اہل بیت میں داخل کیا، اس لئے بعد میں ان کے لئے بھی، یطہر کم تطہیرا، کی فضیلت حاصل ہوگی کچھ لوگوں نے یہ زیادتی کی ہے کہ ازواج مطہرات، خاص طور پر حضرت عائشہؓ اور حضرت حفصةؓ کو اہل بیت سے نکال دیا ہے اور مزید ظلم یہ کیا ہے کہ ان کو بر اجحلا کہتے ہیں، اور حضرت علیؑ کو اہل بیت میں داخل کرتے ہیں، اور ان حضرات کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ نبیوں سے بھی ان کا درجہ اوپر کر دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہیں

بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ تمام ازواج مطہرات اور حضرت فاطمہؓ، حضرت علیؑ، حضرت حسنؑ، اور حضرت حسینؑ اہل بیت میں داخل ہیں، اور اہل بیت ہونے کے اعتبار سے یہ سب برابر ہیں

اہل بیت میں بیویاں داخل ہیں اس کے لئے یہ آیتیں دیکھیں

۱۔ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاحِدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِّي تَقْيَتُنَّ فَلَا تَخْضُعْنَ بِالْفُولِ فَيُطْمِعُ الَّذِي  
فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ، وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ لَا تَبْرُجْ جَنَّ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ  
الْأُولَى وَ أَقِمْ الصَّلَاةَ وَ اتَّيْنَ الرَّكْوَةَ وَ أَطْعَنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَهِّبَ  
عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطْهِرُكُمْ تَطْهِيرًا ، وَ اذْكُرُنَّ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ  
اللَّهِ وَ الْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا (آیت ۳۱-۳۲، سورت الاحزاب ۳۲)۔

ترجمہ۔ اے بنی کی بیویو! اگر تم تقوی اختیار کرو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اس لئے تم زناکت کے ساتھ بات مت کیا کرو، کبھی کوئی ایسا شخص بجا لائی کرنے لگے جس کے دل میں روگ ہوتا ہے، اور بات وہ کہو جھلائی والی ہو، اور اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہو، اور غیر مردوں کو بناؤ سنگارند کھاتی پھر و، جیسا کہ پہلی جاہلیت میں دکھایا جاتا تھا، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کی رسول کی فرمان برداری کرو، اے بنی کے اہل بیت (گھر والوا) اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کئے، اور تمہیں ایسی پاکیزگی عطا کرے جو ہر طرح مکمل ہو، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، یقین جانو اللہ، بہت باریک ہیں اور ہر بات سے باخبر ہے۔

اس آیت میں آپ کی تمام بیویوں کو پہلے، یا نساء النبي لستن کاحد من النساء۔ کہہ کر مخاطب کیا، پھر، کن، جمع موٹھ حاضر کے ذریعہ سے خطاب کیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ اے اہل بیت اللہ تکمکو پاک کرنا چاہتے ہیں، اس لئے بیویوں کو اہل بیت میں اللہ نے داخل کیا ہے۔

اس پوری آیت کو دیکھیں کہ، انما یوید اللہ، سے پہلے بھی کن، جمع موٹھ حاضر کے صینے سے حضور<sup>ؐ</sup> کی بیویوں کو مخاطب کیا ہے، اور یطھر کم تطہرا، کے بعد بھی کن جمع موٹھ حاضر کے صینے سے حضور<sup>ؐ</sup> کی بیویوں کو مخاطب کیا ہے، اس لئے درمیان میں، انما یوید آلخ سے بھی حضورگی بیویاں ہی

مراد ہیں، اور وہ اہل بیت میں داخل ہیں۔ اور بعد میں حضرت فاطمہؓ، اور حضرت علیؑ کو حضورؐ نے اہل بیت میں داخل کیا ہے، اس لئے اہل بیت میں حضرت خدیجہؓ، حضرت عائشہؓ، حضرت حفصةؓ وغیرہ تمام بیویاں داخل ہیں

**لکھتے۔** آیت کے درمیان میں، لیذھب عنکم الرجس اهل البت و یطھر کم تطھیرا، میں، عنکم، اور، یطھر کم، میں جمع مذکر حاضر کا صیغہ لا یا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ، اہل بیت میں حضور بھی داخل ہیں، اس لئے انکی عظمت کے لئے، کم، جمع مذکر حاضر کا صیغہ لا یے ہیں اور اس میں تمام بیویاں داخل ہیں

اس حدیث میں ہے کہ آپ کی بیویاں اہل بیت میں پہلے سے داخل ہیں

۱- عن ام سلمة قالت انزلت هذه الآية ( انما يريده الخ [آیت ۳۳، سورت الاحزاب ۳۳]

--- قلت وانا معكم يا رسول الله؟ قال وانت معنا--- ( طبراني الكبير، من دام حمیة بنت کیسان عن ام سلمة، ج ۲۲، ص ۳۵۷، نمبر ۸۳۹ )

ترجمہ۔ حضرت ام سلمہؓ نے فرمایا کہ جب آیت انما یرید اخ نازل ہوئی۔۔۔ تو میں نے پوچھا کہ ہم بیویاں بھی آپ کے ساتھ اہل بیت میں داخل ہیں؟ تو حضورؐ نے فرمایا کہ تم لوگ بھی ہمارے ساتھ اہل بیت میں داخل ہو

اس حدیث میں صراحت کے ساتھ ہے کہ حضرت ام سلمہؓ نے حضورؐ سے پوچھا کہ، ہم بیویاں بھی اہل بیت اور ایت تطھیر میں داخل ہیں تو، حضورؐ نے جواب دیا کہ تم لوگ بھی اہل بیت میں داخل ہو

2- عن انس<sup>ؓ</sup> قال بنى على النبی ﷺ بزینب بنت جحش بخیز و لحم... فخرج

النبی ﷺ فانطلق الی حجرة عائشة فقال السلام عليکم اهل البيت ورحمة الله )  
 فقالت وعليکم السلام ورحمة الله ، كيف وجدت اهلك ؟ بارک الله لك  
 فتقری حجر نسائے کلھن يقول لهن كما يقول لعائشة و يقلن له كما قالت عائشة  
 -(بخاری شریف، باب لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لكم الى طعام [آیت ۵۳]  
 سورت [ص ۸۲۲، نمبر ۲۴۹۳])

ترجمہ۔ حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ جب حضورؐ نے روٹی اور گوشت سے زینب بنت جحش کا  
 ولیمہ کیا۔۔۔ حضور حضرت عائشہؓ کے کمرے کی طرف گئے اور فرمایا، السلام عليکم اهل البيت و  
 رحمة الله، تو حضرت عائشہؓ نے فرمایا، علیکم ورحمة اللہ و برکاتہ، پھر انہوں نے پوچھا، کہ آپ نے  
 اپنے اہل، یعنی اپنی بیوی زینب کو کیسے پایا، اللہ آپ کو برکت دے، حضورؐ تمام بیویوں کے کمروں  
 میں تشریف لے گئے، اور ہر ایک بیوی کو ایسے ہی کہتے جیسے حضرت عائشہؓ گوہا تھا، اور سب بیویاں  
 ویسے ہی کہتیں جیسے حضرت عائشہؓ نے کہا تھا  
 اس حدیث میں تمام بیویوں کو اہل بیت کہا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ بیوی اہل بیت ہوتی ہے، اور  
 حضرت عائشہ، اور حضرت خصہؓ حضورؐ کے اہل بیت میں داخل ہیں

3۔ انطلقت انا و حصین الى زید بن ارقم .... قام رسول الله ﷺ يوماً فينا خطيباً  
 بما يدعى خما بين مكة والمدينة ثم قال و اهل بيته اذكراكم الله في اهل بيته  
 ،اذكركم الله في اهل بيته. اذكراكم الله في اهل بيته، فقال له حصين و من اهل  
 بيته؟ يا زيد اليس نسائے من اهل بيته؟ قال نسائے من اهل بيته ولكن اهل بيته من  
 حرم الصدقۃ بعده۔ (مسلم شریف، باب فضل علی بن طالب، ص ۱۰۶۱، نمبر ۲۲۰۸/۲۲۲۵)

ترجمہ۔ میں اور حصین زید بن ارقم کے پاس گئے۔۔۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان پانی کی ایک جگہ ہے جس کا نام خم ہے، وہاں ایک دن ہمارے سامنے نظہر دینے کے لئے کھڑے ہوئے، پھر آپ نے فرمایا، میرے گھروالوں کے بارے میں، تم کو اللہ یاد دلاتا ہوں، میں اپنے گھر والوں کے بارے میں، تم کو اللہ یاد دلاتا ہوں، حضرت زیدؓ سے حصینؓ نے پوچھا، حضورؐ کے اہل بیت کون ہیں، حضرت زید! انکی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ تو حضرت زید نے فرمایا، حضورؐ کی بیویاں اہل بیت میں ہیں، لیکن جن لوگوں کو زکوٰۃ لینا حرام ہے وہ بھی بیویوں کے علاوہ، اہل بیت میں داخل ہیں ان احادیث میں حضورؐ کی تمام بیویوں کو اہل بیت کہا ہے، اس لئے حضورؐ کی تمام بیویاں اہل بیت میں داخل ہیں اور ان کے لئے تطہیر کی فضیلت حاصل ہے

اس آیت میں اہل سے مراد حضرت موسیٰؑ کی بیوی ہیں

۲۔ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ أَمْكُثُوا إِنِّي أَنْسُثُ نَارًا۔ (آیت ۱۰، سورت ط)

ترجمہ۔ یا اس وقت کی بات ہے جب ان کو [موسیٰؑ] کو ایک آگ نظر آئی تو انہوں نے اپنے گھروالوں سے کہا تم یہیں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے۔

اس آیت میں اہل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی صفورۃؓ مراد ہیں، اس لئے اہل بیت میں تمام بیویاں داخل ہیں

## بعد میں حضورؐ نے حضرت علیؑ، فاطمہؓ، حسنؓ، اور حسینؓ کو اہل بیت میں داخل کیا

آیت کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں پہلے سے داخل تھیں، بعد میں حضورؐ نے حضرت علیؑ، فاطمہؓ، حسنؓ، اور حسینؓ کو اہل بیت میں داخل کیا ہے اور اب وہ ہمیشہ کے لئے اہل بیت میں داخل ہو گئے  
اس کی دلیل یہ حدیث ہے

4۔ قالت عائشه خرج النبي ﷺ غداة و عليه مرط مرحل من شعر اسود فجاء  
الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ، ثم جئت فاطمه فأدخلتها ثم  
جاء علي فأدخله ثم قال ، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يظهر لكم  
تطهيراً۔ (آیت ۳۳، سورت الاحزاب ۳۳)۔ مسلم شریف، باب فضائل اہل بیت النبی ﷺ، ص  
۷۰۶، نمبر ۲۲۲۲/۲۲۶۱، رترمذی شریف، کتاب المناقب، باب مناقب اہل البيت، ص ۸۵۹، نمبر  
(۳۷۸۷)

ترجمہ۔ حضورؐ ایک صح کو نکلے آپ پر کالے بال کی نقشین چادر تھی، حضرت حسن بن علیؑ آئے آپ نے انکو چادر میں داخل کر لیا، پھر حضرت حسین آئے، انکو بھی حضرت حسن کے ساتھ داخل کر لیا، پھر حضرت فاطمہ آئی، آپ نے ان کو بھی داخل کر لیا، پھر حضرت علیؑ، آپ نے انکو بھی چادر میں داخل کر لیا، پھر یہ آیت پڑھی انما يريد اللہ، اخْنَ، ترجمہ۔ اے نبی کے گھر والوں [اہل بیت] اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کھے، اور تمہیں ایسی پاکیزگی عطا کرے جو ہر طرح مکمل ہو۔

عام طور پر اہل بیت، یعنی گھروالے، سے لوگ گھر میں رہنے والی بیویوں کو ہی گھروالے سمجھتے ہیں، شادی شدہ بیٹی، داماد، اور نواسوں کو گھروالے نہیں کہتے ہیں، اور اگر یہ حضرات دوسرا گھر میں رہتے ہوں، تو اور بھی انکو گھروالے نہیں کہتے ہیں، اس لئے حضورؐ نے باضابطہ ان حضرات کو چادر میں داخل کیا، اور بیویوں کے ساتھ حضرت علیؓ، فاطمہؓ، حسنؓ اور حسینؑ کو اہل بیت میں داخل کیا اور یہ ہمیشہ کے لئے اہل بیت میں داخل ہیں، اور جس طرح ازواج مطہرات کے لئے آیت تطہیر ہے اسی طرح ان حضرات کے لئے بھی اتنی ہی تطہیر ہے، اس سے کم کرنا بھی اچھا نہیں ہے اور بڑھانا بھی اچھا نہیں ہے اس کی ایک مثال یہ ہے

مدینہ طیبہ حرم نہیں تھا، لیکن حضورؐ نے اس کو اللہ کے حکم سے حرم بنایا، اسی طرح حضرت فاطمہؓ، علیؓ، حسنؓ اور حسینؑ رضی اللہ عنہم اہل بیت میں داخل نہیں تھے لیکن حضورؐ نے اللہ کے حکم سے انکو اہل بیت میں داخل فرمایا، اور آیت تطہیر میں داخل فرمایا

مدینہ طیبہ کو حضورؐ نے حرم بنایا اس کے لئے حدیث یہ ہے

- عن ابی هریرہؓ ان النبی ﷺ قال حرم ما بین لا بتی المدینة علی لسانی۔ (بخاری شریف، کتاب فضائل المدینة، باب حرم المدینة، ص ۳۰۱، نمبر ۱۸۲۹ / ابو داود شریف، کتاب المناسك، باب فی تحريم المدینة، ص ۲۹۵، نمبر ۲۰۳۷)

ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا کہ مدینہ کے دونوں کے دونوں کنارے میری زبان پر حرم قرار دے دئے گئے۔

اس حدیث میں ہے کہ حضورؐ نے مدینہ کو حرم قرار دیا، اسی طرح حضورؐ نے حضرت فاطمہؓ، علیؓ، حسنؓ اور حسینؑ رضی اللہ عنہم اہل بیت میں داخل فرمایا۔

پہلے یہ حضرات اہل بیت میں داخل نہیں تھے، اور یہ بھی طے ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے حضورؐ نے کیا

## اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کا جز ہے

اہل بیت کا مقام کتنا اہم ہے کہ دن میں کم سے کم پانچ مرتبہ فرض نماز پڑھی جاتی ہے، اور پانچوں مرتبہ حضور پر درود پڑھا جاتا ہے، اور حضور پر درود کے ساتھ ان کی آں پر بھی درود پڑھنا لازمی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ حضور کے اہل بیت اور آپ کی آں کا مقام بہت اونچا ہے، اور ایمان کا جز ہے، اور اس کے علاوہ جب بھی درود شریف پڑھا جائے گا تو حضور کی اولاد اور گھر والوں کے لئے دعا ہوگی، اور قیامت تک ہوتی رہے گی

درو دا برہمی یہ ہے۔ اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ الخ  
ترجمہ۔ اے اللہ محمد پر درود عطا فرماء، اور محمد کے آں پر درود عطا فرماء۔

اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد۔ الخ  
ترجمہ۔ اے اللہ محمد پر برکت عطا فرماء، اور محمد کے آں پر برکت عطا فرماء۔

غدریخ کے موقع پر حضور نے تین مرتبہ لوگوں سے فرمایا کہ میرے اہل بیت کے بارے میں بچت رہنا اور تمام اہل بیت کا پورا احترام کرنا۔

لیکن مشکل یہ ہے کہ خوارج نے اہل بیت میں سے حضرت علیؑ کو برا بھلا کہا، شامیوں نے اہل بیت میں سے حضرت حسینؑ کو شہید کیا، اور کچھ نے اہل بیت میں سے حضرت عائشہؓ اور حضرت حفصةؓ کو برا بھلا کہا، چونکہ حضورؐ کو ان تینوں زیادتیوں کی اطلاع دے دی گئی تھی، اس لئے آپ نے تین مرتبہ اہل بیت اور گھر والوں کے بارے میں احترام کرنے کی ترغیب دی

حدیث یہ ہے -

5- انطلقت انا و حصین بن سبرة الی زید بن ارقم.... قام رسول اللہ ﷺ یوماً فینا خطیباً بماء یدعی خما بین مکة و المدینة فحمد اللہ و اثنى علیه و وعظ و ذکر ثم قال اما بعد الا ايها الناس فانما انا بشر یوشک ان يأتي رسول ربی فأجیب ، و انا تارک فیکم ثقلین ، او لهمما کتاب الله فیہ الھدی و النور فخذلوا بکتاب الله و استمسکوا به فتح علی کتاب الله و رغب فیہ ثم قال و اهل بیتی اذکر کم الله فی اهل بیتی ، اذکر کم الله فی اهل بیتی. اذکر کم الله فی اهل بیتی، فقال له حصین و من اهل بیته ؟ یا زید الیس نسائے من اهل بیته ؟ قال نسائے من اهل بیته - (مسلم شریف، کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علی بن طالب ﷺ، ص ۲۰۶۱، نمبر ۲۲۰۸/۲۲۲۵)

ترجمہ۔ میں اور حضرت حصین زید بن ارقم کے پاس گئے ۔۔۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان پانی کی ایک جگہ ہے جس کا نام خم ہے، وہاں حضور ایک دن ہمارے سامنے خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے، آپ نے اللہ کی حمد و شکر کی، وعظ کیا اور یاد دلایا، پھر کہا اما بعد، لوگو سنو!، میں انسان ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرے رب کا قاصد آجائے، اور میں انکی بات قبول کر کے دنیا سے چلا جاؤں، میں دو اہم چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ جاتا ہوں، پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، جس میں حدایت اور نور ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو، قرآن کو پکڑنے کے لئے بہت ترغیب دی، پھر آپ نے فرمایا، میرے گھروالے، میں اپنے گھروالوں کے بارے میں، تم کو اللہ کا عہد یاد دلاتا ہوں، میں اپنے گھروالوں کے بارے میں، تم کو اللہ کا عہد یاد دلاتا ہوں، میں اپنے گھروالوں کے بارے میں، تم کو اللہ کا عہد یاد دلاتا ہوں، حضرت زیدؓ سے حصینؓ نے پوچھا، حضورؐ کے اہل بیت کون ہیں حضرت زید؟ انکی بیویاں اہل بیت میں نہیں ہیں؟ تو حضرت زیدؓ نے فرمایا، حضورؐ کی بیویاں اہل بیت میں ہیں،

اس حدیث میں تین مرتبہ حضور نے بڑے درد کے ساتھ لوگوں سے کہا کہ میرے گھر والوں کے ساتھ احترام اور محبت کا معاملہ کرنا۔

6- عن جابر بن عبد الله قال رأيت رسول الله ﷺ في حجته يوم عرفة و هو على ناقبه القصواء يخطب فسمعته يقول ، يا ايها الناس اني قد تركت فيكم ما ان اخذتم به لن تضلوا ، كتاب الله ، و عترتى اهل بيتي ۔ (ترمذی شریف، کتاب المناقب، باب مناقب اہل الہیت، ص ۳۷۸۶ / مندرجہ، حدیث زید بن ثابت، ج ۲، ص ۲۳۲، نمبر ۸۵۹) (۲۰۶۸)

ترجمہ۔ جابر بن عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ میں نے جستہ الوداع میں عرفہ کے دن دیکھا، آپ قصواً و مُثْنی پر سوار تھے، اور خطبہ دے رہے تھے، میں نے آپ کو کہتے ہوئے سنا، اے لوگوں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اگر تم اس کو پکڑے رہو تو کبھی گمراہ نہیں ہو گے، ایک اللہ کی کتاب قرآن، اور دوسرا میرا کنہ، میرے گھر والے یعنی قرآن اور اہل بیت کو پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہو گے

7- عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ أحبوا الله لما يغدو كم من نعمه ، و أحبونى بحب الله وأحبوا أهل بيتي بمحبى ۔ (ترمذی شریف، کتاب المناقب، باب مناقب اہل الہیت، ص ۳۷۸۹ / نمبر ۸۵۹)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو، کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمت سے غزادیتا ہے، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے بھی محبت کرو، اور میری محبت کی وجہ سے میرے گھر والوں سے بھی محبت کیا کرو۔ ان سب احادیث میں تمام اہل بیت سے محبت کرنے کی تاکید ہے

## سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت

حضرت فاطمہ حضورؐ کی چیتی بیٹی ہیں، اور جگر کا لکڑا ہیں جنت کی سردار ہیں، اہل سنت والجماعت ان سے دل سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمارے سر کے تاج ہیں، اور ان کا احترام کرنا ایمان کا جز سمجھتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ حد سے زیادہ نہیں بڑھتے۔ ان سب کی مختصر فضیلت بیان کی جا رہی ہے اس کے لئے احادیث یہ ہیں۔

8۔ عن مسور بن مخرمة ان رسول الله ﷺ قال فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني۔ (بخاری شریف، باب منقبة فاطمة علیہ السلام، ص ۲۲۶، نمبر ۳۷۱۲)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا فاطمہ میرے دل کا لکڑا ہے، جس نے انکو غصہ دلایا، اس نے مجھ کو غصہ دلایا

9۔ عن عائشه قالت كنا ازواج النبي ﷺ عنده لم يغادر منهن واحدة ..... فقال يا فاطمة اما ترضى ان تكوني سيدة نساء المؤمنين او سيدة نساء هذه الامة؟ قالت فضحتك ضحكي الذي رأيت۔ (مسلم شریف، باب فضائل فاطمة، ص ۸۷، نمبر ۲۲۵۰، ۲۳۱۳)۔ ترجمہ۔ ہم حضورؐ کی بیویاں حضورؐ کے پاس تھیں، ہم میں سے کسی نے حضورؐ کو چھوڑا نہیں تھا۔ حضورؐ نے فرمایا: فاطمہ کیا اس بات سے راضی نہیں ہو کہ، تم مومنین کی عورتوں کی سردار بنے، یا یوں فرمایا کہ، اس امت کی عورتوں کی سردار بنے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ تم لوگ جو مجھے ہنستے ہوئے دیکھی وہ اسی وجہ سے نہیں رہی تھی۔

ان احادیث میں ہے کہ حضرت فاطمہ مومن عورتوں کی سردار ہیں، اور حضورؐ کے دل کا لکڑا ہیں

## سیدہ حضرت فاطمہؓ کو وراثت کیوں نہیں دی گئی

حضرت ابو بکرؓ نے حضرت فاطمہؓ کو وراثت نہیں دی اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، خود حضرت علیؓ نے اس کی تصدیق کی ہے کہ ہاں نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، ورنہ حضرت عائشہؓ، اور حضرت خصہؓ کو بھی پیوی ہونے کی وجہ سے آٹھواں حصہ ملتا، اس لئے اب کسی کو حضرت ابو بکرؓ پر الزام لگانے کی گنجائش نہیں ہے،  
احادیث یہ ہیں

10- عن عائشة ان فاطمة عليها السلام أرسلت الى ابى بكر تسأله ميراثها من النبى  
 ﷺ مما افاء الله على رسوله ﷺ تطلب صدقة النبى ﷺ التي بالمدينه و  
 فدك و ما بقى من خمس خير فقال ابو بكر ان رسول الله ﷺ قال لا نورث ما  
 تركنا فهو صدقة، انما يأكل آل محمد من هذا المال يعني مال الله ليس لهم ان  
 يزيدوا على الماكل و انى و الله لا أغير شيئاً من صدقات رسول الله ﷺ التي  
 كانت عليها فى عهد النبى ﷺ و لا عملن فيها بما عمل فيها رسول الله ﷺ،  
 فتشهد على ثم قال انا قد عرفنا يا ابا بكر فضيلتك و ذكر قرابتهم من رسول الله  
 و حقهم فتكلم ابو بكر فقال و الذى نفسى بيده لقرابة رسول الله احب الى ان  
 اصل من قرابتي - (بخارى شريف، باب مناقب قرابته رسول الله ﷺ ومنقبة فاطمة عليها السلام،  
 ص ۲۶۶، نمبر ۱۱۲)

ترجمہ۔ حضرت فاطمہؓ نے حضرت ابو بکرؓ کو خبر بھیجی کہ اللہ نے جو کچھ مال غنیمت دیا ہے اس

میں وراشت دیں، حضور<sup>ؐ</sup> کو مدینہ میں ملا تھا، فذک میں ملا تھا اور جو خیر کا خمس ملا تھا ان سب میں وراشت دیں، تو حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ، حضور<sup>ؐ</sup> نے فرمایا تھا کہ نبی کی وراشت تقسیم نہیں ہوتی، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ امت پر صدقہ ہوتا ہے، ہاں اس مال میں محمد<sup>ؐ</sup> کے اہل و عیال بھی کھائیں گے، کھانے سے زیادہ ان کو نہیں ملے گا، اور حضور<sup>ؐ</sup> کے زمانے میں جیسا تھا میں ان صدقات میں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اور جیسا حضور<sup>ؐ</sup> نے عمل کیا تھا میں ایسا ہی عمل کروں گا، اس پر حضرت علیؓ نے گواہی دی [کہ ہاں یہی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں] پھر حضرت علیؓ نے یہ بھی فرمایا کہ، اے ابو بکرؓ میں آپ کی فضیلت جانتا ہوں، پھر حضور<sup>ؐ</sup> سے کیا رشتہ داری ہے اور ان کا کیا حق ہے اس کا ذکر کیا، پھر ابو بکرؓ نے بات کی اور کہا جس خدا کے قبضے میں میری جان ہے اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کہ رسول اللہ کی قرابت مجھے زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صدر جمی کروں اس حدیث میں ہے کہ حضور کے مال میں وراشت نہیں ہوتی، اور حضرت علیؓ نے اس کی تصدیق کی، پھر یہ بھی دیکھیں وراشت یعنی میں صرف حضرت فاطمہؓ نہیں ہیں، بلکہ بیوی ہونے کی حیثیت سے حضرت عائشہ وغیرہ کو بھی آٹھواں حصہ ملے گا، لیکن حضرت ابو بکرؓ نے اپنی بیٹی کو بھی حضورؐ کی وراشت تقسیم کر کے نہیں دی۔

لوگ صرف حضرت فاطمہؓ کی بات کرتے ہیں حضرت عائشہ، اور حضرت حفصةؓ کی وراشت کی بات نہیں کرتے

11- عن ابی هریرة ان رسول الله ﷺ قال لا تقسم ورثتی دینار ولا درهما ، ما تركت بعد نفقة نسائي و مؤنة عاملی فهو صدقة - (بخاری شریف، کتاب الوصایی، باب نفقة القيم للوقف، ص ۲۵۹، نمبر ۲۷۶ مسلم شریف، کتاب الوصایی، باب ترک الوصیی لم یں لیشی یوسف فیہ، ص ۱۷، نمبر ۱۶۳۷ / ۲۲۲۷)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا: میرے وارث دینار اور درهم تقسیم نہیں کریں گے میری بیویوں کے نفقة، اور کام کرنے والوں کی مزدوری کے بعد جو کچھ چھوڑوں گا وہ امت پر صدقہ ہے۔  
اس حدیث میں ہے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ میری وراثت تقسیم نہیں ہوگی، میں جو کچھ چھوڑوں گا وہ امت کے لئے صدقہ ہے، اس لئے اس معاملے کو بڑھا کر حضرت فاطمہؓ ظلم کہنا بہت بڑی غلطی ہے

12- عن قيس بن كثير ... ان الانبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً إنما ورثوا العلم -  
(ترمذی شریف، کتاب الحعلم، باب ماجاء فی فضل الفقہ علی العبادة، ص ۲۰۹، نمبر ۲۶۸۲)  
شریف، مقدمة، باب فضل العلماء والجثث علی طلب العلم، ص ۳۴، نمبر ۲۲۳)

ترجمہ۔ انبیاء دینار اور درھم کے وارث نہیں بناتے ، وہ صرف علم کے وارث بناتے ہیں  
اس حدیث میں موجود ہے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، اس لئے حضرت ابوکعبؓ نے حضرت فاطمہؓ کو  
وراثت نہیں دی تو اس بات کو بہت بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے

## حضرت ابو بکرؓ نے عہد کیا کہ اہل بیت کو جی بھر کر کر دیں گے

حضرت ابو بکرؓ نے وعدہ کیا کہ میں وراشت تو نہیں دوں گا، کیونکہ وہ جائز نہیں ہے، لیکن اپنے اہل و عیال سے زیادہ حضور کے اہل و عیال، اور اہل بیت کو دوں گا، اور ان کی پوری خبر گیری کروں گا اس کے لئے حضرت ابو بکرؓ کا قول یہ ہے

13۔ عن ابی بکرؓ قال ارقبوا محمدا ﷺ فی اہل بیته۔ (بخاری شریف، باب مناقب قرابة رسول اللہ ﷺ و منقبة فاطمة علیہ السلام، ص ۲۲۶، نمبر ۳۷۱۳)

ترجمہ۔ حضرت ابو بکرؓ سے یہ روایت ہے کہ حضورؐ کے اہل بیت کے بارے میں پورا خیال رکھا کرو۔

اس حضرت ابو بکرؓ کے قول میں ہے کہ میں خود بھی اہل بیت کا پورا خیال رکھا کروں گا، اور لوگو! تم بھی اہل بیت کا پورا خیال رکھا کرو

## حضرت علیؑ حضرت ابو بکرؓ کے گلے ملے

حضرت ابو بکرؓ اور حضرت علیؑ کے اختلاف کو لوگ بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، اور ابھی بھی مسلمانوں میں دشمنی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت علیؑ نے حضرت ابو بکرؓ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی اور گلبجھی ملے، جس پر تمام مسلمان خوش ہوئے حدیث یہ ہے

14- عن عائشة... استنكر على وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر و مبايعته و لم يكن يباعي تلک الاشهر... فقال على لابي بكر موعدك العشية للبيعة فلما صلى أبو بكر الظهر رقى المنبر فتشهد و ذكر شأن على و تخلفه عن البيعة و عذرها بالذى اعتذر اليه ثم استغفر، و تشهد على فعظم حق أبي بكر و حدث انه لم يحمله على الذى صنع نفاسة على أبي بكر و لا انكارا للذى فضله الله به و لكن نرى لنا فى هذ الامر نصياف استبدل علينا فوجدنا فى انفسنا فسر بذالك المسلمين و قالوا اصبت ، و كان المسلمين الى على قريبا حين راجع الامر المعروف ( بخارى شریف، کتاب المغازی، باب غزوة خیر، ص ۱۹، نمبر ۲۲۲۰)۔

ترجمہ - حضرت علیؑ لوایا محسوس ہوا کہ لوگ میری طرف توجہ کم دے رہے ہیں، اس لئے حضرت ابو بکرؓ سے صلح کی اور ان سے بیعت کرنے کی درخواست کی، انہوں نے ان چھ مہینوں میں بیعت نہیں کی تھی --- حضرت علیؑ نے فرمایا بیعت کے لئے شام کا وقت ٹھیک ہے، جب حضرت ابو بکرؓ نے ظہر کی نماز پڑھی تو منبر پر بیٹھے، اور کلمہ شہادت پڑھا، اور حضرت علیؑ کی شان بیان کی، اور اب تک بیعت سے پچھے

رہے اس کی وجہ بیان کی، اور حضرت علیؑ نے جو عذر پیش کی اس کا بھی ذکر کیا پھر استغفار کیا۔ اور حضرت علیؑ نے کلمہ شہادت پڑھا، اور حضرت ابو بکر کے حق کی عظمت بیان کی، اور یہ بھی کہا کہ میں نے جو کیا ہے وہ حضرت ابو بکر پروفوقیت کی وجہ سے نہیں کی ہے، اور اللہ نے حضرت ابو بکرؓ کو فضیلت دی ہے مجھے اس کا انکار بھی نہیں ہے، لیکن میرا خیال تھا کہ اس معاملے [وراشت میں، یا غلافت میں] میرا بھی کچھ حصہ ہے، لیکن مجھے وہ نہیں ملا جس کی وجہ سے میرا دل اچھا ہوا [اور اب میں خوشی سے بیعت کے لئے آگیا ہوں]، اس سے مسلمان بہت خوش ہوئے، اور سب نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا کیا، اور جب حضرت علیؑ نے امر معروف کی طرف رجوع کیا تو لوگ حضرت علیؑ کے بہت قریب آگئے۔

اس حدیث میں حضرت علیؑ نے حضرت ابو بکرؓ کی عظمت کی، اور انکی فضیلت بیان کی اور حضرت ابو بکرؓ سے بیعت بھی کی ہے، جس سے اس وقت کے تمام مسلمان بہت خوش ہوئے۔

لیکن افسوس ہے کہ حضرت علیؑ نے حضرت ابو بکرؓ سے بیعت کر کے جو اتفاق پیدا کیا تھا بعد کے لوگوں نے اس کو ہوابینایا، اور مسلمانوں کو دنکڑے کر دئے،

تمام مسالک والوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس بیعت کے بعد حضرت علیؑ نے تینوں خلفاء کے زمانے تک کبھی بھی خلافت نہیں مانگی، اور نہ اس کی تمنا کی، بلکہ تمام خلفاء کا دل سے تعاون کرتے رہے، اور مشورے دیتے رہے تاکہ امت میں انتشار نہ ہو۔

حضرت علیؑ کے طریقے پر چلتے ہوئے ہم بھی امت کو جوڑنے کے لئے ایک بنے رہتے تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن افسوس ہے کہ ہم کتنے نکڑوں میں بٹ گئے، اور قوم کا شیرازہ بکھر گیا۔

## امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت

حضرت امیر المؤمنین علی بن طالب رضی اللہ عنہ، امانت کے چوتھے خلیفہ ہیں، یہ اہل بیت میں شامل ہیں، اور بہت سے فضائل کے مالک ہیں، یہ بہت نیک دل اور بہادر صحابی تھے، وہ جبالِ علم تھے، انہوں نے سفر، حضرت میں حضورؐ کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ خوارج نے اچھا نہیں کیا، اور بہت تنگ کیا، اور آخر انکو ایک خارجی نے شہید کر دیا، جس کی وجہ سے آج تک ہمارا دل رورہا ہے ان کی فضیلیتیں بہت ہیں، ان میں سے کچھ فضائل کی حدیثیں یہ ہیں

15- قال النبی ﷺ انت منی و انا منک - (بخاری شریف، کتاب فضائل اصحاب النبی ﷺ، باب مناقب علی بن طالب، ص ۲۲۲، نمبر ۳۷۰)

ترجمہ۔ حضورؐ نے حضرت علیؓ سے فرمایا: تم میرے ہو، اور میں تمہارا ہوں

16- سمعت ابراهیم بن سعد عن ابیه قال قال النبی ﷺ اما ترضی ان تكون منی بمنزلة هارون من موسی - (بخاری شریف، کتاب فضائل اصحاب النبی ﷺ، باب مناقب علی بن طالب، ص ۲۲۵، نمبر ۳۷۰)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا علی کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو، کہ جس طرح ہارونؑ حضرت موسیؑ کے لئے تھے، اسی طرح تم میرے لئے ہو۔

17- عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ انا مدینۃ العلم و علی بابها ، فمن اراد

العلم فلیات الباب۔ (متدرک للحاکم، باب وماقصۃ اعتزال محمد بن مسلمۃ، ج ۳، ص ۷۳، نمبر ۲۶۲، طبرانی کبیر، باب مجاد عن ابن عباس، ج ۱۱، ص ۲۵، نمبر ۱۱۰۶۱)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا: میں علم کا شہر ہوں اور علیؐ اس کا دروازہ ہے، جس کو علم حاصل کرنا ہو وہ دروازے کے پاس آئے [یعنی علیؐ کے پاس آئے]

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت علیؐ علم کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، اور واقعی ایسے ہی تھے۔

حضرت کی نجی البلاغہ اس کی واضح مثال ہے

**حضرت علیؑ کو حد سے زیادہ بڑھانا بھی ہلاکت ہے**

**اور ان سے نفرت کرنا بھی بھی ہلاکت ہے**

حضرت علیؑ نے فرمایا کہ میرے بارے میں دو قسم کے آدمی ہلاک ہوں گے ایک جو میری محبت میں حد سے زیادہ بڑھیں گے، کہ نبی سے بھی زیادہ بڑھا ہیں گے، اور دوسرے وہ جو میرے بعض اور دشمنی میں حد سے زیادہ بڑھیں گے، جیسے خوارج نے کیا

**حضرت علیؑ کا ارشاد یہ ہے**

18- عن ابی حبۃ قال سمعت علیاً يقول : يهلك فی رجلان : مفروط فی حبی ، و  
مفروط فی بغضی - (مصنف ابن ابی شیبۃ، ج ۲، کتاب فضائل، باب فضائل علی بن ابی طالب،  
ص ۷۷، نمبر ۳۲۱۲۵/۳۲۱۳۳)

ترجمہ۔ حضرت علیؑ سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے بارے میں دو قسم کے آدمی ہلاک ہوں گے، ایک وہ جو میری محبت میں حد سے زیادہ بڑھا ہو، اور دوسرا جو میری دشمنی میں حد سے زیادہ بڑھا ہو

19- عن ابی سوار العدوی قال قال علیؑ لیحبنی قوم حتی یدخل النار فی حبی ، و  
لیبغضنی قوم حتی یدخلوا النار فی بغضی - (مصنف ابن ابی شیبۃ، ج ۲، کتاب فضائل،  
باب فضائل علی بن ابی طالب، ص ۷۷، نمبر ۳۲۱۲۳/۳۲۱۳۳)

ترجمہ۔ حضرت علیؑ نے فرمایا کہ مجھ سے کچھ لوگ [حد سے زیادہ] محبت کریں گے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہوں گے، اور کچھ لوگ مجھ سے حد سے زیادہ بعض رکھیں گے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔

یہ بالکل واقعہ ہے، کہ کچھ لوگ حضرت علیؑ کی محبت میں حد سے گزر گئے ہیں، اور کچھ حضرت علیؑ کی نفرت

میں حد سے زیادہ گزر گئے ہیں  
 اہل سنت والجماعت بالکل حق پر ہیں کہ وہ حضرت علیؑ سے دل سے محبت کرتے ہیں لیکن اس میں غلو  
 نہیں کرتے، کہ نبیوں سے بھی آگے بڑھا دیا جائے، اور ان سے نفرت تو کرتے ہی نہیں، بلکہ بے پناہ  
 محبت کرتے ہیں، اور اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں ۔

## حضرت علیؑ تمام مومنین کے ولی ہیں، یعنی دوست ہیں

بعض حضرات نے اس حدیث سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت علیؑ مدگار ہیں اور مشکل کشا، اور حاجت روا ہیں، لیکن حدیث کا تکڑا، اللهم عاد من عادا، ترجمہ۔ کہ حضرت علیؑ سے دشمنی رکھے اللہ تو اس کا دشمن بن جا کر دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں مولیٰ کا ترجمہ دوست کے ہیں، مدگار اور مشکل کشا کے نہیں ہے اس بارے میں اسی کتاب میں، اللہ کے علاوہ سے مدد مانگنا، والاعتوان دیکھیں کچھ حضرات نے اس حدیث سے یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت علیؑ و حضورؐ نے خلیفہ اول بنایا ہے، کیونکہ حضرت علیؑ کو ہر مومن کا ولی بنایا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ولی کا معنی دوست کے ہیں، کہ حضرت علیؑ ہر مومن کے دوست ہیں، المجد میں، ولی کا معنی قریب، اور محظوظ، لکھا ہے

دوست والی حدیث یہ ہے

20- عن البراء بن عاذب قال أقبلنا مع رسول الله ﷺ في حجته التي حج فنزل في بعض الطريق فأمر الصلوة جامعة فأخذ بيده على فقال ألسست أولى بالمومنين من أنفسهم؟ قالوا بلى، قال ألسست أولى بكل مومن من نفسه؟ قالوا بلى قال فهذا ولى من أنا مولا، اللهم وال من والاه اللهم عاد من عادا - (ابن ماجة شریف، فضل علی بن طالب، ص ۱۹، نمبر ۱۱۶)

ترجمہ۔ حضرت براء بن عاذب فرماتے ہیں کہ ایک حج کے موقع پر ہم حضورؐ کے ساتھ واپس آرہے تھے،

راتستے میں ہم نیچے اترے، حضور نے فرمایا کہ نماز کی جماعت کے لئے تیار ہو جاؤ، پھر حضرت علیؓ کا ہاتھ پکڑا، اور فرمایا کہ کیا میں مومنین کو اس کی ذات سے زیادہ محبوب نہیں ہوں؟، لوگوں نے کہا ہاں! پھر فرمایا کہ ہر مومن کی ذات سے زیادہ محبوب نہیں ہوں؟ لوگوں نے پھر کہا ہاں! تو آپ نے فرمایا کہ، جس کا میں محبوب ہوں اس کا یہ محبوب ہے، اے اللہ جو حضرت علیؓ سے محبت کرے تو اس کا محبوب بن جا، اور جوان سے دشمنی کرے تو اس کا دشمن بن جا۔

اس حدیث میں فرمایا کہ جس کا میں ولی حضرت علی اس کے ولی، پھر فرمایا کہ حضرت علی سے جودوتی رکھے، اے اللہ تو اس کا دوست بن جا، اور جو اس سے دشمنی رکھے، اے اللہ تو اس کا دشمن بن جا۔

نوت: ولی کے معنی مددگار کا بھی آتا ہے، لیکن یہاں ولی کا معنی دوست ہے، ولی کا معنی خلیفہ اول کے یا مددگار کے نہیں ہے۔ آپ دعا کے الفاظ پر غور کریں  
اس آیت میں مولی، دوست کے معنی میں استعمال ہوا ہے

3۔ یوم لا یغنى مولی عن مولی شيئا و لا هم ینصرون - (آیت ۳۱، سورت الدخان ۲۲)  
ترجمہ۔ جس دن کوئی دوست کسی دوست کو کوئی کام نہیں آئے گا، اور نہ اس کی مدد ہوگی

اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ولی کا معنی دوست کرنا بالکل صحیح ہے

## امیر المؤمنین حضرت حسنؑ اور حضرت حسینؑ کی فضیلیتیں

حضرت حسنؑ اور حسینؑ اہل بیت میں سے ہیں، جنت کے سردار ہیں اور امیر المؤمنین بھی ہیں، لیکن شامیوں نے انکو شہید کر دیا، اور آج تک یہ جھگڑا مسلمانوں کے درمیان جھگڑے کا باعث بنا ہوا ہے، کاش کر دنوں صلح کر کے آپس میں اتفاق کر لیتے اور عرب کے ملکوں کو اختلاف سے بچا لیتے، فیا آسف۔ یہ یاد رہے کہ اہل سنت والجماعت اہل مدینہ کے حمایتی ہیں۔ وہ نہ حضرت حسینؑ کو شہید کرنے میں شریک ہیں، اور نہ وہ کربلا میں موجود تھے، اور نہ حضرت علیؑ کو شہید کرنے میں شریک ہیں، اور نہ اس سے خوش ہیں، بلکہ آج تک اس ظلم پر افسوس کر رہے ہیں اس لئے اہل سنت کو ملزم ٹھہرانا ٹھیک نہیں ہے۔

اُنکے فضائل کے بہت احادیث ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں

21- عن ابی هریرۃ قال قال رسول الله ﷺ من أحب الحسن و الحسين فقد احبني و من ابغضهما فقد ابغضني - (ابن ماجہ شریف، باب فضل الحسن والحسین ابن علی بن ابی طالبؑ، ص ۲۲، نمبر ۱۳۳)

ترجمہ حضورؐ نے فرمایا، جو لوگ حسن اور حسینؑ سے محبت کرتے ہیں تو گویا کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور جو ان سے دشمنی کرتے ہیں تو گویا کہ مجھ سے دشمنی کرتے ہیں

22- عن اسامة بن زید عن النبي ﷺ انه كان يأخذه و الحسن و يقول اللهم انى احبهما فاحبهم - (بخاری شریف، باب مناقب الحسن والحسین، ص ۲۳۱، نمبر ۳۷۸ مسلم)

شریف، باب من فضائل الحسن والحسین، ص ۷۰، نمبر ۲۲۲۱/ ۲۵۶)

ترجمہ۔ حضور<sup>ؐ</sup> حضرت حسین اور حضرت حسن کو گود میں لیتے اور فرماتے، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، آپ کبھی ان سے محبت کیجئے

23۔ عن ابی موسی ..... رأیت رسول الله ﷺ علی المنبر و الحسن بن علی<sup>ؑ</sup> الی جنبه و هو یقبل علی الناس مرة و علیه اخری و یقول ان ابني هذا سید و لعل الله ان یصلح به بين فتتین عظیمتین من المسلمين - (بخاری شریف، کتاب الصلح، باب قول النبی ﷺ علی الحسن بن علی، ص ۳۲۲، نمبر ۲۷۰۲)

ترجمہ۔ حضرت ابو موسیؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور<sup>ؐ</sup> کو منبر پر دیکھا، کہ حضرت حسنؑ آپ کے پہلو میں تھے، آپ کبھی لوگوں کی طرف توجہ فرماتے، اور کبھی حسن کی طرف دیکھتے، اور یوں کہتے، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور ہو سکتا ہے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرانے گا اور ایسے ہی ہوا کہ آپ نے دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرانی

24۔ عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ الحسن و الحسين سيدا شباب اهل الجنۃ و ابوهما خير منهما - (ابن ماجة شریف، باب فضل علی بن طالب، ص ۱۹ - نمبر ۱۱۸)

ترجمہ۔ حضور<sup>ؐ</sup> نے فرمایا، حضرت حسن اور حضرت حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے والد، حضرت علیؑ ان دونوں سے بہتر ہیں

25۔ عن زید بن الارقم قال قال رسول الله ﷺ علی و فاطمة و الحسن و

الحسین ، انا سلم من سالمتم و حرب لمن حاربتم - (ابن ماجہ شریف، باب فضل الحسن  
والحسین ابنی علی بن ابی طالب، ص ۲۲، نمبر ۱۲۵)

ترجمہ حضورؐ نے علیؑ، فاطمۃؓ، حسنؑ اور حسینؑ سے فرمایا، جن سے آپ لوگ صلح کریں گے میں بھی ان  
سے صلح کروں گا، اور جن سے تمہاری جنگ ہے، میری بھی جنگ ہے  
یہ خیال رہے کہ اہل سنت والجماعت نے حضرت علیؑ، فاطمۃؓ، حسنؑ اور حسینؑ سے کبھی دشمنی نہیں رکھی  
ہے، بلکہ ہمیشہ ان سے محبت رکھی ہے، اور ان کا احترام کیا ہے، اس لئے ان پر دشمنی کا اذراک رکھنا غلط ہے  
، البتہ شریعت کے حدود سے زیادہ نہیں بڑھے،

## ام المؤمنین حضرت خدیجہؓ کی فضیلت

اگر حضرت خدیجہؓ حیات ہوتیں تو یہ بھی اہل بیت میں شامل ہوتیں، اور آیت طہیر کے مصدق ہوتیں، کیونکہ یہ بھی حضورؐ کے گھروالی ہیں، یہ اور بات ہے کہ ان کی وفات کے بعد، *إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطْهِرُ كُمْ تَطْهِيرًا*۔ (آیت ۳۳، سورت الاحزاب ۳۲) آیت نازل ہوئی آیت طہیر نازل ہوتے وقت یہ زندہ ہوتیں تو یہ بھی آیت طہیر میں داخل ہوتیں، یہ بھی تمام مومنین کی ماں ہیں

ان کی فضیلت کے لئے حدیث یہ ہے

26۔ سمعت علی بن طالب یقول سمعت رسول الله ﷺ یقول خیر نسائیها خدیجۃ بنت خویلد، و خیر نسائیها مریم بنت عمران۔ (ترمذی شریف، کتاب المناقب، باب فضل خدیجہؓ، ص ۸۷۵، نمبر ۷۷۸)

ترجمہ۔ میں نے حضور سے یہ کہتے ہوئے سنائے کہ تمام عورتوں میں بہتر خدیجہ بن خویلد ہیں، اور بنی اسرائیل کی تمام عورتوں سے افضل مریم بنت عمران ہیں

واقعی حضرت خدیجہ بہت افضل ہیں، انہوں نے بے بسی کے عالم میں حضورؐ کا بہت ساتھ دیا، اور بہت تسلی دی، اللہ انکو اس کا بہترین بدل دے، آمین یا رب العالمین

## ام المؤمنین حضرت عائشہؓ کی فضیلت

حضرت عائشہؓ اہل بیت میں سے ہیں، اور ان کا بھی اتنا ہی احترام ہے جتنا دوسرے اہل بیت کا ہے پھر بڑی بات یہ ہے کہ یہ حضور ﷺ کی چیزی بیوی ہیں، اور پوری امت کی ماں ہیں اس لئے ان کی ادنی تو ہیں بھی جائز نہیں ہے کیا کوئی بھی آدمی اپنی بیوی کی تو ہیں برداشت کرے گا، یہ کیا ظلم ہے کہ بیٹی اور داماد کی محبت میں انکی بیوی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ذرا سوچیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، حضورؐ زندہ ہوتے تو کیا یہ برداشت کرتے؟

اگر حضرت عائشہؓ نے حضرت علیؓ کے بارے میں کوئی غلطی کی ہے تو اس کو اجتہادی غلطی سمجھیں اور امت کو جزو نے کے لئے اس کو معاف کر دیں، اور غیر وہ کے مقابلے پر اب مل کر بیٹھیں، آپ دیکھتے نہیں کہ غیر مسلم آپ پر کتنا یلغار کر رہے ہیں، اور آپ کے ملکوں کو بر باد کر رہے ہیں

حضرت عائشہؓ کے بارے میں یہ آیت ہے

۴- إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْفُكُرِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ [آیت ۲۲ سورت النور] ۔۔۔ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعْنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۔۔۔ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۔ (آیت ۲۲-۲۳ سورت النور)

ترجمہ۔ یقین جانو کہ جو لوگ یہ جھوٹی تھمت گھر کر لائے ہیں وہ تمہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے۔۔۔

یاد رکھو کہ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی مسلمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں پچھکار پڑ چکی ہے، اور ان کو اس دن زبردست عذاب ہو گا۔۔۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لاائق ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لاائق ہیں، اور پاکباز عورتیں پاکباز مردوں کے لاائق ہیں، اور پاکباز مرد پاکباز عورتوں کے لاائق ہیں یہ پاکباز مرد اور عورتیں ان باتوں سے بالکل مبراہیں جو یہ لوگ بنار ہے ہیں، ان پاکبازوں کے حصے میں تو مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے

غزوہ بنو لمصطاق میں حضرت عائشہؓ فلے سے پیچھے رہ گئی تھیں، اور بعد میں حضرت صفوان بن معطلؓ کے ساتھ قافلے میں آئیں، جس کی وجہ سے عبداللہ بن ابی بن سلول نے حضرت عائشہؓ پر زنا کی تہمت لگائی، ایک مہینے کے بعد اوپر کی آیتیں نازل ہوئیں، جس میں حضرت عائشہؓ کی پاک دامنی بیان کی گئی ہے، اس لئے اس پر زنا کی تہمت لگانا سراسر ظلم ہے۔ کیا کوئی اپنی ماں پر زنا کی تہمت لگاتا ہے یا انکو برا بھلا کہتا ہے، کیسی بے حیائی ہے

27- عن عائشةؓ ان رسول الله كان يسأل في مرضه الذي مات فيه يقول اين انا غدا؟ اين انا غدا؟ . يريد يوم عائشة . فأذن له ازواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة حتى مات عندها ، قالت عائشة فمات في يوم الذي كان يدور على فيه في بيته فقبضه الله و ان رأسه لبين نحرى و سحرى و خالط ريقه ريقى - (بخاري شريف، كتاب المغازى، باب مرض النبي ووفاته، ص ۵۶، نمبر ۲۲۵۰)

ترجمہ۔ جس مرض میں حضور کی وفات ہوئی اس میں پوچھا کرتے تھے کہ کل کس کے یہاں باری ہے؟، کل کس کے یہاں باری ہے؟ حضورؐ یہ چاہتے تھے کہ حضرت عائشہؓ کی باری آجائے، اس لئے باقی یوں یوں نے اس کی اجازت دے دی کہ حضور جس کے یہاں چاہیں رات گزاریں، اس لئے وفات

تک حضرت عائشہؓ کے گھر میں رہے، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ، جس دن میری باری تھی اسی دن آپ کی وفات ہوئی، حضور میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، اس وقت اللہ نے اپنے پاس بلایا، اور اس آخری وقت میں ان کا تھوک میرے تھوک کے ساتھ ملا۔

حضرت عائشہؓ حضورؐ کی کتنی چیتی بیوی تھی کہ انکی باری کا انتظار کرتے رہے، اور انہیں کی گود میں آخری وقت گزارا، اور انہیں کی گود میں وفات پائی۔ پھر بھی انکو برآ کہنا بہت بری بات ہے

28۔ انه سمع انس بن مالک يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول فضل عائشة على النساء كفضل لثريده على سائر الطعام - (بخاری شریف، کتاب فضائل اصحاب النبی ﷺ، باب فضل عائشة، ص ۲۳۳، نمبر ۳۷۷)

ترجمہ۔ میں نے حضورؐ کہتے سنے ہے کہ عورتوں پر حضرت عائشہؓ کی فضیلت ایسی ہی ہے، جیسے تمام کھانے پر ثرید کی فضیلت ہے۔  
ان احادیث میں حضرت عائشہؓ کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔

## امیر المؤمنین حضرت ابو بکرؓ کے فضائل

حضرت ابو بکرؓ حضورؐ کے ساتھ رہے، اور ہر حال میں ساتھ دیا اور وہ خدمات انجام دی جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔

انکے تدبیر، حکمت عملی، رعب اور بدبہ، اور جوان مردی سے امت دو ٹکڑے ہونے سے فیج گئی، ورنہ جو حال حضرت علیؓ کے آخری زمانے میں ہوا، ہی حال حضورؐ کی وفات کے بعد ہو جاتی۔  
اس کے لئے انسانوں کی فطرت پر غور کریں اور اس زمانے کے حالات کا مطالعہ کر کے فیصلہ کریں

اُنکے فضائل کی آیتیں یہ ہیں

5۔ إِذَا خَرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ الْأَثْيَنِ إِذْ هُمَا فِي الْعَارِ، إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزُنْ  
إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا (آیت ۳۰، سورت التوبۃ ۹)

ترجمہ۔ اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے، جب انکو کافروں نے ایسے وقت کہ سے نکالا تھا جب وہ دو آدمیوں میں سے دوسرے تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے

یہ آیت بھی حضرت ابو بکرؓ کی شان میں نازل ہوئی، کیونکہ حضورؐ کے ساتھ صرف وہی غارثوں میں تھے

اس کے لئے حدیث یہ ہے

29- عن البراء قال اشتري ابو بكر من عازب رحلا ..... هذ الطلب قد لحقنا يا

رسول اللہ فقال لا تحزن ان الله معنا۔ (بخاری شریف، کتاب فضائل اصحاب النبی ﷺ،  
باب مناقب المهاجرین وفضلهم، ص ۲۶۳، ۳۶۵، ۳۶۵۲، نمبر ۶۱۳)  
ترجمہ۔ حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عاذب سے ایک اونٹ خریدا۔۔۔ یہ میں تلاش کرنے والے ہیں جو  
ہمارے قریب آگئے ہیں یا رسول اللہ تو حضورؐ نے فرمایا، ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے  
حضرت ابو بکرؓ کتنے مدبر اور حضورؐ کے قابل اعتماد تھے کہ ہجرت جیسے خطناک سفر کے لئے حضرت ابو  
بکر گلوچنا، اور انہوں نے بڑی حکمت عملی سے اس کو انجام دیا، اور مدینہ تک حضورؐ پہنچایا۔

۶۔ وَ لَا يَأْتِي لِأُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةُ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَ الْمُسَاكِينُ وَ  
الْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لَيَعْفُوا وَ لَيُصْفَحُوا الْاَتْحَبُونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ  
رَّحِيمٌ۔ (آیت ۲۲، سورت النور)

ترجمہ۔ اور تم میں سے جو لوگ اہل خیر ہیں، اور مالی وسعت رکھتے ہیں وہ ایسی قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ  
داروں مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے، اور انہیں چاہئے کہ  
معافی اور درگزر سے کام لیں، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہاری خطا کیں بخش دے، اور اللہ بہت  
بچنے والا، بڑا مہربان ہے۔

حضرت مسٹح بن اثاثہؓ حضرت ابو بکر کے رشتہ دار تھے، حضرت ابو بکر حضرت مسٹح کی مالی مدد کرتے تھے، یہ  
بھی حضرت عائشۃؓ کی تہمت میں بھول سے شریک ہو گئے، اس لئے حضرت ابو بکر نے قسم کھائی کہ اس  
کی مدد نہیں کروں گا، اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی، اس کے بعد حضرت ابو بکرؓ نے مسٹح کی مدد بحال کر دی  
تھی

حضرت ابو بکرؓ کی کتنی بڑی شان ہے کہ انکی شان میں یہ آیتیں نازل ہوئیں

30- عن ابن عباس <sup>رض</sup> عن النبي ﷺ قال لو كنت متخدًا خليلاً لاتخذت ابا بكر و لكن اخي و صاحبى - (بخارى شريف، باب قول النبي ﷺ لو كنت متخدًا خليلاً، ح ۲۱۳، نمبر ۳۶۵۶)

ترجمہ۔ حضورؐ سے روایت ہے کہ اگر میں خلیل بناتا تو ابو بکر خلیل بناتا لیکن یہ میرے بھائی ہیں، میرے ساتھ رہنے والے ہیں [اور خلیل صرف اللہ ہے]

31- عن حذيفة قال قال رسول الله ﷺ اقتدوا بالذين من بعدى ابى بكر و عمر - (ترمذی شریف، کتاب المناقب، باب اقتدا بالذین من بعدى ابی بکر و عمر، ح ۸۳۲، نمبر ۳۶۶۲)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا، میرے بعد ابو بکر، اور عمر کی اقتداء کرو

32- عن محمد بن الحنفية قال قلت لا بى [على] اى الناس خير بعد رسول الله ﷺ قال ابو بكر ، قلت ثم من ؟ قال ثم عمر و خشيت ان يقول : عثمان ، قلت ثم انت ؟ قال ما انا الا رجل من المسلمين - (بخاری شریف، فضائل اصحاب النبي ﷺ، باب تفضیل علیؑ، ح ۶۵۲، نمبر ۳۶۷۱ / ابو داود شریف، باب تفضیل علیؑ، ح ۶۴۹، نمبر ۳۶۲۶)

ترجمہ۔ محمد بن حنفیہ نے کہا کہ میں نے اپنے والد علیؑ سے پوچھا کہ حضورؐ کے بعد سب سے بہتر آدمی کون ہیں، تو حضرت علیؑ نے فرمایا، ابو بکر، میں نے پوچھا اس کے بعد کون ہیں؟ تو کہا عمر ہے، مجھے ڈر ہوا کہ اس کے بعد حضرت عثمان کا نام نہ لے لیں، اس لئے میں نے پوچھا کہ آپ کس نمبر پر ہیں؟ تو حضرت علیؑ نے فرمایا کہ میں تو عام مسلمان کا ایک آدمی ہوں۔

اس قول صحابی میں خود حضرت علیؑ نے حضرت ابو بکرؓ کی فضیلت کا اقرار کیا ہے، تو دوسرے حضرات انکی

فضیلت کا انکار کیوں کرتے ہیں۔

33- عن ابن عمر قال كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله ﷺ فنخیر أبا بكر ، ثم عمر ، ثم عثمان رضي الله عنهم . (بخاري شریف، فضل ابی بکر بعد النبی ﷺ، ص ۳۶۵۵، نمبر ۲۱۲)

ترجمہ۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کی حیات میں لوگوں میں سب سے بہتر ابو بکرؓ کو فرار دیتے تھے، پھر حضرت عمرؓ کو پھر حضرت عثمانؓ لو

34- عن ابن عمر قال كنا في زمان النبي ﷺ لا نعدل ببابي بكر احدا ، ثم عمر ، ثم عثمان ثم نترك اصحاب النبي ﷺ لا نفضل بينهم - (بخاري شریف، باب مناقب عثمان بن عفان ابی عمر القرشیؓ، ص ۳۶۹۸، نمبر ۲۲۲، ابو داود شریف، باب تفضیل، باب تفضیل، ص ۲۵۲، نمبر ۳۶۲۸ )

ترجمہ۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں، حضورؐ کے زمانے میں حضرت ابو بکرؓ کی طرح کسی اور قرار نہیں دیتے تھے، پھر حضرت عمرؓ کو، پھر حضرت عثمانؓ کو پھر حضورؐ کے صحابیوں میں سے کسی کو کسی پروفیسیٹ نہیں دیتے تھے

ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علیؓ افضل سمجھے جاتے تھے۔ اور امت نے اسی ترتیب سے ان حضرات کو خلیفہ بنایا۔ اس بارے میں کوئی غلطی نہیں کی اور نہ کسی کا حق دبایا۔

## حضرت ابوکبرؓ ان صحابہ میں سے افضل تھے

35۔ فحمد لله ابو بکر و اثنی علیہ ..... فقال عمر بل نبیعک انت سیدنا و خیرنا و احبا الی رسول الله ﷺ، فاخذ عمر بیدہ فبایعہ و بایعہ الناس۔ (بخاری شریف، کتاب فضائل الصحابة باب، ص ۲۱۶، نمبر ۳۶۶۸)

ترجمہ۔ حضرت ابوکبرؓ نے حمد و ثنا کی۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں، ہم میں سب سے اچھے ہیں، اور رسول اللہ ﷺ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، حضرت عمرؓ نے حضرت ابوکبر صدیقؓ کا ہاتھ پکڑا اور ان سے بیعت کی، اور لوگوں نے بھی ان سے بیعت کی۔

اس قول صحابی میں حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ حضرت ابوکبرؓ ہم میں سے سب سے بہتر بھی تھے، اور حضورؐ کے سب سے زیادہ قریب بھی تھے اسی لئے سب نے مل کر ان کو خلیفہ بنایا تھا

## حضرت ابو بکرؓ نے حضرت فاطمہؓ کی نماز جنازہ پڑھائی

اکثر روایت میں یہی ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے حضرت فاطمہؓ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی ہے، لیکن اس ضعیف روایت میں ہے کہ حضرت علیؓ نے حضرت ابو بکرؓ سے حضرت فاطمہؓ کی نماز جنازہ پڑھوائی حضرت ابو بکرؓ کے لئے یہ کیا کم فضیلت ہے کہ حضرت علیؓ نے حضرت ابو بکرؓ سے حضرت فاطمہؓ کی نماز پڑھوایا۔ اس کے لئے عبارت یہ ہے

36- عن الشعبي ان فاطمةً لما ماتت دفتها على ليلٍ و اخذ بضعى ابى بكر الصديق فقدمه يعنى فى الصلاة عليها - (بیہقی، کتاب الجنازہ، باب من قال الاولى احت بالصلاۃ على لمیت من الاولی، ج ۲، ص ۳۶، نبر ۲۸۹۶)

ترجمہ۔ حضرت شعیؓ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہؓ کا انتقال ہوا تو حضرت علیؓ نے ان کورات کے وقت دفن کیا۔ اور حضرت ابو بکرؓ کے باہوں کو پکڑ کر آگے بڑھایا، یعنی حضرت فاطمہؓ پر نماز جنازہ پڑھائیں

## حضرت ابو بکرؓ، اور حضرت عمرؓ حضورؐ کے خسر ہیں

یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ حضورؐ کے خسر ہیں، ان دونوں نے اپنی اپنی بیٹیاں حضورؐ کو دی ہیں، اس لئے انکو بر ابھانیں کہنا چاہئے، یہ کون برداشت کرے گا کہ کوئی ان کے خسر کو بر ابھلا کہے

ان دونوں حضرات کی حکمت عملی سے مسلمانوں میں انتشار نہیں ہوا، اگر ان دونوں کا رعب، دبدبہ، اور حکمت عملی نہ ہوتی تو جو انتشار اور اختلاف حضرت علیؓ کے آخری زمانے میں ہوا، وہی انتشار اور اختلاف حضرت ابو بکرؓ کے زمانے میں ہو جاتا۔ اس وقت کے حالات پر غور کر کے فیصلہ کریں

## امیر المؤمنین حضرت عمرؓ کے فضائل

37- عن ابی هریرۃ قال قال النبی ﷺ لَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُم مِّنَ الْأَمْمَ مَحْدُثُونَ فَإِنَّمَا يَعْلَمُ فِي أَمْتَى اَحَدٍ فَإِنَّهُ عُمَرٌ

عن ابی هریرۃ قال قال النبی ﷺ لَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُم مِّنَ الْأَمْمَ مَحْدُثُونَ فَإِنَّمَا يَعْلَمُ فِي أَمْتَى اَحَدٍ فَإِنَّهُ عُمَرٌ (بخاری شریف، کتاب فضائل اصحاب النبی ﷺ، باب مناقب عمر بن الخطاب، ص ۲۲۰، نمبر ۳۶۸۹)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ: تم سے پہلے امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا تو وہ عمر ہوتے

ابو ہریرۃ نے فرمایا کہ حضورؐ نے فرمایا تم سے پہلے بھی اسرائیل میں کچھ لوگ ہوتے تھے جو نبی تو نہیں ہوتے، لیکن فرشتہ ان سے بات کرتے تھے، اگر امت میں یہ ہوتے تو حضرت عمرؓ ہوتے اس حدیث میں ہے کہ حضرت عمرؓ میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ محدث بنتے، لیکن اس امت میں محدث کا درجہ نہیں ہے اس لئے وہ محدث نہیں بن سکے، باقی فضیلیتیں، حضرت ابوکبرؓ کے عنوان میں گزر پچھی ہیں

## حضرت عمرؓ حضرت علیؑ کے داماد ہیں

ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت علیؑ، اور حضرت فاطمہؓ کی بیٹی حضرت ام کلثومؓ سے رکھے ہیں نکاح کیا، اور حضرت علیؑ کے داماد بنے، اس لئے ان کو برا بھلا کرنے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ حضرت علیؑ نے انکو اپناداماد بنایا ہے۔

اس کے لئے احادیث یہ ہیں

38- ان عمر بن الخطاب قسم مروطاً بين نساء من نساء المدينة فبقي مرط جيد  
فقال له بعض من عنده يا أمير المؤمنين اعط هذا ابنة رسول الله التي عندك يربى  
ام کلثوم بنت علیٰ فقال عمر ام سليط احق۔ (بخاری شرف، کتاب الجہاد والسریر، باب حمل  
النساء القرب الى الناس في الغزو، ص ۲۷۶، نمبر ۲۸۸۱)

ترجمہ۔ حضرت عمرؓ نے مدینہ کی عورتوں میں چادر تقسیم کی، ایک اچھی چادر باقی رہ گئی، تو جوان کے پاس تھے ان میں سے کسی نے کہا، امیر المؤمنین یہ چادر رسول کی اس بیٹی کو دیجئے جو آپ کے پاس ہے، یعنی ام کلثوم بنت علیؓ کو دیجئے، تو حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ ام سليط اس کا زیادہ حقدار ہے۔  
اس حدیث میں ہے کہ ام کلثوم حضرت عمرؓ کی بیوی تھیں۔

39- سمعت نافعا ... و وضععت جنازة ام کلثوم بنت علی امرأة عمر بن الخطاب و  
ابن لها يقال له زيد و ضعاع جميعا و الاما م يومئذ سعيد بن بن العاص - (نسائی شریف،  
کتاب الجنائز، باب اجتماع جنائز الرجال والنساء، ص ۲۷۸، نمبر ۱۹۸۰)

ترجمہ۔ نافعؑ سے سنا ہے کہ۔۔۔ ام کلثوم بنت علیؓ جو حضرت عمرؓ کی بیوی تھیں ان کا جنازہ، اور ان کے بیٹے زید کا جنازہ ایک ساتھ رکھا گیا، اور ان دونوں کی امامت سعید بن عاصؓ نے کی اس قول صحابی میں ہے کہ ام کلثوم بن علیؓ، حضرت عمرؓ کی بیوی تھیں، ان کی شادی سن ہجری ۷۴ھ میں حضرت عمرؓ سے ہوئی تھی۔

جب حضرت علیؓ نے حضرت عمرؓ کو داماد بنایا، اور اتنی محبت کی تواب ہم لوگوں کو چیخنے کی ضرورت کیا ہے، اور کیوں اس کی وجہ سے ہم اپنے میں لڑائی کریں، اور مسلمانوں کے دمکڑے کریں۔  
یہ بہت سمجھنے کی چیز ہے

## امیر المؤمنین حضرت عثمانؓ کے فضائل

40- ان عائشہ قالت کان رسول اللہ مضطجعاً فی بیتی کاشفاً عن فخذہ... ثم دخل عثمان فجلست و سویت ثیابک، فقال الا استحیی من رجل تستحیی منه الملائكة۔ (مسلم شریف، کتاب فضائل الصحابة، ص ۱۰۵۶، نمبر ۲۲۰۹/۲۲۰۹)

ترجمہ۔ حضرت عائشۃؓ فرماتی ہیں کہ حضورؐ میرے گھر میں پنڈلی کھولے لیٹے ہوئے تھے۔ پھر حضرت عثمان آئے تو آپؐ بیٹھ گئے اور کپڑاٹھیک کر لیا، تو حضورؐ نے فرمایا کہ جن سے فرشتے شرم کرتے ہوں تو کیا میں ان سے شرم نہ کروں؟

41- عن ابی هریرۃ ان رسول اللہ ﷺ قال: لکل نبی رفیق فی الجنة و رفیقی فیها عثمان۔ (ابن ماجہ شریف، کتاب المقدمة، باب فضل عثمان، ص ۱۷، نمبر ۱۰۹)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ، جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا، اور میرے رفیق عثمانؓ ہوں گے

42- عن ابی هریرۃ ان النبی ﷺ لقی عثمان عند باب المسجد فقال يا عثمان هذا جبریل اخربنی ان الله قد زوجك ام کلثوم بمثل صداق رقیة ، علی مثل صحبتها - (ابن ماجہ شریف، کتاب المقدمة، باب فضل عثمان، ص ۱۸، نمبر ۱۱۰)

ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ، مسجد کے دروازے کے پاس حضورؐ کی ملاقات حضرت عثمان سے ہوئی، تو آپؐ نے فرمایا، اے عثمان یہ جبریلؐ ہیں جو مجھے یہ خبر دے رہے ہیں کہ رقیہ کا جتنا مہر تھا اسی کے بد لے میں تمہارا نکاح ام کلثوم سے کر لیا، اور جس طرح آپؐ نے ان کی خدمت کی تھی، اسی انداز کی خدمت میں نکاح کر لیا۔۔

## حضرت عثمانؐ حضور کے اتنے پیارے تھے کہ حضرتؐ نے دوسری بیٹی بھی انکے نکاح میں دیا

43- عن ابی هریرہ قال وقف رسول اللہ ﷺ علی قبر ابنته الشانیۃ الکوئی کانت عند عثمان فقال الا ابا ایم ، الا اخا ایم تزوجها عثمان ، فلو کن عشراً لزوجتهن عثمان و ما زوجتها الا بوحی من السماء ، و ان رسول اللہ ﷺ لقی عثمان عند باب المسجد فقال يا عثمان هذا جبریل يخبرنی ان الله عز وجل قد زوجك ام كلثوم علی مثل صداق رقیة و علی مثل صحبتها - (طبرانی کبیر، مسند ام كلثوم بنت رسول اللہ، ح ۲۳۶، نمبر ۱۰۶۳)

ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ، حضورؐ اپنی دوسری بیٹیؐ کی قبر پر کھڑے تھے جو حضرت عثمانؐ کے نکاح میں تھی، تو آپؐ نے فرمایا، اے بیوہ کے باپ، اے بیوہ کے بھائی تم سنو، میں نے عثمان سے اس کی شادی کرائی تھی، اگر میرے پاس دس بیٹیاں بھی ہوتیں، تو میں ان سب کی عثمان سے نکاح کراتا، میں نے ان کا نکاح آسمان کی وجہ سے کرایا ہے، اور یہ بات بھی ہے کہ، مسجد کے دروازے پر حضورؐ سے حضرت عثمان کی ملاقات ہوئی تو آپؐ نے فرمایا، اے عثمان یہ جبریل ہیں، یہ خبر دے رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارا نکاح ام كلثوم سے کرایا، رقیہ کا جتنا مہر تھا اسی کے بدالے میں، اور جس طرح آپؐ نے ان کی خدمت کی تھی، اسی انداز کی خدمت میں۔

اس حدیث میں تین باتیں ہیں

[۱] حضرت ام كلثوم کا نکاح اللہ نے کرایا تھا

[۲] حضرت عثمانؓ کتنے اچھے تھے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ میرے پاس اگر دس بیٹیاں ہوتیں تو میں کیکے بعد دیگرے دسوں کا نکاح حضرت عثمانؓ سے کراؤتا

[۳] اور تیسری بات یہ ہے کہ حضرت عثمانؓ نے حضرت رقیہ بنت رسولؐ کی خدمت کتنی کی ہو گئی کہ، حضورؐ نے فرمایا کہ جس انداز میں آپؐ نے حضرت رقیہؓ کی خدمت کی ہے اسی انداز میں حضرت ام کلنثومؓ کی بھی خدمت کرنے کی امید میں اس کا نکاح تم سے کراہا ہوں اس کا ذکر میں اس لئے بھی کہ رہا ہوں کہ بعض حضرات نے یہ اذام لگایا ہے کہ حضرت عثمانؓ نے حضورؐ کی دونوں بیٹیوں کو ستایا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اگر ایسا ہوتا تو حضورؐ دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمانؓ سے کیوں کراتے، اور یوں کیوں فرماتے کہ اگر میرے پاس دس بیٹیاں ہوتیں تو کیکے بعد دیگرے دسوں کا نکاح حضرت عثمانؓ سے کراؤتا۔ یہ سب صحابہ پر بلا وجہ اذام ہے۔ ہمیں اس سے پچنا چاہئے۔

## حضورؐ کے تمام رشتہ داروں سے محبت کرنے کی تاکید کی ہے

آپؐ کے جو رشتہ دار ایمان کے ساتھ انتقال فرمائے ہیں اللہ نے ان سے دل سے محبت کرنے کی تاکید کی ہے، چونکہ آیت میں اس کی تاکید ہے اس لئے یہ جزو ایمان ہے، ان میں سے کسی ایک کو نکالنا، صحیح نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے

7۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نُزِّدُهُ فِيهَا حَسَنَةً۔ (آیت ۲۳، سورت الشوری ۲۲)

ترجمہ۔ اے پیغمبر کافروں سے کہہ دو، کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے رشتہ داری کے محبت کے، اور جو شخص کوئی بھلانی کرے گا ہم اس کی خاطر اس بھلانی میں مزید خوبی کا اضافہ کر دیں گے

پچھے حضرات نے کہا کہ اس سے صرف اہل بیت والے رشتہ دار مراد ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قربی کا لفظ عام ہے اس لئے حضورؐ کے تمام رشتہ دار مراد ہیں جو ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں

خاص طور پر یہ حضرات بہت قریب کے رشتہ دار ہیں ان سے دل سے محبت کریں

حضورؐ کی تمام بیویوں۔ خدیجۃ، عائشۃ، حفصہؓ، غیرہ، سے محبت کریں، اس لئے کہ وہ آپ کی بیویاں ہیں

حضورؐ کی تمام بیٹیوں۔ فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کاشمؓ سے محبت کریں، اس لئے کہ وہ آپ کی بیٹیاں ہیں  
 حضورؐ کے تمام بیٹوں۔ ابراہیم، عبد اللہ، قاسم، سے بھی محبت کریں، اس لئے کہ وہ آپ کے بیٹے ہیں  
 حضورؐ کے دونوں داماد۔ علیؓ، عثمانؓ سے محبت کریں۔ اس لئے کہ وہ آپ کے دماد ہیں  
 حضورؐ کے نواسے۔ حسن اور حسینؓ سے محبت کریں۔ اس لئے کہ وہ آپ کے نواسے ہیں  
 حضورؐ کے دونوں خسر۔ ابو بکر، عمرؓ سے محبت کریں۔ اس لئے کہ وہ آپ کے خسر ہیں  
 کیوں کہ یہ سب ذوی القربی [رشتہ دار] میں داخل ہیں۔

آیت پر غور کریں

یہ مطلب اس وقت ہے جب قربی میں حضور کے رشتہ داروں کو شامل کریں، جیسا کہ کچھ منفسرین نے کیا ہے۔ ورنہ دوسرا مطلب یہ ہے کہ حضورؐ سے یہ کہلوار ہے ہیں کہ آئے اہل مکہ تمہارے ساتھ میری رشتہ داری ہے، اس کی رعایت کرتے ہوئے تم مجھے نہ ستاؤ [بلکہ ہتر یہ ہے کہ تم مجھ پر ایمان لے آؤ]

اس عقیدے کے بارے میں 7 آیتیں اور 43 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

## میرے اساتذہ نے کتنا احترام سکھایا!

ناچیز کو آج بڑی خوشی ہے کہ میرے اساتذہ کرام نے یہ سکھایا کہ  
تمام نبیوں کا احترام کرو۔ اور دل سے محبت کرو۔  
تمام رسولوں کا احترام کرو۔ اور دل سے محبت کرو۔  
تمام صحابہ کا احترام کرو۔ اور دل سے محبت کرو۔  
تمام اماموں کا احترام کرو۔ اور دل سے محبت کرو۔  
تمام ولیوں کا احترام کرو۔ اور دل سے محبت کرو۔  
تمام آسمانی کتابوں کا احترام کرو۔ اور دل سے محبت کرو۔

بلکہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہندو مذہب کے مقتداء کو بھی برانہ کہوں، بہت ممکن ہے کہ وہ اپنے زمانے کے  
ولی اور بزرگ ہوں، اور بہت بعد میں لوگوں نے انکو کچھ اور بنادیا ہو..... واہرے احترام  
میں نے اپنے مادر علمی [دارالعلوم] میں کبھی بھی کسی مذہب والوں کے بارے میں نازیبا جملے استعمال  
کرتے نہیں سنائے۔

آج دنیا کی حالت دیکھتا ہوں تو اپنے اساتذہ کی اس نصیحت پر دل سے دعا نئیں نکلتی ہیں  
ناچیز شمیر الدین قاسی غفرلہ۔

## ۱۹۔ خلافت کا مسئلہ

اس عقیدے کے بارے میں 0 آیتیں اور 12 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

خلافت کا مسئلہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس میں امت کے دو طبقے الجھے ہوئے ہیں، اور اس وقت تو پورے عرب میں اتنے لڑر ہے ہیں کہ اس میں شام، عراق، یمن، لیبیا بر باد ہو چکے ہیں یہ مسئلہ صحابہ کے زمانے کا تھا، اس وقت نہ خلافت ہے اور نہ خلافت کا مسئلہ ہے، لیکن لوگ اسی زمانے کی بات کو پکڑتے ہوئے ہیں اور اس کو بلا وجہ ہوادے دے کر امتوں کے درمیان تفرقہ پیدا کر رے ہیں کاش کہ ان باتوں کو بھلا دیا جاتا اور سب مل کر اپنے اپنے ملکوں کو ترقی دیتے تو کتنا اچھا ہوتا، اس وقت پورا یورپ مل کر فیصلہ کر لیتے ہیں اور مسئلہ کو آسانی سے حل کر لیتے ہیں، لیکن مسلمان بیٹھ کر کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتے، بلکہ جب بھی بیٹھتے ہیں تو کوئی نیا جھگڑا پیدا کر کے اٹھتے ہیں

## خلافت کے بارے میں اسلام کا نظریہ

اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ ملکیت کی طرح کسی آدمی کو زبردستی تھوپ نہ دیا جائے، بلکہ جمہوریت باقی رہے اور مسلمان اتفاق رائے سے خود ہی اپنا خلیفہ منتخب کرے، البتہ مختلف موقع پر حضورؐ نے اشارہ کیا کہ حضرت ابو مکرمؓ امت کے لئے زیادہ بہتر ہیں، ان میں انتظامی صلاحیت بہت اچھی ہے۔

## خود حضرت علیؓ نے فرمایا کہ مجھے خلافت کی وصیت نہیں کی ہے

اس کے لئے احادیث یہ ہیں

۱- عن ابی جهیفة قال قلت لعلی هل عندکم کتاب؟ قال لا : الا کتاب الله او فهم  
اعطیه رجل مسلم او ما فی هذه الصحيفة قال قلت و ما فی هذه الصحيفة؟ قال  
العقل و فکاک الاسیر و لا يقتل مسلم بکافر۔ (بخاری شریف، باب کتابۃ العلم، ص ۲۲، نمبر  
(۱۱۱)

ترجمہ۔ ابو جہینہؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علیؓ سے پوچھا، کیا آپ کے پاس [رسول اللہ ﷺ کا]  
کوئی خط ہے، انہوں نے کہا نہیں! صرف میرے پاس قرآن ہے، یا ایک مسلمان کو جو سمجھداری دی جاتی  
ہے وہ ہے، یا جو اس صحیفے میں ہے، میں نے پھر پوچھا، اس صحیفے میں کیا ہے، فرمایادیت کے احکام،  
قیدیوں کو چھڑانے کے احکام، اور یہ حکم کہ مسلمان کو کافر کے بدے میں قتل نہیں کیا جائے گا

اس حدیث میں سائل نے باضابطہ پوچھا ہے کہ، کیا خلافت کے بارے میں آپ کے پاس کوئی تحریر ہے تو انہوں نے انکار فرمایا کہ میرے پاس کوئی تحریر نہیں ہے۔

2- عن عامر بن وائلة قال سأله رجل علیا هل كان رسول الله ﷺ يسر اليك بشيء دون الناس فغضب على حتى احمر وجهه وقال ما كان يسر الى شيئا دون الناس غير انه حدثني باربع كلمات وانا و هو في البيت فقال لعن الله من لعن والده و لعن الله من ذبح لغير الله و لعن الله من اوى محدثا و لعن الله من غير منار الأرض . (نسائی ریف، کتاب الصحاۃ، باب من ذنک لغير اللہ عزوجل، ص ۲۱۲، نمبر ۳۳۲)

ترجمہ۔ عامر بن وائلہ فرماتے ہیں کہ، ایک آدمی نے حضرت علیؑ کو پوچھا، کیا حضورؐ نے آپ کو چیکے سے کوئی بات کہی ہے، جو لوگوں کو نہ کہی ہو، تو حضرت علیؑ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، اور کہنے لگے کہ لوگوں کو چھوڑ کر مجھے چیکے سے صرف چار باتیں کہی ہیں، اس وقت میں اور حضورؐ گھر میں تھے، حضورؐ نے فرمایا کہ، جس نے اپنے والد پر لعنت کی اللہ اس پر لعنت کرے، جس نے اللہ کے علاوہ کے لئے ذنک کیا اللہ اس پر لعنت کرے، دین میں نئی چیز پیدا کرنے والے کو جس نے اس کو نپاہ دی، اللہ اس پر لعنت کرے، اور جس نے زمین کے نشان کو بدلت دیا، اللہ اس پر لعنت کرے

اس حدیث میں ہے میں خود سوال کرنے والے نے پوچھا کہ کیا آپ کو حضورؐ نے کوئی خاص بات بتائی ہے تو حضرت علیؑ نے فرمایا کہ یہ چار باتیں بتائی اور کچھ نہیں بتایا، جس کا مطلب یہ تھا کہ خلافت کی وصیت کے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا ہے

جب حضرت علیؑ نے خود سچتی سے فرمایا کہ میرے لئے خلافت کی وصیت نہیں کی ہے تو دوسرے لوگ کیوں شور مچاتے ہیں کہ حضرت علیؑ خلیفہ اول ہیں، اور حضورؐ نے ان کے لئے خلافت کی وصیت کی ہے

اس بات کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت ابو بکرؓ سے بیعت کے بعد کبھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا، اور حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد جب لوگوں نے حضرت علیؓ کو خلافت دینی چاہی تو انہوں نے صاف انکار کیا، اور بہت اصرار کے بعد اسکو قبول فرمایا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ غلیفہ بننا نہیں چاہتے تھے، صرف بادل خواستہ امت کے فائدے کے لئے بہت اصرار کے بعد اس کو قبول کیا۔ اس لئے یہ شور مچانا کہ حضرت علیؓ کے لئے خلافت کی وصیت کی تھی یہ ٹھیک نہیں ہے، اور خاص طور پر اس وقت چودہ سو سال گزر جانے کے بعد اس مسئلے کو لیکر مسلمانوں کو دو ٹکڑے کرنا تو اور بھی اچھا نہیں ہے۔  
اس پر غور فرمائیں

3- عن عائشہ قالت : ما ترك رسول الله ﷺ دينارا و لا درهما و لا شاة ولا بعيرا و لا او صى بشيء - (مسلم شریف، باب ترك الوصیة لمیں لشیء یوصی لہ، ص ۱۷، نمبر ۳۲۲۹/۱۲۳۵) ترجمہ۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا، حضور نے اپنی وراثت میں نہ دینار چھوڑا، نہ درہم چھوڑا، نہ بکری چھوڑی، نہ اونٹ چھوڑے، اور نہ کسی چیز کی وصیت کی

4- عن الاسود بن زيد قال ذكره عند عائشة ان عليا وصيا فقالت متى او صى اليه ؟ فقد كنت مسندة الى صدرى . او قالت حجرى . فدع بالطشت فلقد انحنث فى حجرى و ما شعرت انه مات فمتى او صى اليه ؟ (مسلم شریف، باب ترك الوصیة لمیں لہ شیء یوصی لہ، ص ۱۸، نمبر ۳۲۳۱/۱۲۳۶)

ترجمہ۔ حضرت عائشہؓ کے سامنے تذکرہ ہوا کہ حضرت علیؓ خلافت کے وصی ہیں، تو حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ یہ وصیت کب کی؟ حضورؐ تو میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، یا یوں فرمایا کہ میری گود

میں تھے،۔۔۔ پھر طشت منگوایا، پھر میری گود میں جھک گئے، مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا کہ آپ کا وصال ہو گیا، تو حضرت علیؓ کو وصیت کب کی!  
ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ حضورؐ نے خلافت کی وصیت نہیں کی ہے

حضرورؐ نے اشارہ کیا کہ میرے بعد ابو بکرؓ کو خلیفہ منتخب کر لیں تو بہتر ہے

حضرورؐ نے صراحت کے ساتھ خلیفہ بننے کے لئے کسی کا انتخاب نہیں فرمایا لیکن کئی حدیثوں میں اشارہ کیا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کو امت منتخب کر لے تو یہ بہتر ہے  
اس کے لئے احادیث یہ ہیں

5- عن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیه ان امرأة سالت رسول الله ﷺ شيئاً فامرها ان ترجع اليه فقالت يا رسول الله ارأيت ان جئت فلم اجدك؟ قال ابى: كانها تعنى الموت، قال فان لم تجدى فاتى ابا بكر (مسلم شریف، باب من فضائل ابی بکر، ص ۱۰۵، نمبر ۲۳۸۶/ ۶۱۷۹)

ترجمہ۔ ایک عورت نے حضورؐ سے کچھ پوچھا تو آپؐ نے فرمایا کہ واپس آؤ، پھر پوچھا یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہو تو کس کے پاس آؤں؟ میرے باپ نے اشارہ کیا کہ، عورت یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ کے وصال کے بعد کس کے پاس آؤں؟ حضورؐ نے فرمایا کہ اگر تم مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس آنا۔

6۔ عن عائشة قالت قال لى رسول الله ﷺ فی مرضه : ادعی لى ابا بکر اباک و اخاک حتی اکتب کتابا فانی اخاف ان یتمنی متنم و يقول قائل ، انا اولی ، و یأبی اللہ و المومنون الا ابا بکر۔ (مسلم شریف، باب من فضائل ابی بکر، ص ۱۰۵، نمبر ۲۳۸۷/ ۲۱۸۱)

ترجمہ۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضورؐ اپنے مرض میں مجھ سے یہ فرمایا کہ اپنے والد ابو بکر، اور اپنے بھائی کو میرے پاس بلاو، تاکہ میں کوئی تحریر لکھ دوں، مجھے اس کا ڈر ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے، یا کہنے والا کہے کہ میں زیادہ بہتر ہوں [یعنی خلافت کا میں زیادہ مستحق ہوں] لیکن اللہ اور مونین ابو بکر کو ہی پسند کریں گے۔

اس حدیث سے دو باتوں کا پتہ چلتا ہے [۱] ایک تو یہ کہ حضورؐ اپنے مرض میں جو خط لکھوانا چاہتے تھے وہ حضرت ابو بکر کی خلافت کے بارے میں لکھوانا چاہتے تھے، حضرت علیؑ کے بارے میں نہیں، اسی لئے تو حضرت ابو بکر، اور ان کے بیٹے کو بلانے کے لئے کہا، [۲] اور دوسرا بات یہ ہے کہ حضورؐ نے تمنا ظاہر کی کہ اللہ اور مونین حضرت ابو بکر کو ہی خلیفہ بنائیں گے، اور یہ تمنا پوری بھی ہوئی، تاہم کسی کے لئے خلیفہ بننے کی وصیت نہیں کی۔

7۔ عن ابی موسیٰ قال مرض النبی ﷺ فاشتد مرضه فقال مروا ابا بکر فليصل بالناس ، قالت عائشة : انه رجل رقيق اذا قام مقامك لم يستطع ان يصل بالناس قال مروا ابا بکر فليصل بالناس فعادت فقال مری ابا بکر فليصل بالناس فعادت فقال مری ابا بکر فليصل بالناس فانکن صواحب یوسف ، فاتاہ الرسول فصلی بالناس فی حیاة النبی۔ (بخاری شریف، باب اہل العلم و افضل احقر بالامامۃ، ص ۱۱۰، نمبر ۶۷۸)

ترجمہ۔ حضورؐ کی مرض نے شدت اختیار کی تو آپ نے فرمایا کہ، ابو بکرؓ کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، اس پر حضرت عائشہؓ نے کہا کہ وہ نرم دل آدمی ہیں، جب آپؐ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو وہ لوگوں کو نماز نہیں پڑھاسکیں گے، اس پر بھی حضورؐ نے فرمایا کہ ابو بکرؓ ہی کو نماز پڑھانے کے لئے کہو، حضرت عائشہؓ نے دوبارہ وہی عذر پیش کیا، حضورؐ نے پھر کہا کہ، ابو بکرؓ کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، حضرت عائشہؓ نے پھر ابو بکرؓ کا عذر پیش کیا، حضورؐ نے پھر کہا کہ، ابو بکرؓ کو نماز پڑھانے کے لئے کہو، تم لوگ حضرت یوسف عليه السلام کے ساتھ جو عورتیں سازشیں کر رہی تھیں، اس طرح کی ہو، حضرت ابو بکرؓ کے پاس رسول اللہؐ کا قاصد آیا، جس کی وجہ سے حضرت ابو بکرؓ نے حضورؐ کی زندگی میں لوگوں کی جماعت کرائی۔

اس حدیث میں حضور نے تین مرتبہ زور دیکر حضرت ابو بکرؓ کو نماز کی جماعت کروانے کے لئے فرمایا، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ میرے بعد بھی حضرت ابو بکرؓ نماز پڑھائیں، اور امیر منتخب ہوں۔ اور اسی قسم کی احادیث کی بنیاد پر صحابہ نے حضرت ابو بکرؓ کو خلیفہ منتخب کیا

## لوگ بوڑھوں کی بات مان لیتے ہیں

ایک بات اور بھی یاد رہے کہ لوگوں میں مختلف طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، اس لئے وہ لوگ حکم مانتے میں عمر دراز اور بوڑھے لوگوں کی بات مان لیتے ہیں، حضرت علیؓ علم کے پہاڑ تھے، اہل بیت میں سے تھے لیکن وہ جوان تھے، حضور کے وصال کے وقت ان کی عمر ۳۲ سال تھی، اس لئے دوسرے لوگ جلدی انکی بات نہیں مانتے، اور حضرت ابو بکرؓ کی عمر اس وقت ۶۱ سال تھی وہ بوڑھے تھے اس لئے لوگ ان کی بات مان لیتے، ان کو قوموں کا تجربہ بھی زیادہ تھا، اس لئے بھی لوگوں نے انکو منتخب کیا اس نکتہ پر بھی غور کریں

## اختلاف کے وقت خلفاء راشدین کی اتباع کریں

اس حدیث میں ہے کہ اختلاف کے وقت میں خلفاء راشدین کی اتباع کرنی چاہئے۔

8- عن عرباض بن ساریة . . . . ف قال قائل يا رسول الله ﷺ كان هذه موعدة مودع  
فماذا تعهد علينا؟ ف قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وان عبدا جبشا  
فانه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسننی وسنة الخلفاء  
الراشدين المهدیین تمسکوا بها وعضو عليها بالتواجذ۔ (ابوداؤ شریف، کتاب السنۃ،  
باب فی لزوم السنۃ، ص ۲۵۱، نمبر ۳۶۰ رترمذی شریف، نمبر ۲۶۸)

ترجمہ۔ کہنے والوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخری صحیح ہے، تو آپ ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور یہ بھی وصیت کرتا ہوں کہ امیر کی بات سنو، اور ان کی اطاعت کرو چاہے جب شی غلام ہی کیوں نہ ہو، پھر فرمایا کہ جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلاف دیکھے گا، اس وقت میری سنن اور حدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنن کو بہت مضبوطی سے پکڑنا۔

اس حدیث میں ہے کہ میرے بعد بہت اختلاف ہوں گے، ایسے موقع پر خلفاء راشدین کی سنن کو پکڑنا چاہئے۔ اس لئے ان حضرات کو گالی نہیں دینی چاہئے۔

## سب نے مل کر حضرت ابو بکرؓ کو خلیفہ منتخب کیا

9۔ حمد لله ابو بکر و اثنی علیہ ..... فقال عمر بل نبیعک انت سیدنا و خیرنا و احبا الی رسول الله ﷺ، فاخذ عمر بیدہ فبایعہ و بایعہ الناس۔ (بخاری شریف، کتاب فضائل الصحابة باب، ص، ۲۱۶، نمبر ۳۶۶۸)

ترجمہ۔ حضرت ابو بکرؓ نے حمد و شکر کی۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں، ہم میں سب سے اچھے ہیں، اور رسول اللہ ﷺ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکر صدیقؓ کا ہاتھ پکڑا اور ان سے بیعت کی، اور لوگوں نے بھی ان سے بیعت کی۔

اس حدیث میں ہے کہ تمام لوگوں نے خوشی سے حضرت ابو بکرؓ سے بیعت کی ہے، اس لئے ان کو سب نے مل کر خلیفہ بنایا تھا، اور وہ متفقہ امیر تھے۔

اس لئے یہ کہنا کہ حضرت ابو بکرؓ خلافت پر غاصب تھے، صحیح نہیں ہے اور اس قول صحابی میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکرؓ ان صحابہ میں سے سب سے زیادہ اچھے تھے، اور حضورؐ کے سب سے زیادہ قریب بھی تھے، اور بوڑھے ہونے کی وجہ سے ہر طرح کا تجربہ بھی تھا اس لئے ان کو خلیفہ بنانا ہر اعتبار سے بہتر تھا

## حضرت علیؑ نے حضرت ابو بکرؓ سے بیعت کی تھی

بعد میں حضرت علیؑ نے بھی حضرت ابو بکرؓ سے بیعت کر لی تھی، بخاری شریف میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے

10- عن عائشة ... استنكر علیؑ وجوه الناس فالتمس مصالحة ابی بکر و مبايعته و لم يكن يبایع تلك الاشهر ... فقال علیؑ لابی بکرؓ موعدك العشية للبيعة فلما صلی ابو بکرؓ الظهر رقی المنبر فتشهد و ذکر شان علیؑ و تخلفه عن البيعة و عذرہ بالذى اعتذر اليه ثم استغفر، و تشهد علیؑ فعظم حق ابی بکرؓ و حدث انه لم يحمله على الذى صنع نفاسة علی ابی بکرؓ و لا انكارا للذى فضله الله به و لكن نرى لنا في هذ الامر نصيبا فاستبد علينا فوجدنا في انفسنا فسر بذالك المسلمين و قالوا اصبت ، و كان المسلمين الى علیؑ قربا حين راجع الامر المعروف ( بخاری شریف، کتاب المغازی، باب غزوة خیبر، ص ۱۹، نمبر ۲۲۲۰)۔

ترجمہ - حضرت علیؑ گوایسا محسوس ہوا کہ لوگ میری طرف توجہ کم دے رہے ہیں، اس لئے حضرت ابو بکرؓ سے صلح کی اور ان سے بیعت کرنے کی درخواست کی، انہوں نے ان چھ مہینوں میں بیعت نہیں کی تھی --- حضرت علیؑ نے فرمایا بیعت کے لئے شام کا وقت ٹھیک ہے، جب حضرت ابو بکرؓ نے ظہر کی نماز پڑھی تو منبر پر بیٹھے، اور کلمہ شہادت پڑھا، اور حضرت علیؑ کی شان بیان کی، اور اب تک بیعت سے پچھے رہے اس کی وجہ بیان کی، اور حضرت علیؑ نے جو عذر پیش کی اس کا بھی ذکر کیا پھر استغفار کیا۔ اور حضرت

علیؑ نے کلمہ شہادت پڑھا، اور حضرت ابو بکرؓ کے حق کی عظمت بیان کی، اور یہ بھی کہا کہ میں نے جو کیا ہے وہ حضرت ابو بکرؓ پر فوقيت کی وجہ سے نہیں کی ہے، اور اللہ نے حضرت ابو بکرؓ کو فضیلت دی ہے مجھے اس کا انکار بھی نہیں ہے، لیکن میرا خیال تھا کہ اس معاملے [واراثت میں، یا خلافت میں] میرا بھی کچھ حصہ ہے، لیکن مجھے وہ نہیں ملا جس کی وجہ سے میرا دل اچھا ہوا] اور اب میں خوشی سے بیعت کے لئے آگیا ہوں]، اس سے مسلمان بہت خوش ہوئے، اور سب نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا کیا، اور جب حضرت علیؑ نے امر معروف کی طرف رجوع کیا تو لوگ حضرت علیؑ کے بہت قریب آگئے۔ اس حدیث میں دو باتیں ہیں [۱] ایک تو حضرت علیؑ نے بھی بعد میں حضرت ابو بکرؓ سے بیعت کی۔ [۲] حضرت علیؑ نے حضرت ابو بکرؓ کی فضیلت کا اقرار کیا۔ اور حضرت ابو بکرؓ نے بھی حضرت علیؑ کی فضیلت کا اقرار کیا، یہ تینی اچھی بات ہے دونوں بڑے حضرات نے آپس میں صلح کر لی۔ اس لئے اب ہم لوگوں کو بھی اسی صلح پر راضی ہو جانا چاہئے

کیونکہ اگر ہم اسی کو پکڑے رہیں گے تو ہم دو ٹکڑوں میں بٹ جائیں گے، اور دوسری تو میں ہمیں پیس کر رکھ دے گی جو اس وقت ہو رہا ہے۔ اور ہمیشہ کے لئے امت میں اختلاف باقی رہ جائے گا۔

## خلیفہ متعین ہونے کے بعد بلا وجہ ان سے اختلاف کرنا جائز نہیں ہے

خلافت کے لئے بیعت کرنے کے بعد بلا وجہ ان سے اختلاف کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے فتنہ ہو گا، اس کے لئے حدیث یہ ہے

11- عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة ..... و من بايع اماما فأعطاه صفة يده و ثمرة قلبه فليطعه ان استطاع فان جاء آخر ينazuه فاضربوا عنق الآخر - (مسلم شریف، کتاب الامارة، باب وجوب الوفاء بيعة الخليفة الاول فالاول، ص ۸۲۸، نمبر ۲۲۷/۱۸۲۳)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ جس نے امام سے بیعت کی اور اپنی ہاتھ دے دیا، اور اپنادل بھی دیا، تو جتنا ہو سکے اس کی اطاعت کرنی چاہئے، اور اگر کوئی دوسرا آدمی خلافت لینے کے لئے جھکڑا کرنے لگے تو دوسرے کی گردان مار دو

اس حدیث میں ہے کہ خلیفہ تھیں ہونے کے بعد ان کی پوری اطاعت کرنی چاہئے اس لئے اتنا مانہ گزرنے کے بعد بھی جو لوگ اختلاف کا معاملہ بار بار سامنے لاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، اس سے بلا وجہ مسلمانوں میں اختلاف ہوتا ہے، اور مسلمان دوکھنوں میں بٹ جاتا ہے، اور دوسری قوموں کے سامنے ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی

## پانچ خلیفوں کی خلافت کی مدت

حدیث میں یہ ہے کہ خلافت راشدہ کی مدت تیس 30 سال ہوگی اس کے لئے یہ حدیث ہے۔

12- عن سفینة قال قال رسول الله ﷺ خلافة النبوة ثلاثة سنون ثم يوتى الله الملك او ملكه من يشاء۔

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ خلافت نبوت تیس ۳۰ سال ہے پھر اللہ اپنامک جس کو دینا چاہے دے گا۔ قال سعید قال لی سفینة امسک علیک ابا بکر سنتین، و عمر عشراء، و عثمان اثنی عشراء، و علی کذالک، قال سعید قلت لسفینة، ان هؤلاء يزعمون ان عليا لم يكن خليفة قال كذبت استاہ بنی الزرقاء، يعني بنی مروان۔ (ابوداود شریف، کتاب السنۃ، باب فی الخلفاء، ص ۲۵۶، نمبر ۳۶۳۶)

ترجمہ۔ حضرت سعید فرماتے ہیں کہ پھر حضرت سفینہؓ نے اس کی تفصیل بتائی، کہ حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کے دو سال، حضرت عمر کے دس سال، حضرت عثمانؓ کے بارہ سال، اس طرح حضرت علیؓ کی بھی خلافت ہے، حضرت سعید نے حضرت سفینہؓ سے کہا کہ یہ مروانی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ، حضرت علیؓ خلیفہ نہیں تھے، تو حضرت سفینہؓ نے فرمایا کہ بنی زرقاء، یعنی بنی مروان جھوٹ بولتے ہیں اس حدیث میں ہے کہ خلافت نبوت 30 سال ہوگی۔

اس عقیدے کے بارے میں 0 آیتیں اور 12 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

حضرت ابوکبرؓ کی خلافت دو سال، تین ماہ، دس دن ہے  
۱۲ ربیع الاول ۱۴۰۰ھ، مطابق ۷ جون ۲۰۰۸ء سے  
۲۲ جمادی الآخری ۱۴۰۰ھ، مطابق ۲۳ اگست، ۲۰۰۸ء تک

حضرت عمرؓ کی خلافت دس سال، چھ ماہ، چار دن، ہے  
۲۲ جمادی الآخری ۱۴۰۰ھ مطابق ۲۳ اگست، ۲۰۰۸ء سے  
۲۶ ذی الحجه ۱۴۰۰ھ، مطابق ۳ نومبر ۲۰۰۸ء تک

حضرت عثمانؓ کی خلافت اگیارہ سال، اگیارہ ماہ، ۲۲ دن، ہے  
۳ محرم ۱۴۰۰ھ، مطابق ۹ نومبر ۲۰۰۸ء سے  
۲۵ ذی الحجه ۱۴۰۰ھ، مطابق ۲۲ جون ۲۰۰۹ء تک

حضرت علیؑ کی خلافت چار سال آٹھ ماہ، ۲۵ دن ہے  
۲۶ ذی الحجه ۱۴۰۰ھ مطابق ۲۵ جون ۲۰۰۹ء سے  
۲۱ رمضان ۱۴۰۰ھ مطابق ۲۸ جنوری ۲۰۱۱ء تک

حضرت حسنؑ کی خلافت چھ ماہ، تین دن ہے  
۲۲ رمضان ۱۴۰۰ھ مطابق ۲۹ جنوری ۲۰۱۱ء سے  
تا ۲۵ ربیع الاول ۱۴۰۱ھ، مطابق ۲۹ جولائی ۲۰۱۱ء تک  
مجموعہ 30 تیس سال خلافت راشدہ کی مدت ہوئی۔۔۔۔۔ انتہیت سے یہ حوالہ لیا ہے

## ۲۰۔ ولی کس کو کہتے ہیں

اس عقیدے کے بارے میں 4 آیتیں اور 5 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، شریعت پر پورا پورا عمل کرتا ہو، اور متینی اور پر ہیزگار ہو، لوگوں کے ساتھ معاملات بہت اچھار کھلتا ہو، نماز کا پورا پابند ہو، روزہ رکھتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، اور حرام کام سے مکمل پچھتا ہو، اور خدا کا خوف ہلو، اس کو، ولی، کہتے ہیں  
 اور جو لوگ شریعت کے پابند نہیں ہوتے اور ولایت کا دیکھاوا کرتے ہیں وہ ولی نہیں مکار ہیں، آج کل تو بہت سے مادرزاد بنگے با اکو بھی ولی سمجھنے لگے ہیں۔، اس کو سمجھا کریں  
 اس حدیث میں اس کی تفصیل ہے

1- عن عبید بن عمر ... ان رسول الله ﷺ قال في حجة الوداع ، الا ان أولياء الله المصلون من يقيم الصلوات الخمس التي كتبت عليه و يصوم رمضان و يحتسب صومه يرى انه عليه حق و يعطى زكاة ماله يحتسبها و يجتنب الكبائر التي نهى الله عنها - (متدرک للحاکم، کتاب الایمان، ج اول، ص ۱۹، نمبر ۱۹، سنن یہقی، کتاب الجنائز، باب ماجاء فی استقبال القبلة بالموتى، ج ثالث، ص ۵۷۳، نمبر ۲۳)

ترجمہ۔ حضورؐ نے حجۃ الوداع میں فرمایا، ان لو! اللہ کے ولی وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، پانچوں نمازوں میں جو اس پر فرض ہے اس کو قائم کرتے ہیں، رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، وہ صرف اللہ کے لئے رکھتے ہیں، اور

یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنا اس پر اللہ کا حق ہے، اور صرف ثواب کے لئے اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ نے جس گناہ کبیرہ سے روکا ہے، اس سے بچتے ہیں اس حدیث میں ہے کہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو اور گناہ کبیرہ سے بچتا ہو تو وہ ولی ہے، اور جو یہ کام نہیں کرتا ہے، اور گناہ کبیرہ سے نہیں بچتا ہے وہ ہرگز ولی نہیں ہے

۱- الَّا أَنَّ أُولَيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ، الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَفَقَّهُونَ ، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلٌ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ (آیت ۲۲- ۲۳، سورت یوں ۱۰)

ترجمہ۔ یاد رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں۔ ان کو نہ کوئی خوف ہو گا، نہ وہ غمگین ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، اور تقویٰ اختیار کئے رہے، ان کے لئے خوشخبری ہے دنیوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔

اس آیت میں دو باتیں ہیں [۱] ایک تو یہ کہ ولی پر خوف اور غم نہیں ہو گا، [۲] اور دوسری بات یہ ہے کہ ولی وہ ہیں جو ایمان لائے اور زندگی بھر تقویٰ اختیار کرتے رہے، اس لئے جو مومن نہیں ہے، کافر ہے تو وہ ولی نہیں بن سکتا، اور جو تقویٰ اختیار نہیں کرتا، شریعت پر نہیں چلتا وہ بھی ولی نہیں بن سکتا ہے

۲- إِنَّ أَكْرَمَكُمْ إِنْدَ اللَّهِ أَتَقَأْكُمْ۔ (آیت ۱۳، سورت الحجرات ۲۹)

ترجمہ۔ درحقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متینی ہو۔

اس آیت میں ہے کہ جو زیادہ متینی ہو گا اللہ کے نزدیک وہی زیادہ باعزت ہے

## ولی کی علامت یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر خدا یاد آئے

جو شان و شوکت والا ہو، اور اس کو دیکھ کر دنیا یاد آئے وہ ولی نہیں ہے، وہ دنیادار ہے، اور جس کی سادگی، پر ہیزگاری، اور خوف خدا دیکھ کر آخوت یاد آنے لگے وہ اللہ کا ولی ہے  
اس کے لئے حدیث یہ ہے

2- عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال ابراهيم سئل رسول الله ﷺ من اولياء الله؟  
قال الذين اذا رأوا ذكر الله - (سنن نسائيٰ كبرىٰ، باب قول اللہ تعالیٰ، الا ان اولياء اللہ، ج ۱۰، ص ۱۲۳، نمبر ۱۱۱)

ترجمہ۔ حضورؐ سے لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے ولی کون ہیں، تو آپؐ نے فرمایا کہ جب اس کو دیکھو تو خدا یاد آنے لگے [تو سمجھو کہ وہ اللہ کا ولی ہے]

3- ان اسماء بنت يزيد أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول : الا ينبدأكم بختاركم ؟  
قالوا بلى يا رسول الله قال حيأكم الذين اذا رأوا ذكر الله عز و جل - (ابن ماجة  
شریف، کتاب الزہد، باب من لا يبعله، ص ۲۰۱، نمبر ۳۱۹)

ترجمہ۔ حضرت اسماء بنت يزيد نے کہا کہ، میں نے حضورؐ کو کہتے ہوئے سنا، میں تمہیں بتاؤں کتم میں سے اچھے لوگ کون ہیں؟ لوگوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ! آپؐ نے فرمایا، تم میں سے اچھے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو دیکھو تو خدا یاد آجائے  
ان احادیث میں ہے کہ جسے دیکھ کر خدا یاد آئے، وہ اچھے لوگ ہیں، اس لئے پیر ایسا اللہ والا ہو جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے۔

## جو شریعت کا پابند نہیں وہ ولی نہیں ہے

آج کل بہت سے لوگ ہیں جو ولی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ نماز کے پابند ہیں، نہ روزے کے پابند ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، بلکہ لوگوں کو دھوکہ دیکران سے پونڈ وصول کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو ولی نہیں سمجھنا چاہئے، اور اس کی جال سے بچنا چاہئے

## کوئی ولی کتنا ہی بلند ہو جائے وہ نبی اور صحابہ سے افضل نہیں ہو سکتا

بعد کے ولی کا درجہ صحابہ سے بھی کم ہے، کیونکہ، صحابہ نے ایمان کے ساتھ حضور کو دیکھا ہے اور انکی مدد کی ہے، اور ولی نے حضورؐ کو نہیں دیکھا ہے، اس لئے بعد کے ولی صحابہ سے افضل نہیں ہیں۔  
دوسری بات یہ ہے کہ حضور نے تمام صحابہ کی بہت فضیلت بیان کی ہے، جو ولیوں کے لئے نہیں ہے، اس لئے بعد کے ولی کتنے ہی آگے کیوں نہ بڑھ جائیں وہ صحابہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔

بعض لوگ بعد کے ولیوں کی اتنی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ ان کو صحابہ سے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں، یہ صحیح بات نہیں ہے

اس کے لئے حدیث یہ ہے

4- عن عبد الله بن مغفل المزنى قال قال رسول الله ﷺ اللہ اللہ فی اصحابی ، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضاً بعدی فمن احبهم فبحبی أحبهم و من ابغضهم فيبغضی ابغضهم ، و من آذاهم فقد آذانی و من آذانی فقد آذی اللہ

تبارک و تعالیٰ و من آذای الله فیوشک ان يأحذه۔ (مسند امام احمد، باب حدیث عبد اللہ بن مغفل المزنی، ج ۲، ص ۲۲، نمبر ۲۰۰۲۶)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ، میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد انکو طعن و تشنیع کا شانہ نہ بنائیں، جو ان سے محبت کریں گے وہ میری وجہ سے محبت کریں گے، اور جو ان سے بغض کریں گے وہ میری وجہ سے بغض کریں گے، جس نے انکو تکلیف دی اس نے گویا کہ مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی تو اس نے گویا کہ اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی تو ہو سکتا ہے اللہ اس کو اپنے پکڑ میں لے لے حضورؐ نے بڑے درد کے ساتھ اپنے صحابی کے بارے میں فرمایا کہ اکٹو طعن و تشنیع کا شانہ نہ بنایا جائے۔

5۔ سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي ﷺ يقول لا تمس النار مسلماً رأني او رأي من راني۔ (ترمذی شریف، باب ما جاء في فضل من رأى النبي ﷺ وصحبه، ص ۸۷۲، نمبر ۳۸۵۸)

ترجمہ۔ حضرت جابرؓ نے فرماتے ہیں، میں نے حضورؐ سے کہتے ہوئے سنائے ہے، جس نے مسلمان ہونے کی حالت میں مجھے دیکھا ہو، یا جس نے مجھے دیکھا ہو [یعنی میرے صحابی کو] اس کو دیکھا ہو تو اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔

ان احادیث میں صحابہ کی فضیلت ہے جو ایک ولی کے لئے نہیں ہے، اس لئے ادنیٰ صحابی بھی بعد کے تمام ولیوں سے افضل ہیں

## ولی سے خارق عادت بات ثابت ہو جائے تو اس کو کرامت کہتے ہیں

نبی سے کوئی خارق عادت بات ظاہر ہو تو اس کو مجزہ، کہتے ہیں، اور ولی سے کوئی خارق [عجیب] بات ظاہر ہو تو اس کو کرامت، کہتے ہیں، اور غیر مسلم سے کوئی خارق عادت چیز ثابت ہو جائے تو اس کو استدراج، کہتے ہیں

ولی سے بھی خارق عادت چیز [یعنی کرامت] ظاہر ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ بہت سارے لوگ کرامت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس لئے اس زمانے میں اس سے چونا رہنا چاہئے۔

کرامات کے لئے یہ آیت موجود ہے

۳۔ گُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا رَأَكَرِيَّا الْمِحْرَابِ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا۔ (آیت ۳۷، سورت آل عمران)

ترجمہ۔ جب بھی زکر یا حضرت مریمؑ کے پاس ان کی عبادت گاہ میں جاتے ان کے پاس کوئی رزق پاتے۔

اس آیت میں ہے کہ حضرت مریمؑ علیہ السلام جو نبی نہیں تھیں، ولیہ تھیں انکے پاس بے موسم کا پھل ہوا کرتا تھا جو ایک کرامت ہے۔

## جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا وہ ولی نہیں بن سکتا

اس وقت دنیا میں بہت سارے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، ان میں تو حیدر نہیں ہے، یا کفر میں مبتلاع ہیں یا شرک میں مبتلاع ہیں اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ولی ہوں، پہنچا ہوا آدمی ہوں، وہ تپیسا [مجاہدہ] بھی کرتے ہیں، وہ لوگوں کو تعویذ [جنتر، منتر] دیتے ہیں اور کبھی اللہ کے حکم سے اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، جس سے عوام سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اور عوام اس کے معتقد ہو جاتے ہیں لیکن یہ بات سمجھنا چاہئے کہ جب تک توحید نہ ہو، ایمان نہ ہو، اللہ کے تمام احکام پر عمل نہ کرتا ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، یہ اس کے لئے ڈھیل ہے، استدرج ہے، ان کے ہاتھ میں بھی بھی مرید نہیں ہونا چاہئے، اس سے پہنچا چاہئے، بہت ممکن ہے کہ اس کے قریب ہونے کی وجہ سے آپ کا ایمان ختم ہو جائے اس کے لئے آیت یہ ہے

۴۔ الَّا أَنَّ أُولَيَاءَ اللَّهِ لَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ، الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ،  
لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلٌ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَالِكَ هُوَ الْفُرْزُ  
الْعَظِيمُ۔ (آیت ۲۲-۲۳، سورت یونس ۱۰)

ترجمہ۔ یاد رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں۔ ان کو نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، اور تقویٰ اختیار کئے رہے، ان کے لئے خوشخبری ہے دنیوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔

اس آیت میں سب سے پہلی شرط ہے کہ وہ ایمان رکھتا ہو، اور دوسرا شرط ہے کہ تقویٰ اختیار کرتا ہو تب ولی ہوگا، اس کے بغیر ولی نہیں بن سکتا۔ اس کا خیال رکھیں

اس عقیدے کے بارے میں 4 آیتیں اور 5 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

## ۲۱۔ فرشتوں کا بیان

اس عقیدے کے بارے میں 9 آیتیں اور 3 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

ایمان کے باب میں آئے گا کہ چھ باتوں پر ایمان رکھنے سے آدمی مومن بتتا ہے، اور ان میں سے ایک بات فرشتوں پر ایمان رکھنا ہے، اس لئے فرشتوں کی تفصیل ذکر کی جا رہی ہے  
عقیدۃ الطحاویۃ میں عبارت یہ ہے۔

وَالْإِيمَانُ، هُوَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَكُتُبِهِ، وَرَسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَالْقَدْرِ  
خَيْرٍ وَشَرٍ، وَحَلْوَةٍ وَمَرَّةٍ، (عقیدۃ الطحاویۃ، عقیدہ نمبر ۲۶، ص ۱۵)

ترجمہ۔ اور ایمان، یہ ہے کہ اللہ پر، اس کے فرشتے پر، اسکی کتابوں پر، اسکے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور لقدر پر ایمان ہو

اس عبارت میں ہے کہ چھ چیزوں پر ایمان لانے سے آدمی مومن بتتا ہے، ان میں سے ایک فرشتوں پر ایمان لانا بھی ہے

باتی تفصیل ایمان کی بحث میں دیکھیں

## فرشته کی پیدائش نور سے ہے

فرشته اللہ کی معصوم مخلوق ہیں جن کی پیدائش نور سے ہے  
اس کی دلیل یہ حدیث ہے۔

1- عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ خلقت الملائكة من نور ، و خلق الجنان من مارج من نار ، و خلق آدم مما وصف لكم۔ (مسلم شریف، باب فی احادیث متفرقۃ، باب انزہد، ص ۱۲۹۵، نمبر ۲۹۹۶)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرشته نور سے پیدا کئے گئے ہیں، اور جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا گیا ہے، اور حضرت آدمؑ کو اس چیز سے پیدا کیا جو تمہارے سامنے بیان کیا گیا ہے۔  
اس حدیث میں ہے کہ فرشته نور سے پیدا کئے گئے ہیں، اور جنات آگ سے پیدا کئے گئے ہیں۔

## چار فرشتے بڑے ہیں ان کا تذکرہ ان آیتوں میں ہے

فرشتے بہت ہیں جن کی تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے، ان میں چار فرشتے بڑے ہیں

حضرت جبریل علیہ السلام،

حضرت میکائیل علیہ السلام،

حضرت اسرافیل علیہ السلام،

اور حضرت عزرائیل علیہ السلام

حضرت جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا تذکرہ یونچ کی آیت میں ہے

حضرت جبریل علیہ السلام سب سے بڑے فرشتے مانے جاتے ہیں، اور ان کا مہم پروگی لانا ہے

حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام بارش برسانا ہے

یہ کام اللہ کے حکم سے انجام دیتے ہیں، اس لئے بارش برسانے کے لئے حضرت میکائیل " سے مانگنا

جائے نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی سے بارش مانگی جائے گی، کچھ غیر مسلم بارش کے لئے دیوی کی پوجا

کرتے ہیں، وہ یہ مانتے ہیں کہ بارش برسانا دیوی کے اختیار میں ہے، اس لئے وہ اس کے لئے دیوی،

اور دیوتا کو پکارتے ہیں، یہ اسلام میں حرام ہے

اس کے لئے آیتیں یہ ہیں

۱۔ وَ مِنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ رَسُلِهِ وَ جِبْرِيلَ وَ مِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوًّا لِلْكَافِرِينَ  
۔ (آیت ۹۸، سورت البقرۃ ۲)

ترجمہ۔ اگر کوئی شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اور رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے تو وہ سن رکھے کہ اللہ کا فروں کا دشمن ہے

۲۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۔ (آیت ۷۶، سورت البقرۃ ۲)

ترجمہ۔ اے پیغمبر کہہ دیں کہ اگر کوئی شخص جبریل کا دشمن ہے تو ہوا کرے انہوں نے تو یہ کلام اللہ کی اجازت سے آپ کے دل پر اتارا ہے  
ان دونوں آیتوں میں جبریل اور میکائیل علیہ السلام کا ذکر ہے

## حضرت عزرا یلٰ [ملک الموت] کا تذکرہ

حضرت عزرا یلٰ علیہ السلام کا کام لوگوں کو موت دینا ہے، یہ کام بھی وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں،  
موت اور حیات دینا صرف اللہ کا کام ہے، البتہ اللہ کے حکم سے وہ اس کام کو انجام دیتے ہیں، اس لئے زندہ رکھنے کے لئے صرف اللہ سے دعائیں جاسکتی ہے، فرشتے سے نہیں  
، اس کے لئے آیت یہ ہے

۳۔ قُلْ يَتَوَفَّ أَكُمْ مَلَكُ الْمَوْتَ الَّذِي وُكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرَجَّعُونَ ۔ (آیت ۱۱،  
سورت السجدة ۳۲)

ترجمہ۔ کہہ دو کہ، تمہیں موت کا وہ فرشتہ پورا پورا اوصول کر لے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تمہیں واپس تمہارے پورا دگار کے پاس لے جایا جائے گا

۴۔ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَ هُمْ لَا يُفِرْطُونَ۔ (آیت ۲۱، سورت انعام) (۶)

ترجمہ۔ یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کے موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو پورا پورا اوصول کر لیتے ہیں، اور وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے اس آیت میں ہے کہ موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک سکنڈ بھی تاخیر نہیں کرتا، اس آیت میں ملک الموت کا ذکر ہے

## حضرت اسرافیل علیہ السلام کا تذکرہ

حضرت اسرافیل صور پھونکنے پر مامور کئے گئے ہیں، یہ قیامت کے روز صور پھوکیں گے اس کے لئے آیتیں یہ ہیں

۵۔ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَقَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ۔ (آیت ۸۷، سورت انمل) (۲۷)

ترجمہ۔ اور جس دن صور پھونکا جائے گا تو آسمان اور زمین کے سب رہنے والے گھبرا ٹھیکیں گے ۶۔ وَنُفْخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفْخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يُنْظَرُونَ۔ (آیت ۲۸، سورت الزمر) (۳۹)

ترجمہ۔ اور صور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں وہ سب بیہوش ہو جائیں گے، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے، پھر دوسری بار پھونکا جائے گا تو وہ سب لوگ پل بھر میں کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے

2- عن ابی سعید قال قال رسول الله ﷺ ان صاحبی الصور بایدیہما قرنان يلاحظان النظر متی یومران - (ابن ماجہ شریف، کتاب الزہد، باب ذکر البعث، ج ۲۲۳، نمبر ۳۲۷۳) -

ترجمہ۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ صور پھونکنے والے کے دونوں ہاتھوں میں دوسینگ ہیں، وہ ٹکٹکنی لگائے ہوئے ہیں کہ کب ان کو صور پھونکنے کا حکم دیا جاتا ہے [تاکہ وہ صور پھونکیں]۔  
ان آیات اور حدیث میں صور پھونکنے والا فرشتہ میکائیں کا ذکر ہے

## کراما کا تبیین کا تذکرہ

کراما کا تبیین، یہ دو فرشتے ہیں، ایک دائیں جانب اور دوسرے بائیں جانب، یہ دونوں ہمارے کئے ہوئے اعمال کو لکھتے ہیں، دائیں جانب والا فرشتہ نیک اعمال لکھتا ہے اور بائیں جانب والا ہمارے برے اعمال کو لکھتا ہے، اس کے لئے آیت یہ ہے

7- وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَاماً كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ (آیت ۱۰، سورت انقطار ۸۲)

ترجمہ۔ حالانکہ تم پر کچھ نگراں [فرشتہ] مقرر ہیں وہ معزز لکھنے والے ہیں، جو تمہارے سارے کاموں کو جانتے ہیں۔

اس آیت میں کراما کا تبیین فرشتے کا ذکر ہے

## منکر نکیر کا تذکرہ

یہ دو فرشتے ہیں، جب آدمی کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو یہ دونوں فرشتے آتے ہیں، اور میت سے تین سوالات کرتے ہیں۔

اس کے لئے حدیث یہ ہے

3۔ عن ابی هریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ اذا اقبر المیت . او قال احد کم . اناه ملکان اسودان ازرقان یقال لاحدهما المنکر و الآخر التکیر۔ (ترمذی ثریف، کتاب الجنائز، باب ماجاء فی عذاب القبر، ص ۲۵۸، نمبر ۱۰۷)

ترجمہ حضورؐ نے فرمایا کہ میت کو قبر میں لٹایا جاتا ہے، راوی نے یہ فرمایا کہ تم میں سے کسی ایک کو لٹایا جاتا ہے۔ تو کالے فرشتے آتے ہیں جنکی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، ان میں سے ایک کا نام منکر ہے، اور دوسرے کا نام نکیر ہے  
اس حدیث میں منکر نکیر فرشتے کا ذکر ہے

## فرشته اللہ کے فرمان کے تابع ہوتے ہیں

۸۔ بَلْ عِبَادُ مُكَرَّمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقُولِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ۔ (آیت ۲۶، سورت الانبیاء ۲۱)

ترجمہ۔ بلکہ فرشته تو اللہ کے بندے ہیں جنہیں عزت بخشی گئی ہے، وہ اس سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرتے، اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں

۹۔ وَ الْمَلَائِكَةُ وَ هُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ ۔ (آیت ۵۰، سورت الحلق ۱۶)

ترجمہ۔ اور سارے فرشته اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور وہ ذرا تکبر نہیں کرتے، وہ اپنے اس پروردگار سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہیں، اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ ان آئیوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ فرشته نافرمانی نہیں کرتے بلکہ صرف اللہ کے حکم پر چلتے ہیں یہی ان کی فطرت ہے۔

ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انسان فرشتوں سے افضل ہے، اور حضور ﷺ تو تمام فرشتوں سے، اور تمام نبیوں اور تمام رسولوں سے بھی افضل ہیں، اور اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ حضور ﷺ کا ہے اس کی تفصیل نور وبشر کے عنوان میں دیکھیں

اس عقیدے کے بارے میں ۹ آیتیں اور ۳ حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

## ۲۲۔ جن کا بیان

اس عقیدے کے بارے میں 8 آیتیں اور 2 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان سے پہلے اللہ نے جنات کو پیدا کیا تھا، لیکن مصلحت کی وجہ سے اللہ نے بعد میں انسان کو پیدا کیا، اور اس سے اس زمین کو آباد کیا

### جن کی پیدائش آگ سے ہے

اس کے لئے یہ آیت ہے

۱۔ وَ الْجَانُ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلٍ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ (آیت ۲۷، سورۃ الحجر ۱۵)

ترجمہ۔ اور جنات کو اس سے پہلے لوکی آگ سے پیدا کیا ہے تھا

۲۔ خُلِقَ الْجَانُ مِنْ مَارِيجٍ مِنْ نَارٍ۔ (آیت ۱۵، سورۃ الرحمٰن ۵۵)

ترجمہ۔ اور جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا ہے

اس آیت میں ہے کہ جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے

## انسان کی پیدائش مٹی سے ہے

انسان کی پیدائش مٹی سے ہے اس کی دلیل یہ آیت ہے۔

۳- هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا۔ (آیت ۲، سورۃ الانعام ۶)

ترجمہ۔ وہی ذات ہے جس نے تم کو گلی مٹی سے پیدا کیا، پھر [تمہاری زندگی کی] ایک وقت مقرر کر دی اس آیت میں ہے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔

۴- وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَرْوَاجًا۔ (آیت ۱۱، سورۃ فاطر ۳۵)

ترجمہ۔ اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا اس آیت میں بھی ہے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔

## بعض جن نیک ہوتے ہیں اور بعض بد کار ہوتے ہیں

جن میں بعض نیک بھی ہوتے ہیں، اور بعض بد بھی ہوتے ہیں، البتہ چونکہ اس کی پیدائش آگ سے ہے، اس لئے اچھے کم اور بڑے زیادہ ہوتے ہیں

جن میں سے کچھ جن نیک ہوتے ہیں اس کی دلیل یہ آیت ہے

۵- قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ أَسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَا سَمِعْنَا فُرْقَانًا عَجَبًا ، يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَأَمَنَّا بِهِ وَ لَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ (آیت ۱-۲، سورۃ الجن ۷)

ترجمہ۔ اے رسول کہہ دیں کہ میرے پاس وہی آئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن غور سے سننا، اور وہ اپنی قوم سے جا کر کہا کہ، ہم نے ایک عجیب قرآن سننا ہے، جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لئے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور اب اپنے پور دگار کے ساتھ کسی کو عبادت میں ہرگز

شریک نہیں مانیں گے

اس آیت میں ہے کہ کچھ جن ایمان لائے ۔

جنات اور انسان اللہ کی عبادت کے لئے پیدا کئے گئے ہیں

6۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ (آیت ۵۶، سورت الذاریات ۱۵)

ترجمہ۔ جنات اور انسان کو عبادت کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔

جنات انسان کو پریشان کرتا ہے

لیکن اتنا نہیں ہے جتنا آج کل کے زمانے میں اس میں غلو ہے

اس کے لئے احادیث یہ ہیں

1۔ عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال إن عفريتا من الجن تفلت على البارحة .

لقطع على الصلاة فامكنتني الله منه . (بخاري شریف، کتاب الصلاۃ، باب الاسیر او الغريم بربط

في المسجد، ص ۸۰، نمبر ۳۶۱ مسلم شریف، کتاب المساجد، باب جواز عن الشيطان في اثناء الصلاۃ، واتعوذ

منه، ص ۲۲۰، نمبر ۵۱ (۱۴۰۹/۵/۲۰)

ترجمہ۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ کل رات ایک شریر جن نے مجھ پر حملہ کیا تاکہ میری نماز خراب کر دے، لیکن

اللہ نے مجھ کو اس کو پکڑنے کی قدرت دی

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنات انسان کو پریشان کرتے ہیں

۲- عن ابی عثمان قال أتت امرأة عمر بن الخطاب ، قالت استهوت الجن زوجها فامرها ان تترbus اربع سنين - (دارقطني، کتاب النکاح، باب المهر، ج ۳ ص ۲۱، نمبر ۳۸۸۷/۳۸۰۳)

ترجمہ۔ ایک عورت عمر بن الخطاب کے پاس آئی جس کے شوہر کو جن اڑا لے گیا تھا، تو حضرت عمر نے اس عورت کو چار مہینے تک عدت گزارنے کا حکم دیا اس قول صحابی سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات انسان کو واڑا کر لیجا سکتے ہیں ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات انسان کو پریشان کرتے ہیں ۔

## جنات کے ٹھیکے داروں سے چوکنار ہیں

لیکن آج کل صورت حال یہ ہے کہ عام طور پر تعویذ والوں کو اور جنات نکالنے والوں کو کچھ علم نہیں ہوتا، وہ اپنے استاد سے تعویذ کم اور مکاری زیادہ سیکھا ہوتا ہے، اس لئے جس تعویذ والے کے پاس آپ جائیں وہ نقش کی بات کہتا ہے، مثلا کہے گا کہ تم کو قریب کے لوگوں نے جادو کیا ہے۔ تم پر جنات کا اثر ہے، یعنی جنات ہے بھی اور نہیں بھی ہے

اب اس کی تعویذ دی اور دو ماہ میں کچھ نہیں ہوا اور آپ دوبارہ اس کے پاس گئے، تو کہہ دیتا ہے کہ میں نے دو جنات کو تو نکال دیا تھا، اب اس کے خاندان کے پانچ جنات نے دوبارہ حملہ کر دیا ہے، اب اس کو نکالنے کے لئے اور دو ماہ لگیں گے، اور مزید پانچ ہزار روپیہ لگے گا، اس طرح وہ کئی ماہ تک روپیہ کھینچتا رہتا ہے، اور عوام پر پیشان رہتا ہے اور ہوتا کچھ نہیں ہے، یہ بھی دیکھا گیا ہے تعویذ والے اتنا دل میں جنات کا خوف ڈال دیتے ہیں، وہ جلدی نکلتا بھی نہیں ہے، اس لئے ایسے لوگوں سے بہت پچنا چاہئے

## شیطان کی پیدائش بھی آگ سے ہے

شیطان بھی جنات کے خاندان سے ہے اور اس کو بھی آگ سے پیدا کیا ہے، البتہ بہت عبادت کرنے کی وجہ سے وہ فرشتوں کے درمیان ہو گیا تھا، اور جب فرشتوں کو سجدہ کرنے کے لئے کہا تو شیطان نے بھی سمجھا تھا کہ مجھکو بھی سجدہ کرنے کے لئے کہا ہے، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا، اور دلیل یہ ہے کہ میں میری پیدائش آگ ہے، اور میرا درجہ انسان سے زیادہ ہے، اس لئے میں انسان کو سجدہ نہیں کروں گا اس کی دلیل یہ آیت ہے

7۔ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَا تَسْجُدَ إِذَا أَمْرُتَكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ۔ (آیت ۱۲، سورۃ الاعراف ۷)

ترجمہ۔ اللہ نے کہا، جب میں نے تجھے حکم دے دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ وہ بولا: میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اور اس کو [آدم] کوٹی سے پیدا کیا اس آیت میں ہے کہ شیطان کی پیدائش آگ سے ہے۔ بعد میں اس کو نہیشہ کے لئے دھنکار دیا گیا

## انسان شیطان اور اس کے قبیلے کو نہیں دیکھ سکتا

اس کے لئے آیت یہ ہے

8۔ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَ قَبِيلَهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ۔ (آیت ۲۷، سورۃ الاعراف ۷)

ترجمہ۔ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے اس آیت میں ہے کہ ہم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، اس لئے اس سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہئے اس عقیدے کے بارے میں 8 آیتیں اور 2 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

## ۲۳۔ حشر قائم کیا جائے گا

اس عقیدے کے بارے میں 16 آیتیں اور 2 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم مر گئے اس کے بعد بزرخ میں زندہ نہیں کیا جائے گا، اور نہ حساب کتاب ہو گا، بلکہ مرنے کے بعد تم مٹی ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ دہریہ کا اور ناستک کا یہی عقیدہ ہے اس پر اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد دو بارہ زندہ کیا جائے گا، اس کو میدان قیامت میں اپنے کئے کا حساب دینا ہو گا، اور پھر اس کے لئے یا جنت ہوگی، یا جہنم ہوگی حشر کا مطلب یہ ہے اللہ پاک قبر میں آدمی کو زندہ کر دیں گے، اور پھر اس کو میدان مختصر تک پہونچائیں گے، اور وہاں حساب ہو گا

ان آیتوں میں اس کا ثبوت ہے

۱- يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَ نَحْشَرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا۔ (آیت ۱۰۲، سورت ط۲۰)

ترجمہ۔ جس دن صور پھونکا جائے گا، اور اس دن ہم سارے مجرموں کو گھیر کر اس طرح جمع کر دیں گے کہ وہ نیلے پڑھے ہوں گے

۲- وَ يَوْمَ نَحْشَرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِاِيَّاتِنَا فَهُمْ يُوَزَّعُونَ۔ (آیت ۸۳، سورت انمل ۲۷)

ترجمہ۔ اور اس دن کو نہ بھولو جب ہم ہرامت میں سے ان لوگوں کی پوری فوج کو گھیر لائیں گے جو ہماری آئیوں کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی

3۔ يَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَ تَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَ حَشَرْنَا هُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ أَحَدًا وَ عَرِضْنَا عَلَى رِتَكَ صَفَّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَا كُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمُ الَّذِينَ نَجَعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا۔ (آیت ۲۸، سورت الکھف ۱۸)

ترجمہ۔ جس دن ہم پہاڑوں کو چلا کیں گے، اور تم زمین کو دیکھو گے کہ وہ کھلی پڑی ہے اور ہم ان سب کو گھیر کر اکٹھا کر دیں گے، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑ دیں گے، اور سب کو تمہارے رب کے سامنے صاف باند کر پیش کیا جائے گا، آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آگئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اس کے برکس تمہارا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تمہارے لئے یہ مقرر و وقت [محشر] کبھی نہیں لا سیں گے ان آیات سے معلوم ہوا کہ قیامت قائم ہوگی،

## مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا

مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ان کو میدان قیامت میں لیجایا جائے گا، اور ان سے حساب لیا جائے گا  
اس کے لئے آیتیں یہ ہیں

۴- ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبَعَثُونَ۔ (آیت ۱۶، سورت المؤمنون ۲۳)

ترجمہ۔ پھر قیامت کے دن تمہیں یقیناً زندہ کیا جائے گا

۵- وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمُوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ (آیت ۶، سورت الحج ۲۲)

ترجمہ۔ اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر رکھتا ہے

۶- وَهُوَ يُحْيِي الْمُوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ (آیت ۹، سورت الشوری ۲۲)

ترجمہ۔ اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے

۷- قَالَ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ فُلُّ يُحْيِيْهَا الدِّيْنُ أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيهِمْ۔ (آیت ۹، سورت آیت ۳۶)

ترجمہ۔ کہتا ہے ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، جبکہ وہ گل چکی ہوں گی، کہہ دو کہ: ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ پیدا کرنے کا ہر کام جانتا ہے

ان آیات میں ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا

## اللہ تعالیٰ میدانِ حشر کے مالک ہوں گے

6۔ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ۔ (آیت ۳، سورت الفاتحہ)

ترجمہ۔ جو بد لے کے دن کا مالک ہے [یعنی میدانِ محشر کا مالک ہے]

7۔ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔ (آیت ۱۶، سورت غافر ۳۰)

ترجمہ۔ کس کی بادشاہی ہے آج؟ [جو اب ایک ہی ہو گا کہ] صرف اللہ کی جو ایک ہے تھا رہے۔

ان آیتوں میں ہے کہ اللہِ محشر کے دن کا مالک ہیں، کوئی اور اس کا مالک نہیں ہو گا۔

## محشر میں ہر شخص کا حساب ہو گا

محشر میں پورا پورا حساب ہو گا، اور زندگی میں جتنا خیر اور شر کیا تھا سب کا نامہ اعمالِ آدمی کے سامنے پیش کیا جائے، اور سب کا حساب کیا جائے گا، جو حساب میں کامیاب ہو گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے، جونا کام ہو گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالیں گے اسلئے آدمی کو کبھی نہیں سوچنا چاہئے کہ میرا حساب نہیں ہو گا، اس بھول میں نہیں رہنا چاہئے

اس کے لئے آیتیں یہ ہیں

8۔ وَوَضَعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيَلْتَئِمَا مَا لِ هُذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَ لَا كَبِيرَةً إِلَّا أَخْصِلُهَا ، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَ لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ (آیت ۳۹، سورت الکھف ۱۸)

ترجمہ۔ اور اعمال کی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی، چنانچہ تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ اس میں لکھی ہوئی باقوں سے خوف زدہ ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ، بائے ہماری بر بادی! یہ کیسی کتاب ہے جس نے ہمارا کوئی چھوٹا بڑا عمل ایسا نہیں چھوڑا جس کا پورا احاطہ نہ کر لیا ہو، اور وہ اپنا سارا کیا دھرا اپنے سامنے موجود پائیں گے، اور تمہارب کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا

9- فَآمَّا مَنْ أُوتَىٰ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا - (آیت ۸، سورت الانشقاق ۸۲)

ترجمہ۔ پھر جس شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے تو آسان حساب لیا جائے گا۔

10- إِنَّمَا كَتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حِسِيرًا۔ (آیت ۱۲، سورت الاسراء ۱)

ترجمہ۔ کہا جائے گا کہ لوپڑھ لو اپنا نامہ اعمال، آج تم خود اپنا حساب لینے کے لئے کافی ہو۔

11- لِيُجزِي اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ أَنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابُ۔ (آیت ۱۵، سورت ابراہیم ۱۲)

ترجمہ۔ تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کے کئے کا بدل دے، یقیناً اللہ جلد حساب چکانے والا ہے

12- وَإِنْ تَبَدُّلُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ۔ (آیت ۲۸۲، سورت البقرة ۲)

ترجمہ۔ اور جو باقی تھا رے دلوں میں ہے خواہ تم ان کو ظاہر کرو یا چھپا، اللہ تم سے ان کا حساب لے گا ان تمام آئیوں میں یہ ہے کہ اللہ قیامت میں حساب لیں گے

## قیامت کے دن ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا

قیامت کے دن ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، جو نیک لوگ ہوں گے اور جنتی ہوں گے، ان کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور جو جہنمی ہوں گے ان کے باعیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا

اس کے لئے آیتیں یہ ہیں

۱۳۔ فَمَا مَنْ أُوتَىٰ كِتَابَهُ بِيَمِينَهُ فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَ يَقْلُبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وَ أَمَّا أُوتَىٰ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُوُا ثُبُورًا - (آیت ۱۲-۸، سورت الالشقاق) ۸۲

ترجمہ۔ جس شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس سے تو آسان حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوشی مانتا ہوا واپس آئے گا، لیکن وہ شخص جس کو اس کا نامہ اعمال اس کی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا، وہ موت کو پکارے گا

۱۴۔ فَمَا مَنْ أُوتَىٰ كِتَابَهُ بِيَمِينَهُ فَيَقُولُ هَاؤُمْ أُفْرَوْ وَ اكِتَابِيَهُ - (آیت ۱۹، سورت الحلقۃ) ۶۹

ترجمہ۔ پھر اس کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا: لو یہ میرا اعمال نامہ پڑھو

۱۵۔ وَ أَمَّا مَنْ أُوتَىٰ كِتَبَهُ بِشَمَائِلِهِ فَيَقُولُ يَلِيْتَنِي لَمْ أُوتِ كِتَبِيَهُ - (آیت ۲۵، سورت الحلقۃ) ۶۹

ترجمہ۔ رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے باعیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا: اے کاش مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا۔

ان آیتوں میں ہے کہ قیامت کے دن اعمال نامہ ہاتھ میں دیا جائے گا،

## پل صراط قائم کیا جائے گا

میدان قیامت میں پل صراط قائم کیا جائے گا، اور لوگوں کو اس پر سے گزرنا ہوگا، جو نیک ہوں گے وہ اس پر سے گزر جائیں گے، اور جنت میں پہنچ جائیں گے، اور جو بد ہوں گے وہ اس پر سے نہیں گزر پائیں گے وہ جہنم میں گرجائیں گے۔

اس کے لئے آیت اور احادیث یہ ہیں

16- وَإِنْ مِنْكُمْ وَارِذُهَا - (آیت ۱۷، سورت مریم) (۱۹)

اور تم میں سے کوئی نہیں ہے جس کا اس پل صراط پر گزرنا ہو

1- ان ابا هریرۃ اخبرہما ..... و يضرب الصراط بين ظهراني جهنم فاكون اول من يجوز من الرسل بامته - (بخاری شریف، کتاب الآذان، باب فضل السجود، ص ۱۳۰، نمبر ۸۰۶)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ جہنم کی پیٹھ پر پل صراط قائم کیا جائے گا، اور میں رسولوں میں سے سب سے پہلا ہوں گا، جو اپنی امت کو لے کر اس پر گزرنے گا

2- عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله ﷺ شعار المؤمنين على الصراط رب سلم سلم - (ترمذی شریف، کتاب صفة القيامة، باب ما جاء في شأن الصراط، ص ۵۵۲، نمبر ۲۲۳۲)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ پل صراط پر مومن کا شعار، رب سلم سلم، ہوگا

اس آیت اور دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ جہنم پر پل صراط قائم کیا جائے گا۔

اس عقیدے کے بارے میں 16 آیتیں اور 2 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

## ۲۳۔ میزان حق ہے

اس عقیدے کے بارے میں 12 آیتیں اور 2 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

قيامت کے دن اعمال تو لئے کے لئے میزان، يعني ترازو و قائم کیا جائے گا  
 اعمال تو لئے کا میزان کس طرح کا ہوگا اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے، اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن  
 قرآن اور حدیث سے یہ معلوم ہے کہ قیامت میں اعمال تو لئے کے لئے میزان اور ترازو ہوگا  
 پچھلے زمانے میں فلسفہ والوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اعمال کو جنم نہیں ہے تو کیسے تو لے جائیں گے،  
 لیکن اس زمانے میں بخار، اور دل کی ڈھرنوں کو ناپتے ہیں، اور باریک سے باریک چیز ناپ لیتے ہیں،  
 اس لئے اب یہ اعتراض نہیں رہا،

میزان میں اعمال تو لے جائیں گے، اس کی دلیل یہ آیتیں ہیں۔

۱۔ وَنَاصِعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تَظُلُّمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَ إِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَ كَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ (آیت، ۲۷، سورت الانبیاء ۲۱)  
 ترجمہ۔ اور ہم قیامت کے دن ایسی ترازو میں لا رکھیں گے جو سراپا انصاف ہوں گی، چنانچہ کسی پر کوئی ظلم  
 نہیں ہوگا

۲۔ وَ الْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقٌ فَمَنْ ثَقَلَتْ مَوَازِينَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينَهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا يَأْتِيُنَا يُظْلَمُونَ۔ (آیت ۸۔ ۹ سورۃ الاعراف)

ترجمہ۔ اور اس دن اعمال کا وزن ہونا اٹل حقیقت ہے، چنانچہ جن کی ترازو کے پلے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کی ترازو کے پلے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آئیوں کے ساتھ زیادتیاں کر کر کے خود اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈالا ہے ان آئیوں میں میزان، یعنی ترازو کا ذکر ہے

۱- عن عائشة انها ذكرت النار فبكت ..... فقال رسول الله ﷺ اما في ثلاثة مواطن فلا يذكر احداً أحداً عند الميزان حتى يعلم أي خف ميزانه او يشقـلـ (ابوداود شریف، باب فی ذکر المیزان، ص ۲۷۲، نمبر ۵۵۵)

ترجمہ۔ حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے جہنم کا تذکرہ کیا تو وہ رونے لگی۔ حضورؐ نے فرمایا کہ تین موقع پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، ایک ترازو کے وقت، یہاں تک کہ یہ جان لے کر، اس کا وزن ہلکا ہوا ہے یا بھاری۔

اس حدیث میں میزان کا اور وزن اعمال کا تذکرہ ہے۔

اس عقیدے کے بارے میں 2 آیتیں اور 1 حدیث ہے، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

## ۲۵۔ اللہ نے جنت کو پیدا کر دیا ہے

اس عقیدے کے بارے میں 14 آیتیں اور 3 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

پہلے کچھ اختلاف تھا کہ جنت اور جہنم کو ابھی پیدا کیا ہے یا نہیں اور کچھ لوگوں کا نظر یہ تھا کہ جنت اور جہنم کو ابھی پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ محشر کے بعد پیدا کریں گے کیونکہ ابھی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن آئیوں کو دیکھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا کر دیا ہے

جنت کو پیدا کر دینے کے لئے آیت یہ ہے

۱۔ وَ جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ أُعَدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ (آیت ۱۳۳، سورت آل عمران (۳))  
ترجمہ۔ اور جنت حاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھاؤ جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں تمام آسمان اور زمین سما جائیں، جو پرہیز گاروں کے لئے تیار کی گئی ہے

۲۔ أَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا۔ (آیت ۸۹، سورت التوبہ)

(۹)

ترجمہ۔ اللہ نے ان کے لئے وہ باغات تیار کر کھے ہیں جن کے نیچے نہریں ہوتی ہیں، جن میں یہ ہمیشہ رہیں گے

۳۔ أَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ - (آیت ۱۰۰، سورت التوبۃ ۹)

ترجمہ۔ اللہ نے ان کے لئے ایسے باغات تیار کر کے ہیں جن کے نیچے نہریں ہتی ہیں

اس حدیث میں بھی ہے

۱۔ عن ابی هریرۃؓ عن النبی ﷺ يقول اللہ تعالیٰ أَعَدَتْ لِعِبَادِ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنَ رَأَتْ وَلَا أَذْنَ سَمِعَتْ وَلَا خَطْرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ - (بخاری شریف، باب سورۃ السجدة، کتاب الشفیر، ص ۸۳۰، نمبر ۲۷۸۰)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نیک بندوں کے لئے ایسی چیز تیار کر کھی ہے، جو نہ کسی آنکھے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل پر یہ بات گزری ہے ان آئیوں اور حدیث میں اعدت ماضی کے صینے کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ جنت اور جہنم پیدا کر دی گئی ہے

## اللہ نے جہنم کو پیدا کر دیا ہے

اس کے لئے آیتیں یہ ہیں

4- فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَ قُوْدَهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ (آیت ۲۲، سورت البقرۃ ۲)

ترجمہ۔ ڈرواس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے وہ کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے  
5- وَ غِضَبَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَ سَاثَ مَصِيرًا۔ (آیت ۶، سورت الحجۃ ۲۸)  
ترجمہ۔ اور اللہ ان سے نار ارض ہیں، اس نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اور ان کے لئے جہنم تیار کر کھی ہے، اور وہ بہت ہی براٹھ کانا ہے۔

6- وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ۔ (آیت ۱۳۱، سورت آل عمران ۳)  
ترجمہ۔ اور اس آگ سے ڈروج کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے  
ان آئیوں سے پتہ چلا کہ جہنم بھی اللہ نے پیدا کر دی ہے۔

## جنت اور جہنم کو اللہ ہمیشہ باقی رکھیں گے

7۔ سَنْدِخْلُهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا (آیت ۷۵، سورت النساء) (۲۴)

ترجمہ۔ ان کو ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشور ہیں گے

8۔ سَنْدِخْلُهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًا (آیت ۱۲۲، سورت النساء) (۲۴)

ترجمہ۔ ان کو ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشور ہیں گے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے

9۔ قَيْلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا۔ (آیت ۲۷، سورت الزمر) (۳۹)

ترجمہ۔ کہا جائے گا کہ، جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشور کے لئے داخل ہو جاؤ۔

10۔ وَ مَنْ يَعْصِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ (آیت ۲۳، سورت الجن) (۲۷)

ترجمہ۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، تو اس کے لئے جہنم کی آگ ہے جس میں ایسے لوگ لوگ ہمیشہ ہمیشور ہیں گے

ان آئیوں سے معلوم ہوتا ہے جنت بھی ہمیشور ہے گی اور جہنم بھی ہمیشور ہے گی، اللہ پاک اس کو ختم نہیں کریں گے۔

## جنت عیش کی جگہ ہے

۱۱۔ أَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ (آیت ۸۹، سورت التوبۃ ۹)

ترجمہ۔ اللہ نے ان کے لئے وہ باغات تیار کر کر کے ہیں جن کے نیچے نہریں ہوتی ہیں، جن میں یہ ہمیشہ رہیں گے

۱۲۔ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيُومُ فِيْ شُغْلٍ فَكِهُوْنَ، هُمْ وَأَذْوَاجُهُمْ فِيْ ظَلَالٍ عَلَى الْأَرْضِ كِمْتَكُوْنُونَ، لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُوْنَ۔ (آیت ۵۷، سورت یس ۳۶)

ترجمہ۔ جنت والے لوگ اس دن مشغلوں میں مگن ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں آرام دہ نشتوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، وہاں ان کے میوے ہوں گے، اور انہیں ہر وہ چیز ملے گی جو وہ مانگوا کیں گے۔

## جہنم عذاب کی جگہ ہے

۱۲۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَ قُوْدَهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ أُعَدَّتُ لِلْكَافِرِيْنَ (آیت ۲۷، سورت البقرۃ ۲)

ترجمہ۔ ڈروں اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے وہ کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے اس کے علاوہ بھی بہت سی آیتیں ہیں جو پہلے گزر چکی ہیں

## جو جنت میں داخل ہو گیا وہ ہمیشہ وہیں رہے گا

جو ایک مرتبہ جنت میں داخل ہو گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہے گا، کبھی وہاں سے نہیں نکلا جائے گا لیکن اگر کسی کے پاس ایمان موجود ہے، اور کسی گناہ کی وجہ سے سزا کے لئے جہنم میں داخل ہو گیا تو وہ کبھی نہ کبھی جہنم سے نکلا جائے گا، اور جنت میں داخل کیا جائے گا جنت میں ہمیشور ہے گا، اس کے لئے آیتیں یہ ہیں

13- أَعْذَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاثٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا - (آیت ۸۹، سورت التوبۃ ۹)

ترجمہ۔ اللہ نے ان کے لئے وہ باغات تیار کر کھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں یہ ہمیشہ رہیں گے

14- سَنُدُخِلُّهُمْ جَنَّاثٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعُذَّ اللَّهُ حَقًا (آیت ۱۲۲، سورت النساء ۲)

ترجمہ۔ ان کو ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشور ہیں گے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے

اور ایمان دار جہنم سے نکلا جائے گا۔ اس کے لئے حدیث یہ ہے

2- عن عمران بن حصين <sup>رض</sup> عن النبي ﷺ قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد ﷺ فيدخلون الجنة يسمون الجنهميين - (بخاری شریف، کتاب الرقاق، باب صفة الجنة و

النار، ص ۱۱۳۶، نمبر ۶۵۶۶ (ص)

ترجمہ۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ ﷺ کی سفارش سے کچھ لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے، اور جنت میں داخل کئے جائیں گے، ان لوگوں کا نام، جہنمی، ہوگا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل ایمان جہنم سے نکالے جائیں گے، اور جنت میں داخل کئے جائیں گے۔

جو لوگ جنت یا جہنم میں داخل ہوں گے  
اللہ کے علم میں پہلے سے متعین ہے

اس کے لئے یہ حدیث ہے

3- عن علیٰ قَالَ كَنَا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ ..... قَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ ، مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفَوْشَةً إِلَّا كَتَبَ مَكَانَهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ وَ إِلَّا كَتَبَ شَقِيقَةً أَوْ سَعِيدَ هَ فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَسْوَكُلُ عَلَى كَتَابِنَا وَ نَدْعُ الْعَمَلَ؟ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَيْهَا عَمَلُ أَهْلِ السَّعَادَةِ ، وَ امَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَيْهَا عَمَلُ أَهْلِ الشَّقاوَةِ ، قَالَ: امَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُسَرُّونَ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ ، وَ امَّا أَهْلُ الشَّقاوَةِ فَيُسَرُّونَ لِعَمَلِ الشَّقاوَةِ ، ثُمَّ قَرَأَ ﴿فَامَّا مَنْ اعْطَى وَ اتَّقَى وَ صَدَقَ بِالْحَسْنِي [آیت ۵-۶، سورت اللیل ۹۲]﴾ (بخاری شریف، کتاب الجنائز، باب موعظة محمد بن عبد القبر و تعداد صحابہ حولہ، ص ۲۱۸، نمبر ۱۳۶۲)

ترجمہ۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ ہم جنتِ ابیق میں ایک جنازے میں تھے۔ حضورؐ نے فرمایا کہ، جتنے بھی انسان ہیں انکے لئے جنت یا جہنم لکھی ہوئی ہے، اور نیک ہو گایا بد جنت ہو گا وہ بھی لکھا ہوا ہے، ایک آدمی نے کہا تو یا رسول اللہ، ہم اس لکھے ہوئے پر بھروسہ نہ کر لیں، اور عمل نہ چھوڑ دیں؟ اس لئے کہ ہم میں سے جو نیک ہوں گے وہ خود ہی نیک عمل کر لیا کریں گے، اور جو ہم میں سے بد لوگ ہوں گے وہ خود ہی برے عمل کرنے لگیں گے، تو حضورؐ نے فرمایا کہ نیک لوگوں کے لئے نیک عمل آسان کر دیا جاتا ہے، اور برے لوگوں کے لئے بر عمل آسان کر دیا جاتا ہے، پھر آپؐ نے استدلال کے لئے، فاما من اعطیٰ، اخْ آیت پڑھی۔

اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے اللہ کے علم میں وہ پہلے سے معین ہیں، اور جو جہنم میں داخل ہوں گے اللہ کے علم میں وہ پہلے سے معین ہیں۔

اس عقیدے کے بارے میں 14 آیتیں اور 3 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

## ۲۶۔ قرآن اللہ کا کلام ہے

اس عقیدے کے بارے میں 13 آیتیں اور 4 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

نوت: کلام کی تین فتمیں ہیں

[۱] ایک کلام وہ ہے جو اللہ کی ذاتی صفت ہے، یہ ابدی ہے، یہ حادث نہیں ہے۔ کیونکہ وہ اللہ کی صفت ہے، اس لئے اللہ کی طرح وہ بھی ابدی ہو جائے گا

[۲] انسان کا کلام، یا فرشتوں کا کلام یہ حادث ہے، کیونکہ انسان اور فرشتے حادث ہیں، اس لئے ان سے نکلی ہوئی چیز بھی حادث ہو گی۔

[۳] قرآن جو اللہ کا کلام ہے، یہ کلام اللہ کے ساتھ ہو تو یہ ابدی ہے اور اس کلام کو فرشتہ، یا انسان پڑھتے تو یہ حادث ہے۔ فانی ہے، کیونکہ ہمارا پڑھنا حادث ہے۔

چھٹے مانے میں قرآن حادث ہے یا نہیں اس بارے میں کافی کشمکش رہی ہے، لیکن اگر یہ فرق کر لیں کہ اللہ کے ساتھ جو کلام ہے وہ ابدی ہے، اور انسان جو قرآن پڑھتا ہے، یا لکھتا ہے وہ حادث ہے تو اب کوئی جھگڑا نہیں رہے گا

اللہ کے ساتھ جو کلام ہے وہ ہمیشہ ہے،  
اور ہم جو قرآن پڑھتے ہیں وہ حادث اور فانی ہے  
امام ابوحنیفہؒ کی رائے

امام ابوحنیفہؒ کی کتاب فقہ اکبر میں ہے  
و لفظنا بالقرآن مخلوق و كتابنا له مخلوقة و قرائتنا له مخلوقة و القرآن غير  
مخلوق... و القرآن کلام الله تعالى فهو قدیم لا کلامهم ... و کلام الله تعالى غير  
مخلوق۔ (فقہ اکبر لامام ابوحنیفہ، بحث ان القرآن کلام اللہ غیر مخلوق ولا حادث، ۵۰-۵۲-۵۸)

ترجمہ۔ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں وہ مخلوق ہے، ہم جو قرآن لکھتے ہیں وہ مخلوق ہے، اور ہم جو پڑھتے ہیں وہ  
مخلوق ہے [یعنی وہ فانی ہے، حادث ہے] اور قرآن جو اللہ کا اصلی کلام ہے وہ مخلوق نہیں ہے، [یعنی  
حادث نہیں ہے، فانی نہیں ہے، وہ ابدی ہے]۔۔۔ قرآن جو اللہ کا کلام ہے وہ قدیم ہے [ابدی ہے]  
اور انسان جو قرآن پڑھتا ہے وہ قدیم نہیں ہے۔۔۔ اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے، [یعنی حادث اور فانی  
نہیں ہے، بلکہ وہ ابدی اور قدیم ہے]۔۔۔

یہاں تین عبارتیں پیش کی گئی ہیں، اس کا حاصل یہ ہے کہ جو کلام اللہ کا ہے، اور جو اس کی صفت ہے وہ  
قدیم ہے، ابدی ہے، اور انسان جو قرآن پڑھتا ہے وہ حادث ہے، فانی ہے۔

## قرآن اللہ کا کلام ہے

قرآن کی دو چیزیں ہیں، ایک جو اللہ کا اپنا کلام ہے، وہ اللہ کی صفت ہے، اور ابدی ہے اور دوسرا چیزیت یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، یہ حادث ہے فانی ہے

قرآن اللہ کا کلام ہے اس کے لئے آیت یہ ہے

۱- وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ إِسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ (آیت ۶، سورت النوبۃ ۹)

ترجمہ۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے تو اسے اس وقت تک پناہ دو جب تک وہ اللہ کا کلام سن لے۔ [یہاں اللہ کے کلام سے قرآن مراد ہے]

۲- وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيِّمٍ۔ (آیت ۶، سورت انمل ۲۷)

ترجمہ۔ اور اے رسول! بلاشبہ تمہیں یہ قرآن اس اللہ کی طرف سے عطا کیا جا رہا ہے جو حکمت بھی مالک ہے علم کا بھی مالک ہے

۱- قال عمر بن الخطاب : إن هذا القرآن كلام الله فلا يغرنكم ما عطفتموه على أهوائكم - (داری، باب القرآن کلام اللہ درج ثانی، ص ۵۳۳، نمبر ۳۳۵۵)

ترجمہ۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کہیں اس بات سے تمہیں دھوکہ نہ ہو جائے کہ، تم اپنی خواہش کی وجہ سے اس سے دور ہو جاؤ۔

ان آیتوں اور حدیث میں قرآن کو اللہ کا کلام کہا ہے

## یہ قرآن لوح محفوظ میں بھی ہے

اس کے لئے آیتیں یہ ہیں

۳-إِنَّهُ لِقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْتُونَ - (آیت ۷۷، سورت الواقعہ ۵۶)

ترجمہ۔ یہ بڑا وقار قرآن ہے جو ایک محفوظ کتاب میں پہلے سے درج ہے

۴-بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ - (آیت ۲۲، سورت البروج ۸۵)

ترجمہ، بلکہ یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ قرآن لوح محفوظ میں ہے

## قرآن کو لوح محفوظ سے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا

قرآن کو تینیس [۲۳] سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے حضور پر اتارا گیا ہے

اس آیت میں اس کی دلیل ہے

۵-وَ قُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَ نَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا - (آیت ۱۰۶، سورت الاسراء ۱۷)

ترجمہ، اور ہم نے قرآن کے جدا جد ا حصے بنائے تاکہ تم اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کے سامنے پڑھو، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے

۶-تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ - (آیت ۸۰، سورت الواقعہ ۵۶)

ترجمہ۔ یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا جا رہا ہے  
 ۷۔ وَإِنَّهُ لِسَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، نُنَزِّلُ بِهِ رُوحُ الْأَمِينِ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ  
 الْمُنْذَرِيْنَ۔ (آیت ۱۹۲-۱۹۳، سورت الشرا ۲۶)

ترجمہ۔ پیش کیا ہے کہ آن رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے، امانت دار فرشتہ سے لیکر اتراء ہے، اے رسول  
 تمہارے قلب پر اتراء ہے تاکہ تم ان پیغمبروں میں شامل ہو جاؤ جو لوگوں کو خبردار کرتے ہیں  
 ان آئیوں سے معلوم ہوا کہ حضور پر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کو اتارا گیا ہے

جو قرآن کو انسان کا کلام کہے وہ کافر ہے

اس کے لئے یہ آیت ہے

۸۔ إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ، سَاصْلِيهَ سَقَرَ۔ (آیت ۲۵-۲۶، سورت المدثر ۷۸)

ترجمہ۔ کچھ نہیں یہ تو ایک انسان کا کلام ہے، عنقریب اس شخص کو دوزخ میں جھوک دوں گا

قرآن کو انسان کا کلام کہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا، کیونکہ وہ اب کافر ہو گیا

دنیا میں اللہ تعالیٰ جو کلام کرتے ہیں وہ یا تو وحی کے ذریعہ  
یا پرده کے پیچھے سے کرتے ہیں

دنیا میں اللہ تعالیٰ جو کلام کرتے ہیں وہ یا تو وحی کے ذریعہ سے کرتے ہیں یا پرده سے کرتے ہیں، کیونکہ  
انسان کو اس وقت اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ سے بالمشافحہ کلام کرے، ہاں آخرت میں پیدا کردیں گے  
اس کے لئے یہ آیت ہے

۹۔ وَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرِسِّلَ رَسُولًا فَيُوحِي  
بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ (آیت ۱۵، سورت الشوری ۲۲)

ترجمہ۔ اور کسی انسان میں طاقت نہیں ہے کہ اللہ اس سے رو برو بات کرے، سوائے اس کے کہ وہ وحی  
کے ذریعہ ہو کسی پر دے کے پیچھے سے یا پھر کوئی پیغام لانے والا فرشتہ بھیج دے، اور وہ اس کے حکم سے  
جو چاہے وہی کا پیغام پہنچا دے۔

۱۰۔ وَ كَلَمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا۔ (آیت ۱۶۳، سورت النسا ۲)

ترجمہ۔ اور حضرت موسیٰؑ سے تو اللہ براہ راست ہم کلام ہوا۔

حضرت موسیٰؑ علیہ السلام سے بھی پر دے کے پیچھے سے ہی ہم کلام ہوئے ہیں

## قرآن میں نہ تحریف ہوئی ہے اور نہ ہوگی

جب سے قرآن نازل ہوا ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے، چنانچہ آپ پوری دنیا کے قرآن کو اٹھا کر دیکھ لیں ایک حرف کافر ق نظر نہیں آئے گا،

ایک ہی قسم کا پورا قرآن دنیا کے کڑو روں حفاظات کے سینے میں محفوظ ہے، اور محفوظار ہیں گے اس لئے جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن میں تبدیلی ہوئی ہے وہ غلط کہتے ہیں  
اس آیت میں ہے کہ اللہ نے قیامت تک قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے  
۱۱۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْدِّيْنَكَ وَ إِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ۔ (آیت ۹، سورت الحجر ۱۵)

ترجمہ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ذکر یعنی قرآن ہم نے ہی اتنا را ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے قرآن اتنا را ہے اور میں ہی قیامت اس کی حفاظت کروں گا، اور وہ آج تک ویسا ہی محفوظ ہے جیسا پہلے دن تھا، اس لئے کوئی کہے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے تو یہ سرا سر غلط ہے

## ہاں سات قرأت پر قرآن پڑھنے کی اجازت تھی

ہاں یہ بات ہوئی ہے کہ جب قرآن از تو عرب کے سات قبلیہ مشہور تھے اور ہر ایک کا لجہ الگ الگ تھا تو اللہ پاک نے ایک ہی آیت کو سات لجہ میں پڑھنے کی اجازت دی تھی، بعد میں جب قرآن کو حضرت عثمانؓ نے مصحف میں جمع کیا تو قریش کے لجھ پر جمع کیا، کیونکہ یہی لجہ سب سے بہتر تھا، اور اس وقت قرآن اسی لجہ اور اسی قرأت میں لکھا ہوا موجود ہے  
اس کے لئے حدیث یہ ہے

2- قال سمعت عمر بن الخطاب ... ان القرآن انزل على سبعة أحرف فاقرؤوا منه ما تيسر۔ (بخاری شریف، کتاب الخصومات، باب کلام الخصم بعضهم فی بعض، ص ۳۸۹، نمبر ۲۳۱۹، مسلم شریف، کتاب صلاة المسافرين، باب بیان ان القرآن انزل على سبعة احرف، ص ۳۲۹، نمبر ۱۸۹۹/۸۱۸)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ قرآن کو سات قرأت پر اتارا گیا ہے، جو اس میں سے آسان ہواں میں پڑھو

اس حدیث میں ہے کہ آیت اور حکم تو ایک ہی ہے البتہ اس کو پڑھنے کے لئے سات لجھ، اور سات قرأت کا استعمال کر سکتے ہیں

## آخرت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کلام کریں گے

آخرت میں اللہ جنتیوں سے کلام کریں گے، لیکن اس کی کیا کیفیت ہوگی وہ اللہ ہی جانے اس کے لئے آیتیں یہ ہیں

12۔ سَلَامُ قَوْلًا مِّنْ رَّبِّ رَّحِيمٍ۔ (آیت ۵۸، سورت یس ۳۶)

ترجمہ۔ رحمت والے رب کی جانب سے انہیں سلام کہا جائے گا

13۔ وَ لَا يُكْلِمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَا يُزَكِّيْهُمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ (آیت ۷۷، سورت البقرہ ۲)

ترجمہ۔ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کریں گے، اور نہ ان کو پاک کریں گے، اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ قیامت میں جنتیوں سے کلام کریں گے

3۔ عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله ﷺ: بینا اهل الجنة في نعيمهم اذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد اشرف عليهم من فوقهم ، فقال السلام عليكم يا اهل الجنة ، قال ﴿وَذالكَ قَوْلُ اللَّهِ سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبِّ رَّحِيمٍ -﴾ (آیت ۵۸، سورت یس ۳۶)۔ (ابن ماجہ شریف، کتاب المقدمة، باب فیما اکبرت الحجمیة، ص ۲۸، نمبر ۱۸۲)

ترجمہ۔ حضور ﷺ نے فرمایا جنت والے اپنے آرام میں ہوں گے کہ ان کو ایک روشنی نظر آئے گی، اس

کی طرف یہ سراٹھائیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ خداوند قدوس اور پر سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ کہیں گے، جنت والے، السلام علیکم، آیت، سلام قولًا من رب رحيم، کی یہی تفسیر ہے اس حدیث میں ہے کہ اللہ جنتیوں سے کلام کریں گے۔

4- عن ابی سعید الخدری قال قال النبی ﷺ ان الله يقول لاهل الجنۃ يا اهل الجنۃ فيقولون ليک ربنا و سعدیک و الخیر فی يدیک - (بخاری شریف، باب کلام الرب مع اہل الجنۃ، ص ۱۲۹۶، نمبر ۵۱۸)

ترجمہ۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، اللہ جنت والوں سے کہیں گے، اے جنت والو! تو جنت والے کہیں گے، لیکر ربنا و سعدیک و الخیر فی يدیک، اے میرے رب لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کلام انسان کے کلام کی طرح حادث نہیں ہے، بلکہ یہ قدیم ہے، اور کیفیت سے پاک ہے، کیونکہ اللہ کا کلام کائنات میں سے کسی کے مشابہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں ہے ﴿لَيْسَ كَمِثْلُهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾۔ (آیت ۱۱، سورت الشوری ۳۲) اللہ کی ذات، یا اس کی صفات کی طرح کوئی چیز نہیں ہے۔

اس عقیدے کے بارے میں 13 آیتیں اور 4 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

## ۲۷۔ اللہ کھاں ہیں

اللہ کھاں ہیں اس بارے میں بڑا اختلاف ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بارے میں مختلف آیتیں اور مختلف احادیث ہیں، اس لئے کسی ایک کو معین کرنا مشکل ہے اس لئے اس بارے میں 6 جماعتیں ہو گئی ہیں،

اس عقیدے کے بارے میں 38 آیتیں اور 6 حدیثوں میں آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

## اللہ کے بارے میں چار باتیں یاد رکھنا ضروری ہے

[۱] اللہ واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے، وہ تمام چیزوں کا خالق ہے، اس میں فنا نہیں، اس لئے انکی ذات یا صفات میں فنا نہیں ہے

[۲] وہ جہت سے پاک ہے، یعنی کسی جہت میں نہیں ہے، یعنی اوپر، یا نیچے، یا دائیں، یا باائیں نہیں ہے

[۳] وہ کیفیت سے پاک ہے، یعنی انسانوں اور چیزوں میں جو مختلف کیفیات ہیں، اللہ میں یہ نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تو خود کیفیت کو پیدا کرنے والا ہے، تو اللہ میں کیفیت کیسے ہو گی۔

[۴] اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، نہ صفات میں اس کی مثل ہے، اور نہ ذات میں کوئی مثل ہے

اس لئے کسی صفت کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اللہ کی صفت کی طرح ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظی طور پر وہ ہماری صفت کی طرح معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقی معنی میں وہ چیز ہی کوئی اور ہے، جس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے، اور نہ اس کا شعور رکھ سکتے ہیں، اس لئے اللہ کی کسی بھی صفت کو خلائق کی صفات پر ہرگز قیاس نہ کریں۔

اس کی دلیل کے لئے یہ آیت، اور حدیث ہے

۱- لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ (آیت ۱۱، سورت الشوری ۳۲)

ترجمہ۔ کوئی چیز اللہ کے مثل نہیں ہے، اور وہی ہے جو ہر بات سنتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے اس آیت میں ہے کہ اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، تو ہم کیسے یہ قیاس کر سکتے ہیں کہ ہماری طرح وہ کرسی پر بیٹھے ہیں، یا ہماری طرح ان کے ہاتھ اور پاؤں ہیں، یا ہماری صفت کی طرح ان کی صفت ہے

۱- عن ابی هریرۃ قال قال رسول الله ﷺ قال الله : اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت و لا اذن سمعت و لا خطر على قلب بشر ، فاقروا ان شتم ﴿ فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة اعين ﴾۔ (آیت ۷۷، سورت الحجۃ ۳۲) (بخاری شریف، کتاب بدء اخلاق، باب جاء في صفة الجنة و انها خلوقۃ، حسن، ۵۲۲، نمبر ۳۲۲۲ مسلم شریف، کتاب الجنة و صفة نعمتها و احوالها، باب صفة الجنة، حسن، ۱۲۲۸، نمبر ۲۸۲۲، نمبر ۱۳۲)

ترجمہ۔ حضور پاک ﷺ نے فرمایا، کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے ایسی نعمت تیار ہیں کہ، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، کسی کان نے سنائیں ہے، کسی انسان کے دل پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا، اور اس کی دلیل کے لئے یہ آیت پڑھو (کسی تنفس کو کچھ پہنچیں ہے کہ ایسے لوگوں کے لئے

آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان چھپا رکھا ہے)

اس حدیث میں ہے کہ جنت کی نعمتیں نہ آنکھے دیکھی ہے، اور نہ کان نے سنائے، اور نہ دل میں اس کا خیال گزرا ہے، جب جنت کی نعمتوں کا یہ حال ہے جو مخلوق ہیں، تو ہم اللہ کی ذات کا اور ان کی صفات کی کیفیت کا تصور کیسے کر سکتے ہیں، اس لئے اللہ کی ذات کہاں ہے، اور اس کی کیفیت کیا ہے، اس بارے میں اپنی رائے قائم نہ کریں اور مخلوق پر قیاس کریں۔

## [ا] پہلی جماعت

پہلی جماعت کی رائے ہے کہ اللہ اپنی شان کے مطابق ہر جگہ موجود ہے لیکن کس کیفیت سے موجود ہے، ذات کے ساتھ موجود ہے، یا علم و قدرت، و بصیرت کے ساتھ موجود ہے اس بارے میں وہ کچھ بحث نہیں کرتی، کیونکہ اللہ جہت اور کیفیت سے پاک ہے

ان کی دلیل یہ آیتیں ہیں

جو حضرات کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ان کی دلیل یہ آیتیں ہیں

۱- هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ (آیت ۲، سورت الحیدر ۵)

ترجمہ۔ تم جہاں بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو خوب دیکھ رہا ہے

۲- وَ لَا أَذْنِي مِنْ ذَالِكَ وَ لَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا۔ (آیت ۷، الجاذلة ۵۸)

ترجمہ۔ اس سے کم ہوں یا زیادہ وہ جہاں بھی ہوں اللہ اسکے ساتھ ہوتا ہے

۳- إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزُنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ (آیت ۲۰، سورت التوبۃ ۹)

ترجمہ۔ جب حضور اپنے ساتھی حضرت ابو بکرؓ سے کہا رہے تھے، غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہیں

۴- فَلَا تَهْنُوا وَ تَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَ أَنْتُمُ الْأَغْلُونَ وَ اللَّهُ مَعَكُمْ۔ (آیت ۳۵، محمد ۲۷)

ترجمہ۔ ائے مسلمانوں تم کمزور پڑ کر صلح کی دعوت نہ دو، تم ہی سر بلند رہو گے، اللہ تمہارے ساتھ ہے

۵- وَ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ فَإِنِّيْ قَرِيبٌ۔ (آیت ۱۸۶، سورت البقرۃ ۲)

ترجمہ۔ ائے حضور جب آپ سے میرا بندہ پوچھتا ہے، تو کہہ دو کہ میں بہت قریب ہوں

۶- وَ نَعْلَمُ مَا تُوَسِّعُ بِهِ نَفْسُهُ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ (آیت ۱۶، ق ۵۰)

ترجمہ۔ اور انسان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں ان تک سے ہم خوب واقف ہیں، اور ہم اس کی شرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں

اس آیت میں ہے میں انسان کے شرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں

7- وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تُولَّوْا فَشَّمَ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ - (آیت ۱۱۵، سورت البقرۃ)

ترجمہ۔ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کی ہیں اس لئے جس طرف بھی تم رخ کرو گے، وہیں اللہ کا رخ ہو گا، بیشک اللہ بہت وسعت والا ہے، بڑا علم رکھنے والا ہے ان 7 آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن بغیر مکان اور بغیر کیفیت کے ہے

یہ جماعت ایک نئتہ بھی اٹھاتی ہے کہ اگر ہم اللہ کو عرش پر مستوی مان لیں، اور یہ کہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے تو، یہ اشکال ہو گا کہ عرش بنانے سے پہلے اللہ کہاں تھے؟

## [۲] دوسری جماعت

دوسری جماعت کی رائے یہ ہے کہ اللہ اپنی شان کے مطابق عرش پر ہے لیکن کس کیفیت سے ہے وہ اس کے بارے میں بحث نہیں کرتی، کیونکہ اللہ جنت سے اور کیفیت سے بالکل پاک ہے

وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ۷ آیتوں میں کہہ دیا کہ اللہ عرش پر ہے تو ہم اس کو مان لیتے ہیں اور انکی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کی کوئی تاویل کرنا مناسب نہیں سمجھتے یہ حضرات اوپر کی ۷ آیتیں جن میں ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے یہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ عالم و بصیرت اور قدرت کے ساتھ ہر جگہ ہیں

انکی دلیل یہ 7 آیتیں ہیں

8- الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى۔ (آیت ۵، سورت طہ)

ترجمہ۔ وہ بڑی رحمت والا عرش پر استوار فرمائے ہوئے ہیں

9- إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ۔ (آیت ۵۸، سورت الاعراف)۔ ترجمہ۔ یقیناً تمہار پروردگار وہ اللہ ہے جس نے سارے آسمان اور زمین چھومن میں پیدا کیا پھر اس نے عرش پر استوار فرمایا،

10- إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ۔ (آیت ۳، سورت یوسف)۔ ترجمہ۔ یقیناً تمہار پروردگار وہ اللہ ہے جس نے سارے آسمان اور زمین چھومن میں پیدا کیا پھر اس نے عرش پر استوار فرمایا،

۱۱۔ اللہُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرُوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ۔ (آیت ۲، سورت الرعد ۱۳)۔ ترجمہ۔ اللہ وہ جس نے ایسے ستونوں کے بغیر آسمانوں کو بلند کیا جو تمہیں نظر آسکیں پھر اس نے عرش پر استوار فرمایا۔

۱۲۔ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنُهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ۔ (آیت ۵۹، سورت الفرقان ۲۵)۔ ترجمہ۔ وہ اللہ جس نے چھوٹن میں سارے آسمان اور زمین اور انکے درمیان کی چیزیں پیدا کیں، پھر اس نے عرش پر استوار فرمایا۔

۱۳۔ اللہُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنُهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ۔ (آیت ۲، سورت السجدة ۳۲)۔ ترجمہ۔ اللہ وہ ہے جس نے سارے آسمان اور زمین اور جو انکے درمیان میں ہیں چھوٹن میں پیدا کیا پھر اس نے عرش پر استوار فرمایا۔

۱۴۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ (آیت ۲، سورت الحمد ۷۵)۔ ترجمہ۔ وہی ہے جس نے سارے آسمان اور زمین کو چھوٹن میں پیدا کیا، پھر اس نے عرش پر استوار فرمایا۔

ان ۷ آیتوں میں ہے کہ اللہ نے عرش پر استوار فرمایا اس لئے یہ دوسری جماعت اس بات کی قائل ہوئی کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، باقی کس انداز میں ہے یہ معلوم نہیں، لیکن اللہ کی شان کے مطابق مستوی ہے۔

لغت : استوی : عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہے، سیدھا ہونا، قائم ہونا، قابو پانا، اور بعض اوقات اس کے معنی، بیٹھنے، کے بھی ہوتے ہیں، یہ لفظ مشتبہات میں سے ہے اس لئے اللہ کے لئے اس کا کوئی معنی متعین کرنا مشکل ہے، کیونکہ وہ سیدھا کھڑے ہونے اور قائم ہونے سے پاک ہے، وہ کسی کیفیت سے بھی پاک ہے۔

## عرش ایک بہت بڑی مخلوق ہے

۱۵۔ اللہ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ۔ (آیت ۲۶، سورت انمل ۲۷)

ترجمہ۔ اللہ وہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور جو عرش عظیم کا مالک ہے

۱۶۔ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلُثُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ۔ (آیت ۱۲۹، سورت التوبۃ ۹)

ترجمہ۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے یہ آیتیں اور بہت سی آیتوں سے معلوم ہوا کہ عرش ایک بڑی اور عظیم مخلوق ہے، جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے

## کرسی

کرسی بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، لیکن عرش کے مقابلے پر کرسی کی حیثیت بہت کم ہے، جیسے صحرائیں ایک کڑا اڈا دیا گیا ہو، تو صحرائے مقابلے میں لو ہے کے حلقة کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اسی طرح عرش کے مقابلے میں کرسی کی کوئی خاص حیثیت باقی نہیں رہتی۔۔ باقی یہ کیسی ہے اللہ ہی جانے لیکن یہ کرسی پھر بھی اتنی بڑی ہے کہ تمام زمین اور آسمان کو گھیرے ہوئے ہے۔۔ اس آیت میں کرسی کا ثبوت ہے۔

۱۷۔ وَسَعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ لَا يَوْدَهُ حَفْظُهُمَا وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ (آیت ۲۵۵، سورت البقرۃ ۲)

ترجمہ۔ اس کی کرسی نے سارے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے، اور ان دونوں کی نگہبانی سے اسے ذرا بھی بوجھ نہیں ہوتا اور وہ بڑا عالی مقام عظمت والا ہے۔

### [۳] تیسری جماعت

تیسری جماعت کی رائے یہ ہے کہ اللہ کائنات میں علم، قدرت، اور بصیرت کے ساتھ ہے، ذات کے ساتھ کائنات میں نہیں ہے، باقی کہاں ہے اس بارے میں وہ خاموش ہے  
ان کی دلیلیں یہ ہیں

۔ وہ فرماتے ہیں کہ کائنات اللہ ہی کا پیدا کر دہ ہے، تو وہ کائنات میں کیسے ہوں گے

۔ دوسری بات یہ ہے کہ کائنات فانی ہے، پس اگر اللہ کی ذات اس میں موجود ہو تو اللہ کی ذات بھی فانی ہو جائے گی، اس لئے یہ کہا جائے کہ علم و بصیرت کے اعتبار سے اللہ کائنات میں ہے

ان کی آیتیں یہ ہیں

18۔ وَ كَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ (آیت ۱۲۶، سورت النساء ۲)

ترجمہ۔ اور اللہ نے ہر چیز کو اپنی قدرت کے احاطے میں لیا ہوا ہے

19۔ لَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ۔ (آیت ۵۲، سورت فصلت ۲)

ترجمہ۔ یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز کو احاطے میں لئے ہوئے ہے

20۔ وَ اللَّهُ بِمَا يَعْلَمُونَ مُحِيطٌ۔ (آیت ۲۷، سورت الانفال ۸)

ترجمہ۔ جو کچھ تم کرتے ہو واللہ سارے کو احاطے میں لئے ہوئے ہے

ان 3 آیتوں میں ہے کہ اللہ سب چیز کو احاطے میں لئے ہے، اس لئے وہ علم کے اعتبار سے کائنات میں ہے، ذات کے اعتبار سے نہیں

21۔ يُحِبِّي وَيُمِيِّثُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ (آیت ۲، سورت الحمد ۵)

ترجمہ۔ اللہ ہی زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے

22۔ بَلِّي إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ (آیت ۳۳، سورت الاحقاف ۴۶)

ترجمہ۔ وہ یہیں کہ ہر چیز کی پوری قدرت رکھنے والا ہے

23۔ تَبَارَكَ الَّذِي بَيَّدَهُ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ (آیت ۱، سورت الملک

۲۷)۔ ترجمہ۔ بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری

طرح قادر ہے۔

24۔ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيِّمٌ قَدِيرٌ۔ (۵۰، سورت الشوری ۴۲)

ترجمہ۔ اور جس کو چاہتا ہے با نجھ بنا دیتا ہے، یقیناً وہ بہت جانے والا بھی، بہت قدرت والا بھی ہے

ان 7 آیات میں ہے کہ اللہ عالم قدرت اور ملکیت کے اعتبار سے پوری کائنات کو گھیرے ہوا ہے۔  
اس لئے یہ تیسری جماعت کہتی ہے کہ اللہ عالم، قدرت، اور بصیرت کے اعتبار سے کائنات میں موجود  
ہے، ذات کے اعتبار سے نہیں

## چوتھی جماعت [۴]

چوتھی جماعت کی رائے یہ ہے کہ اللہ اپنی شان کے مطابق بندی پر ہے۔ یہ جماعت کوئی بڑی نہیں ہے اللہ تک بندی پر ہے، وہ اس بارے میں کوئی تعین نہیں کرتی، لیکن انکی شان کے لحاظ سے وہ بندی پر ہے

انکی دلیل یا آیتیں ہیں

25۔ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فُوقِهِمْ وَيَعْلُمُونَ مَا يُوْمَرُونَ۔ (آیت ۵۰، سورت الحلق ۱۶)۔ ترجمہ۔

وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو انکے اوپر ہیں اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے

26۔ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلْمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ۔ (آیت ۱۰، سورت فاطر ۳۵)

ترجمہ۔ پاکیزہ کلمہ اسی کی طرف چڑھتا ہے، اور نیک عمل اس کو اوپر اٹھاتا ہے

27۔ مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ، تَرْجُجُ الْمَلَائِكَةُ وَ الرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ

خَمْسِينَ الْفَ سَنَةً۔ (آیت ۲، سورت المعارج ۴۷)

ترجمہ۔ وہ عذاب اللہ کی طرف سے آئے گا جو چڑھنے کے تمام راستوں کا مالک ہے، فرشتے اور روح

القدوس اس کی طرف ایسے دن میں چڑھ کر جاتے ہیں جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے

28۔ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ الْفَ سَنَةٍ

مِمَّا تَعْدُونَ۔ (آیت ۵، سورت السجرة ۳۲)

ترجمہ۔ وہ آسمان سے لیکر زمین تک ہر کام کا انتظام کرتا ہے، پھر وہ کام ایسے دن میں اس کے پاس

اوپر پہنچ جاتا ہے جس کی مقدار تمہاری گنتی کے حساب سے ایک ہزار سال ہوتی ہے

ان 4 آیتوں میں اس کا اشارہ ہے کہ اللہ بندی پر ہے

1- عن ابی هریرة ان رسول الله ﷺ قال ينزل ربنا عز و جل كل ليلة الى سماء الدنيا حین یبقى ثلث اللیل الآخر۔ (ابوداودشریف، کتاب الطوع، باب ای اللیل افضل، ص ۷۱، نمبر ۱۳۱۵)۔ ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات میں، جب تین پھر باقی رہ جاتا ہے تو سماء دنیا کی طرف اترتا ہے

اس حدیث کے اشارے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ بلندی پر ہے،  
اس لئے اس چوخی جماعت کی رائے یہ ہے کہ اللہ بلندی پر ہے، باقی کس کیفیت میں ہے اس بارے میں ہم بحث نہیں کرتے، بس اپنی شان کے مطابق ہے۔

## [۵] پانچویں جماعت

اللہ اپنی شان کے مطابق آسمان پر ہے  
یہ کوئی بڑی جماعت نہیں ہے بلکہ کچھ لوگوں کی رائے ہے اور یہ رائے اوپر کی رائے کے قریب قریب ہے

ان کی دلیل یہ حدیث ہے

2- عن معاویة بن الحكم السلمی قال بینا انا اصلی مع رسول الله ﷺ ... قال و  
کانت لى جارية ترعى غنمًا لى ... قال ائنتى بها فأتيتها بها فقال لها ، اين الله ؟ ،  
قالت فى السماء ، قال من انا قالت انت رسول الله ، قال اعتقدها فانها مؤمنة - (مسلم  
شریف، کتاب المساجد، باب تحریم الكلام فی الصلاة ونحو ما كان من اباحته۔ ص ۲۱۸، نمبر ۵۳۷) (۱۱۹۹)  
ترجمہ۔ ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔۔۔ میرے پاس ایک باندی تھی، جو میری بکری چراتی تھی ۔۔۔  
حضورؐ نے فرمایا کہ باندی کو میرے پاس لاو، تو ہم باندی کو حضورؐ کے پاس لائے، تو آپؐ نے باندی  
سے پوچھا کہ، اللہ کہاں ہے؟، باندی نے کہا، آسمان میں، پھر پوچھا کہ میں کون ہوں، باندی نے کہا،  
آپ اللہ کے رسول ہیں، حضورؐ نے فرمایا کہ اس باندی کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے  
اس حدیث میں ہے کہ باندی نے کہا کہ اللہ آسمان میں ہے، تو آپؐ نے اس کو قبول فرمایا۔  
اس لئے اس جماعت کی رائے ہے کہ اللہ آسمان ہے، اب کس کیفیت میں ہے اس بارے میں وہ بحث  
نہیں کرتی، بس اس کی شان کے مطابق ہے۔

## [۶] چھٹی جماعت

چھٹی جماعت کی رائے یہ ہے کہ استو علی العرش، اللہ کہاں ہے، اللہ کا چہرہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا قدم، اللہ کی انگلی، اللہ کا نزول، یہ سب تشبہات میں سے ہیں، اس لئے انکے بارے میں یہ کہا جائے کہ ان کا معنی معلوم ہے، لیکن کیفیت معلوم نہیں، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، اور انکے بارے میں بحث کرنا بدعت ہے، اس لئے اس کے بارے میں چپ رہنا ہی بہتر ہے۔

انکے یہاں حضرت امام مالکؓ کا یہ قول بہت مشہور ہے

سمعت یحیی بن یحیی يقول کنا عند مالک بن انس فجاء رجل فقال يا ابا عبد الله ، الرحمن على العرش الستوى (آیت ۵، سورت ط) کیف استوی ، قال فاطرق مالک رأسه حتى علاه الرحضاء ثم قال الاستوى غير مجهول ، و الكيف غير معقول ، و الايمان به واجب ، و السوال عنه بدعة ، و ما اراك الا مبتدعا ، فامر به ان یخرج ، قال الشیخ : و على مثل هذا درج اکثر علمائنا في مسئلة الاستوى ، و في مسئلة المجرى ، و الاتيام ، و النزول - (اسماء والصفات للبيهقي، كتاب الاعتقاد للبيهقي)، باب القول في الاستوى، ج ۱، ص ۱۱۶ (شرح فقہا کبر، ص ۷۰)

ترجمہ۔ ہم مالک بن انسؓ کے پاس موجود تھے ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ اے ابو عبد اللہ! رحمن تو عرش پر مستوی ہے، تو مستوی کی کیفیت کیا ہے؟ حضرت مالکؓ نے اپنا سر نیچا کیا، یہاں تک کہ ان پر پسینہ آگیا، پھر انہوں نے فرمایا مستوی کا معنی مجهول نہیں ہے، اس کی کیفیت سمجھ میں نہیں آتا، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ پھر فرمایا کہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ

آدمی بعثتی ہے، اس لئے اس آدمی کو نکال دینے کا حکم دیا۔ شیخ فرماتے ہیں، ہمارے علماء نے، اللہ کے آنے کا، اتیام، کا، اور اترنے، کے معاملے کو بھی، اسی استوی میں ہی شامل کئے ہیں [یعنی اس کے بارے میں بھی سوال کرنا بذعت ہے]

اس عبارت میں یہاں تک ہے کہ حضرت امام مالکؓ نے استوی کے بارے میں سوال کرنے والے کو بعثتی کہا، اور اس کو مرے سے نکال دیا

انکی دلیل یہ آیت ہے

29. هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٍ ، فَأَمَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَبْعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ إِبْتِغاً لِفَتْنَةٍ وَإِبْتِغاً تَأْوِيلَهُ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ أَمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَدْعُكُرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابُ - (آیت ۳ سورت آل عمران)

ترجمہ۔ اے رسول وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی ہے، جس کی کچھ آیتیں تو محکم ہیں جن پر کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور کچھ دوسری آیتیں تتشابہ ہیں، اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ ان تتشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ فتنہ پیدا کریں اور ان آیتوں کی تاویلات تلاش کریں، حالانکہ ان آیتوں کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جن لوگوں کا علم پختہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ، ہم اس مطلب پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کو معلوم ہے، سب کچھ ہمارے رب ہی کی طرف سے ہے، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں

اس آیت میں نصیحت کی گئی ہے کہ تتشابہ الفاظ کے پیچھے نہ پڑیں، بلکہ ایسے موقع پر ان آیتوں پر ایمان رکھیں اور چپ رہیں، اس لئے ہم، استوی، کی تحقیق میں نہیں پڑتے، بلکہ چپ رہتے ہیں

## امام ابوحنیفہؒ کی رائے

اس بارے میں امام ابوحنیفہؒ کی رائے یہ ہے کہ، یوں کہا جائے کہ اس کا معنی معلوم ہے، لیکن کیفیت معلوم نہیں ہے، کیونکہ کیفیت کا علم نہیں ہے، شرح فقہاء کبر جو امام ابوحنیفہؒ کی مشہور کتاب ہے اس کی عبارت یہ ہے۔

وَلَهُ يَدٌ وَوِجْهٌ وَنَفْسٌ كَمَا ذُكِرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ ، فَمَا ذُكِرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ مِنْ ذِكْرِ الْوِجْهِ وَالْيَدِ وَالنَّفْسِ فَهُوَ لِهِ صَفَاتٌ بِلَا كَيْفٍ ،  
وَلَا يَقُولُ : إِنْ يَدْهُ قَدْرُتَهُ أَوْ نِعْمَتَهُ لَا نَفِيْهُ لِبَطْلِ الصَّفَةِ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْقَدْرِ وَالْاعْتِزَالِ ، وَلَكِنْ يَدْهُ صَفَتَهُ بِلَا كَيْفٍ ، وَغَضِيْبَهُ وَرَضَاهُ صَفَتَانِ تَعَالَى بِلَا كَيْفٍ - ( شرح کتاب الفقہ الاکبر، ص ۲۶-۲۸ )

ترجمہ۔ اللہ کے لئے ہاتھ، چہرہ، نفس، جیسا کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، [اس پر ایمان رکھے] پس اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ذکر کیا ہے، چہرہ، ہاتھ، نفس، تو یہ اللہ کی صفت ہے، لیکن بغیر کیفیت کے ہے اور یہ نہ کہا جائے، کہ اللہ کے ہاتھ کا مطلب، اس کی قدرت ہے، یا اللہ کی نعمت ہے، اس لئے کہ اس تاویل کرنے میں اللہ کی صفت کو باطل کرنا ہے، قدریہ اور معتزلہ جماعت کی رائے یہی ہے کہ، [اللہ کا ہاتھ کا مطلب اس کی قدرت یا اس کی نعمت ہے] لیکن اصل بات یہ ہے کہ، اللہ کے ہاتھ کا مطلب ہے، اس کی صفت، لیکن بغیر کیفیت کے۔ اللہ کا غصہ، اور اللہ کی رضا مندی دونوں اللہ کی صفتیں ہیں، لیکن بغیر کیفیت کے۔

اور شارحین نے، الرحمن علی العرش استوی کو بھی اسی میں داخل کیا ہے کہ استوی کا معنی معلوم ہے، لیکن کس کیفیت میں اللہ نے عرش پر استوی کیا ہے یہ معلوم نہیں ہے، اور نہ کسی آیت، یا حدیث سے اس کی

کیفیت کا پتہ چلتا ہے، اس لئے یہ تشابہات میں سے ہے، اس لئے اس پر خاموش ہی رہنا چاہئے۔

### امام غزالیؒ کی رائے

امام غزالیؒ نے فرمایا کہ استوی کا ترجمہ عرش پر مستقر ہونے، یا بیٹھنے کا نہیں ہے، بلکہ اس کا ترجمہ ہے عرش کی حفاظت کی، عرش پر قبضہ کیا، عرش کو باقی رکھا، کیا اگر، علی العرش استوی، کا ترجمہ، عرش کی حفاظت کی، عرش پر قبضہ کیا، عرش کو باقی رکھا، کیا جائے تو اس میں اللہ کی کیفیت نہیں آتی، اسلئے اس ترجمہ میں کیفیت کی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کی عبارت یہ ہے

— استوی کا مفہوم یہ بیان کیا ہے۔ ﴿علی العرش استوی﴾ قهر، حفظ، و ابقی۔ (قواعد العقائد، ص ۱۶)، عرش پر مستوی ہوئے، یعنی اس پر قاہر ہوئے، اس کی حفاظت کی، اور اس کو باقی رکھا، انہوں نے یہ ترجمہ نہیں کیا کہ اللہ عرش پر مستقر ہوئے، یا مستوی ہوئے۔

### امام طحاویؒ کا مسلک

امام طحاویؒ نے یہ مسلک اختیار کیا ہے کہ عرش اور کرسی حق ہے، لیکن اللہ عرش اور کرسی سے بے نیاز ہے، انکی عبارت یہ ہے۔ و العرش و الكرسى حق، و هو عزو جل مستغنى عن العرش و ما دونه۔ (العقيدة الطحاوية، عقیدہ نمبر ۵۰۔ ۲۹، ص ۱۳)

ترجمہ۔ عرش اور کرسی حق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عرش اور کرسی سے بے نیاز ہے

یہ 6 جماعتیں اور 4 بزرگوں کی رائیں آپ کے سامنے ہیں، آپ خود بھی غور کریں

## یہ الفاظ بھی متشابہات میں سے ہیں

[۱] استوی علی العرش کے علاوہ، یہ ۹ الفاظ بھی متشابہات میں سے ہیں ابھی اوپر آیت گزری۔ لیس کمثله شیء۔ (آیت ۱۸، سورت الشوری ۲۲) ترجمہ۔ کوئی چیز اللہ کے مثل نہیں ہے، اس لئے کہ اللہ کے ہاتھ، چہرہ وغیرہ ہمارے ہاتھ چہرہ کی طرح نہیں ہو سکتے، ان کا حقیقی معنی اللہ ہی کو معلوم ہے، اس لئے یہ الفاظ اور اعضاء متشابہات میں سے ہیں، اور متشابہات میں زیادہ گھسنے سے آیت میں منع فرمایا ہے، اس لئے ان الفاظ پر ایمان رکھے، اور زیادہ گھسنے سے احتراز کرے مفسر حضرات نے موقع محل کے اعتبار سے ان الفاظ کا ترجمہ کیا ہے، جو حقیقی ترجمہ تو نہیں ہے، لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لئے ان جملوں کا قریب قریب مفہوم بیان کرنے کی کوشش کی ہے وہ نوع اضافی ہیں

[۱] اللہ کا ہاتھ

[۲] اللہ کا پیڑہ، وجہ اللہ

[۳] اللہ کا نفس

[۴] اللہ کی آنکھ

[۵] دائیں ہاتھ

[۶] انگلی

[۷] قدم

[۸] اللہ کا اترنا

[۹] حضرت آدم کو اپنی صورت پر بیدار کرنا

[۱] اللہ کے ہاتھ کے لئے یا آیتیں ہیں

30۔ وَ قَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلْتُ أَيْدِيهِمْ وَ لُعْنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَاتٍ  
يُنِفِّقُ كَيْفَ يَشَاءُ۔ (آیت ۲۶ سورت المائدۃ ۵)

ترجمہ۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بند ہے ہوئے ہیں، ہاتھ تو خود اکنے بند ہے ہوئے ہیں،  
اور جو بات انہوں نے کہی ہے اس کی وجہ سے ان پر لعنت الگ پڑی ہے ورنہ اللہ کے دونوں ہاتھ پوری  
طرح کشادہ ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے

31۔ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ، يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ۔ (آیت ۱۰، الفتح ۲۸)  
ترجمہ۔ اے پیغمبر جو لوگ تم سے بیعت کر رہے ہیں وہ درحقیقت اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا  
ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے

32۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلْكُوتُ كُلُّ شَيْءٍ۔ (آیت ۸۳، سورت آیتین ۳۶)  
ترجمہ۔ غرض پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے  
ان تین آیتوں میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے

[۲] اللہ کا وجہ یعنی چہرہ کے لئے یا آیتیں ہیں

33۔ وَ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تُولَّوْا فَشَمَّ وَ جَهَهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ (آیت  
۱۱۵، سورت البقرۃ ۲)۔ ترجمہ۔ اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کی ہیں لہذا جس طرف بھی تم رخ

کرو گے وہیں اللہ کا رخ ہو گا بیشک اللہ بہت وسعت والا بڑا علم رکھنے والا ہے  
 ۳۴۔ وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نُنْسَكُمْ ، وَ مَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهَ اللَّهِ (آیت ۲۲)  
 سورت البقرۃ (۲)۔ ترجمہ۔ اور جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے فائدے کے لئے ہوتا ہے ،  
 جبکہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے سوا کسی اور غرض سے خرچ نہیں کرتے ہو  
 ۳۵۔ وَ مَا أَتَيْتُمْ مِنْ زَكْوَةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ (آیت ۳۹)  
 سورت الروم (۳۰)۔ ترجمہ۔ اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو، تو جو  
 لوگ بھی ایسا کرتے ہیں وہ ہیں جو اپنے مال کوئی گناہ بڑھانے لیتے ہیں  
 ان تینوں آیتوں میں اللہ کے وجہ، یعنی چہرے کا ذکر ہے

### [۳] نفس کے لئے یہ آیت ہے

۳۶۔ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَ لَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ۔ (آیت ۱۱۶، سورت المائدۃ ۵)  
 ترجمہ۔ آپ وہ باتیں جانتے ہیں جو میرے دل میں پوشیدہ ہیں، اور میں آپ کی پوشیدہ باتوں کو نہیں  
 جانتا۔۔۔ اس آیت میں نفس کا ذکر ہے

### [۴] آنکھ کے لئے یہ آیت ہے

۳۷۔ وَ لِتَضْنَعَ عَلَى عَيْنِي۔ (آیت ۳۹، سورت طہ ۲۰)

ترجمہ۔ اور یہ سب اس لئے کیا تھا تاکہ تم میری نگرانی میں پروردش پاؤ۔ یہ حضرت موسیؑ سے کہا تھا  
 اس آیت میں عین، یعنی آنکھ کا ذکر ہے

[۵] پیغمبر کے، یعنی دامیں ہاتھ کے لئے یہ آیت ہے

۳۸۔ وَالسَّمْوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ۔ (آیت ۲۷، سورت الزمر ۳۹)

ترجمہ۔ اور سارے کے سارے آسمان اس کے دامیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے

[۶] انگلی کے لئے یہ حدیث ہے

۳۔ ان قلوب بني آدم كلها بين اصبعين من اصابع الرحمن۔ (مسند احمد، مسند عبد اللہ بن عمر

بن العاص، ج ۱۱، ص ۱۳۰، نمبر ۶۵۶۹)

ترجمہ۔ تمام ابن آدم کے دل رحمٰن کی انگلیوں میں ہیں

اس حدیث میں اللہ کی انگلیوں کا ذکر ہے

[۷] قدم کے لئے یہ حدیث ہے

۴۔ عن أبي هريرة ... يقال لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزيد؟ فيوضع الرب

تبارك و تعالى قدمه عليها فتقول فقط (بخاری شریف، کتاب سورۃ ق، اب قوله و تقول

هل من مزيد، ص ۸۵۸، نمبر ۲۸۲۹)

ترجمہ۔ جہنم سے پوچھا جائے گا کیا تم بھر گئی؟، تو جہنم کہے گی کہ اور بھی دیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنے

قدم کو رکھ دیں گے تو جہنم کہنے لگے گی، بس بس۔۔۔ اس حدیث میں اللہ کے قدم کا ثبوت ہے۔

[۸] اترنے کے لئے یہ حدیث ہے

۵۔ عن أبي هريرة ان رسول الله ﷺ قال ينزل ربنا عز و جل كل ليلة الى سماء

الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر۔ (ابوداؤد شریف، کتاب الطوع، باب ای اللیل افضل، ص

۷، نمبر ۱۳۱۵)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ ہمارا رب ہرات میں، جب تین پھر باقی رہ جاتا ہے تو سماء دنیا کی طرف اترتا ہے۔۔۔ اس حدیث میں اللہ کے اترنے کا ثبوت ہے۔

[۹] حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی صورت پر پیدا کیا ہے

6۔ عن ابی هریرۃ عین النبی ﷺ قال خلق الله آدم علی صورته طوله ستوں

ذراعا۔ (بخاری شریف، کتاب لاستذان، باب بدء السلام، ص ۱۰۸۲، نمبر ۶۲۲۷ مسلم شریف، کتاب الجنة و نجحها، باب یخل الجنة توأم آنہم مثل آنہم ذا الطیر، ص ۱۲۳۲، نمبر ۲۸۷۱)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، ان کی اونچائی ساٹھ ہاتھی

اس حدیث میں ہے کہ حضرت آدم کو اللہ نے اپنی صورت پر پیدا کیا ہے

یا الفاظ تشاہرات میں سے ہیں، اس کے اندر کے معنی نکالنے میں زیادہ نہ پڑیں۔

اس عقیدے کے بارے میں 38 آیتیں اور 6 حدیثوں میں آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

## ۲۸۔ قلم کیا چیز ہے

اس عقیدے کے بارے میں 4 آیتیں اور 2 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے لکھنے کے لئے قلم پیدا کیا، اور اس کو لکھنے کے لئے کہا، تو اس نے وہ تمام چیزیں لکھ دیں جو اس کو لکھنے کے لئے کہا گیا۔ لیکن اس کی کیفیت کیا ہے یہ معلوم نہیں ہے، یہ اللہ ہی جانے

اس کے لئے آیتیں یہ ہیں

۱۔ نَ وَ الْقَلْمُ وَ مَا يَسْطُرُونَ۔ (آیت ۱، سورت القلم ۶۸)

ترجمہ۔ ن، اے پیغمبر قلم ہے قلم کی، اور اس چیز کی جو وہ لکھ رہے ہیں

۲۔ أَقْرَءَ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلِمَ بِالْقَلْمِ۔ (آیت ۹۶، سورت العلق ۹۶)

ترجمہ۔ پڑھو، اور تمہارا رب سب سے زیادہ کرم والا ہے، جس نے قلم سے تعلیم دی

۱۔ قال عباده بن الصامت لابنه ..... سمعت رسول الله ﷺ يقول ، ان اول ما خلق الله تعالى القلم ، فقال له اكتب فقال رب و ماذا اكتب ؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة ، يا بني انى سمعت رسول الله ﷺ يقول من مات على

غیر هذا فليس مني۔ (ابوداودشریف، کتاب السنۃ، باب فی القدر، ص ۲۶۲، نمبر ۷۰۰ رترنڈی شریف، کتاب القدر، باب اعظام امرا لا یامان بالقدر، ص ۲۹۵، نمبر ۲۱۵۵)

ترجمہ۔ حضرت عبادہ بن ثابت نے اپنے بیٹے سے کہا۔ حضور ﷺ سے میں نے کہتے ہوئے سناء اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اس سے کہا کہ لکھو، قلم نے کہا میرے رب میں کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا کہ، قیامت کے قام ہونے تک ہر چیز کی تقدیر لکھو، پھر حضرت عبادہ بن صامت نے کہا، اے بیٹے میں نے حضور ﷺ سے یہ سنائے ہے جو اس تقدیر کے علاوہ پرمرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی مسلمان نہیں ہے۔

ان آئیوں اور حدیث سے پتہ چلا کہ قلم اللہ کی کوئی خاص چیز ہے جسکو سب سے پہلے پیدا کیا اور قیامت تک اور اس کے بعد آنے والی تمام باتوں کو لکھنے کا حکم دیا، اور قلم نے ان تمام باتوں کو لکھ دیا، لیکن یہ قلم ہمارے قلم کی طرح نہیں ہے، یہ کیسا ہے اس کو اللہ ہی جانتا ہے۔

## لوح کیا چیز ہے

لوح کا معنی تختی کے ہے، لیکن یہ کیسا لوح ہے اس کو اللہ ہی جانتا ہے۔ شیاطین اور جنات اس لوح تک نہیں پہنچ سکتے کہ اس میں تبدیل یا تحریف کر سکیں، اسی لوح میں قرآن کریم محفوظ تھا، اور ابھی بھی ہے،

اس سے نکال کر کے حضور پاک ﷺ پر اتارا گیا جاؤ ج ہمارے سامنے موجود ہے

3۔ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ۔ (آیت ۲۲، سورت البروج ۸۵)

ترجمہ۔ بلکہ یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے

4۔ إِنَّهُ لِقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْتُونٍ۔ (آیت ۷۷، سورت الواقعہ ۵۶)

ترجمہ۔ یہ بڑا وقار قرآن ہے جو ایک محفوظ کتاب میں پہلے سے درج ہے

2۔ عن عمران ن حصین قال قال رسول الله ﷺ ... قال كان الله قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء، و كتب في اللوح ذكر كل شيء - (مسند احمد، حدیث عمران بن حصین، ج ۳۳، ص ۷، نمبر ۱۹۸۷۶)

ترجمہ۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تھا، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا، اور ہر چیز کا ذکر لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا۔

ان آیات اور حدیث سے پتہ چلا کہ قرآن لوح محفوظ میں تھا، وہاں سے پھر حضور ﷺ پر اتارا گیا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ لوح محفوظ میں ہر چیز کا ذکر ہے۔

اس عقیدے کے بارے میں 4 آیتیں اور 2 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

## ۲۹۔ ایمان کی تفصیل

اس عقیدے کے بارے میں 14 آیتیں اور 6 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

### چھ چیزوں پر ایمان ہو تو آدمی کو مومن قرار دیا جائے گا

ان چھ چیزوں میں سے کسی ایک کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، لیکن اگر ان چھ چیزوں میں سے کسی ایک کا انکار نہیں کرے گا تو وہ کافرنہیں ہو گا، وہ مسلمان ہی رہے گا، اس لئے ذرا ذرا سی بات پر کافر کا فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔

- [۱] اللہ پر ایمان ہو
- [۲] رسول پر ایمان ہو
- [۳] کتاب یعنی قرآن کریم پر ایمان ہو
- [۴] فرشتہ پر ایمان ہو
- [۵] آخرت کے دن پر ایمان ہو
- [۶] اور تقدیر پر ایمان ہو تو وہ مومن ہے

## عقیدۃ الطحاویۃ میں ہے

کہ ان چھ چیزوں پر ایمان ہونا ضروری ہے

- وَالْإِيمَانُ، هُوَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرَسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَ  
القدر خیرہ و شرہ، و حلوہ و مرہ، (عقیدۃ الطحاویۃ، عقیدہ نمبر ۲۶، ج ۱۵)

ترجمہ۔ اللہ پر ایمان ہو، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر کہ  
خیر اور شر، اچھا اور خراب سب اللہ کی جانب سے ہے، اس پر ایمان ہو  
اس عبارت میں ہے کہ چھ چیزوں پر ایمان لانے سے آدمی مومن بتا ہے

ان چھ باتوں کی دلیل یہ ہیں۔

آیت یہ ہے

۱- أَمَنَ الرُّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ أَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَ  
رُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ۔ (آیت ۲۸۵، سورت البقرۃ)

ترجمہ۔ یہ رسول (محمد ﷺ) اس چیزوں پر ایمان لائے ہیں جو ان پرانے رب کی طرف سے نازل کی گئی  
ہے، اور ان کے ساتھ تمام مسلمان بھی ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر  
، اس کی کتابوں پر، اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم انکے رسولوں کے  
درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے [کسی پر ایمان لا سیں اور کسی پر ایمان نہ لا سیں] [

اس آیت میں چار چیزوں پر ایمان لانے کا ذکر ہے۔



## اللہ پر ایمان کا مطلب

اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانے کافر۔۔۔ اب کوئی اللہ کو، خالق مانتا ہی نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ پوری دنیا خود بخود پیدا ہو گئی ہے، جیسے دہریہ کہتے ہیں، یا اس زمانے کے ناستک کہتے ہیں، تو ایسے آدمی کو، کافر، کہتے ہیں مشرک۔۔۔ اور اگر خدا کو تو مانتا ہے، دنیا کو پیدا کرنے والا مانتا ہے، لیکن کئی خدا مانتا ہے تو اس کو، مشرک، کہتے ہیں۔۔۔ باقی تفصیل شرک کی بحث میں دیکھیں

## کتاب، قرآن، کو ماننے کا مطلب

قرآن ماننے کی تین صورتیں

- [۱] قرآن کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہر ہر آیت کو مانے کہ یہ اللہ کی جانب سے اتری ہوئی آیت ہے، ان میں سے ایک آیت کا بھی انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا
- [۲] صریح آیت سے کوئی حکم ثابت ہو تو اس کو مانا بھی ضروری ہے، اس سے انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا

مثلاً نماز، روزہ صریح آیت سے ثابت ہے اس لئے اس کا انکار کرے گا، مثلاً یہ کہ میں نماز کو نہیں مانتا، یا روزے کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے آیت کا انکار کر دیا فقر کی کتابوں میں اسی بات کو کہا ہے کہ امور دینیہ کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، یعنی وہ امور دینیہ جو صریح آیت سے ثابت ہو تو اس کو انکار کرنے سے آیت کا انکار کرنا لازم آتا ہے اس لئے اب وہ کافر ہو گا

لیکن کوئی آدمی مانتا ہے کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہے، یا روزہ نہیں رکھتا ہے، تو یہ اب کافر نہیں ہو گا، البتہ اس کو فاسق کہا جائے گا۔

## مغلق آیت کی تفسیر ماننے کا اصول

[۳] تیسری صورت یہ ہے کہ، آیت مغلق ہے، اس کا معنی واضح نہیں ہے، اور کسی صریح حدیث میں اس کا معنی بیان بھی نہیں ہوا ہے، اب دو مفسروں نے دو معنی بیان کئے ہیں، اب ایک آدمی آیت کو تو مانتا ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے اتری ہوئی آیت ہے، لیکن ایک تفسیر کو مانتا ہے، اور دوسری تفسیر کے اعتبار سے جو معنی بتاتا ہے، یادوسری تفسیر کے اعتبار سے جو حکم بتاتا ہے وہ نہیں مانتا ہے، تب بھی یہ آدمی کافر نہیں بنے گا، کیونکہ اس نے آیت کو تو مانا ہے، البتہ اس کی مغلق تفسیر کو نہیں مانا، اس لئے وہ کافر نہیں بنے گا، یہ اصول یاد رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ بہت سے مسلک والے ایسا کرتے ہیں کہ مجہنم آیت کا معنی اپنی تفسیر کے اعتبار سے کرتے ہیں، اور دوسرے مسلک والے اس کو نہیں مانتے ہیں تو اس کو کافر قرار دے دیتے ہیں، اور اتنا تشدد کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور کوئی اس کا نماز جنازہ پڑھادے تو جنازہ پڑھانے والے، اور جنازہ پڑھنے والے سب کو کافر قرار دے دیتے ہیں اور ان سب کا نکاح توڑ وادیتے ہیں۔

اس نکتے پر غور کریں، کہ ایسے فتوے سے مسلمان کتنے نکلوں میں بٹ گئے، اور آج مسلمانوں کا کیا حشر بنا ہوا ہے۔

آیت کے انکار سے کافر ہو جائے گا اس کے لئے آئیں یہ ہیں

۳۔ انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (آیت ۲، سورت آل عمران ۳)

ترجمہ۔ پیش جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، ان کے لئے سخت عذاب ہے

۴۔ وَ مَنْ يَكْفُرُ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (آیت ۱۹، سورت آل عمران ۳)

ترجمہ۔ اور جو شخص بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے گا تو اسے یاد رکھنا چاہئے کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا

ہے

۵۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْبَيِّنَاتِ بَغْيًا حَقًّا۔ (آیت ۲۱، سورت آل عمران ۳)

ترجمہ۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں [ان کو دردناک

عذاب کی خبر سناؤ۔]

۶۔ وَ لَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ (آیت ۳۳، سورت الانعام ۶)

ترجمہ۔ بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں

ان ساری آیتوں میں ہے کہ جو اللہ کی آیتوں کو نہیں مانے گا وہ کافر ہے

اور آیت کے انکار کا مطلب پہلے گزرا کر قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار کرے، یا آیت سے جو صریح حکم

ثابت ہوتا ہوا س سے انکار کرنے سے آدمی کافر بنے گا

## کتابوں اور رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب

آیت میں، وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ۔ (آیت ۲۸۵، سورت البقرۃ ۲)، جمع کا صیغہ آیا ہے، اس کا مطلب دیکھیں

کتبہ۔ آیت میں کتبہ، جمع کا صیغہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جتنی کتابیں اتاری ہیں وہ سب برحق ہیں، ہم ان سب پر ایمان رکھیں کہ وہ کتابیں اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے رہنمائی کے لئے کافی تھیں، اور ان میں بھی، اوپر کے ایمان کے وہ چھ جزو موجود تھیں، جن پر ہم کو ایمان لانا ضروری ہے، البتہ انکے جزیاتی مسائل الگ الگ تھے، اب اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ مسائل اب منسوخ ہو گئے ہیں، اب تو حضورؐ کی شریعت ہی پر عمل کرنا ہوگا

ان تمام آسمانی کتابوں کا احترام کریں، اور ان سے دل سے محبت کریں و رسولہ۔ آیت میں رسولہ، جمع کا صیغہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمام رسولوں پر ایمان رکھیں کہ وہ اپنے اپنے زمانے میں برحق رسول، اور نبی تھے، اور ان کی شریعت برحق تھی، ان میں ایمان کے جو چھ جز ہیں [اللہ، رسول، کتاب، فرشتہ، آخرت، اور تقدیر پر ایمان لانا] یہ تمام نبیوں میں ایک ہی تھے، البتہ انکے جو جزیاتی مسئلے تھے، مثلاً نماز کے طریقے، روزے کے طریقے، یا الگ الگ تھے، اس لئے انکے جزیاتی مسئلے پر اب عمل نہیں کریں گے، اور چھ جزو پر ہمارا ایمان ہوگا، ہی

پچھلے رسولوں کی شریعت میں تھا کہ ان چھ چزوں پر ایمان لانا ضروری ہے

اس کی دلیل یہ آیت ہے

—امَنَ الرُّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ، كُلُّ أَمَنَ بِاللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ۔ (آیت ۲۸۵، سورت البقرۃ)

ترجمہ۔ یہ رسول [یعنی محمد ﷺ] اس چیز پر ایمان لائے جوان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے، اور ان کے ساتھ تمام مسلمان بھی۔ یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اس آیت میں ہے کہ پچھلے تمام رسولوں کی شریعت میں اللہ تمام رسول، فرشتے، اور تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری تھے

ان تمام رسولوں پر ایمان بھی رکھیں کہ وہ برحق رسول، اور برحق نبی تھے، اور ان کا احترام کرنا بھی لازم ہے، اور ان سے دل سے محبت بھی کریں، اس میں ادنیٰ برابر کی کوتا ہی کرنا جائز نہیں ہے، یہی اسلام کی تعلیم ہے

ان چھ چیزوں میں سے کسی ایک کا انکار کرے گا

### تودہ کافر ہو جائے گا

ان چھ چیزوں میں سے کسی ایک کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، لیکن اگر ان چھ چیزوں میں سے کسی ایک کا انکار نہیں کرے گا تو وہ کافر نہیں ہو گا، وہ مسلمان ہی رہے گا، اس لئے ذرا ذرا سی بات پر کفر کا فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔

اس کی دلیل عقیدۃ الطحاویۃ کی یہ عبارت ہے

وَ لَا يُخْرِجُ الْعَبْدَ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا بِجَهُودِ مَا أَدْخَلَهُ اللَّهُ فِيهِ۔ (عقیدۃ الطحاویۃ، عقیدہ نمبر

(۱۵) ص ۶۱)

ترجمہ۔ اللہ نے جن چیزوں پر ایمان رکھنے سے ایمان میں داخل کیا اسی کے انکار سے وہ ایمان سے نکلے گا

اس عبارت میں ہے کہ جب ان چھ باتوں کے اقرار سے آدمی مسلمان ہوتا ہے، اس لئے اسی میں سے کسی ایک کے انکار سے وہ ایمان سے نکلے گا، لیکن اگر ان میں سے کسی ایک کا انکار نہیں کرتا تو وہ مومن ہی رہے گا، اسی طرح گناہ کبیرہ کرنے سے وہ کافر نہیں ہو گا، ہاں گناہ کبیرہ کرنے کو حلال سمجھنے لگتے ہی رہے گا، کیونکہ گناہ کبیرہ کو حلال سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ کبیرہ والی آیت کا انکار کر رہا

ہے۔

## دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرنے کا نام ایمان ہے

ایمان کے لئے جو چھ باتیں ضروری ہیں ان سب کو دل سے تصدیق کرے، اور زبان سے بھی اس کا اقرار کرے کہ میں مسلمان ہوں تب وہ مومن بنے گا، اور اگر وہ دل سے تصدیق نہیں کرتا صرف زبان سے اس کا اقرار کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے، شریعت میں اس کو منافق، کہتے ہیں، اور بعض کتاب میں بھی ہے کہ اعضاء سے اس پر عمل کرے

زبان سے اقرار اس لئے ضروری ہے تاکہ اس پر دنیاوی احکام جاری کئے جائیں، مثلاً: اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے، اس سے مسلمان عورت کا نکاح کیا جائے، کیونکہ اسلام کا اقرار نہیں کرے گا تو اہل دنیا کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ مسلمان ہے، اور اس پر اسلامی احکامات جاری کئے جائیں

عقیدۃ الطحاویہ میں عبارت یہ ہے

و الايمان هو الاقرار باللسان ، و التصديق بالجنان - (عقیدۃ الطحاویہ، عقیدہ، نمبر ۶۲، ص ۱۵)

ترجمہ۔ زبان سے اقرار کرنا، اور دل سے تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے  
اس عبارت میں ہے کہ دل سے تصدیق کرنا، اور زبان سے اس کا اقرار کرنے کا نام ایمان ہے

## قتل کے خوف سے ایمان کا انکار

اگر دل میں ایمان موجود ہے، لیکن قتل کے خوف سے زبان سے اللہ کا انکار کیا تب بھی وہ مومن ہی رہے گا، کیونکہ اصل ایمان دل میں اللہ کو ایک ماننا ہے۔ اس کی دلیل یہ آیت ہے۔

7۔ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانَهُ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمِئِنٌ بِالْإِيمَانِ وَ لَكُنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفُرِ صَدِرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (آیت ۱۰۶، سورت الحلقہ ۱۶)

ترجمہ۔ جو شخص اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کے ساتھ کفر کا ارتکاب کرے [تو وہ کافر ہے] وہ کافر نہیں ہے جس کو زبردست کلمہ کفر کہنے پر مجبور کر دیا گیا ہو، جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، بلکہ وہ شخص جس نے اپنا سینہ کفر کے لئے کھول دیا ہو [تو وہ کافر ہو گیا] تو ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے غصب نازل ہوگا، اور ان کے لئے زبردست عذاب تیار ہے۔

ان آیات میں دو باتیں ہیں [۱] دل سے ایک اللہ کو نہیں مانتا ہوتا تو زبان سے کہنے سے بھی وہ اللہ کے یہاں مومن نہیں ہے۔ [۲] اور دوسری بات یہ ہے کہ دل میں ایمان جما ہوا ہے، لیکن کسی مجبوری سے زبان سے اللہ کا انکار کیا تو وہ مومن ہے، اس پر کفر کا فتوی لگانا صحیح نہیں ہے۔

8۔ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانُ - (آیت ۲۲، سورت الجادلة ۵۸)

ترجمہ۔ یہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دل میں اللہ کی توحید کے جم جانے کا نام اصل ایمان ہے۔

3۔ عن انس عن النبی ﷺ قال يخرج من النار من قال لا اله الا الله و في قلبه وزن

شعیرة من خير۔ (بخاری شریف، کتاب الایمان، باب زیادة الایمان و نقصانه، ص ۱۰، نمبر ۳۲)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ جس نے، لا اله الا الله، کہا اور اس کے دل میں جو کہ برابر ایمان ہے تو  
وہ جہنم سے نکلا جائے گا

4۔ عن انس بن مالک قال قال رسول الله ﷺ..... ثم يخرج من النار من قال لا  
الله الا الله و كان في قلبه من الخير ما يزن ذرة۔ (مسلم شریف، کتاب الایمان، باب ادنی  
اہل الجنة منزلة فيها، ص ۱۰۲، نمبر ۳۸۷۸، بر بخاری شریف، باب کتاب التوحید، باب کلام الرب  
تعالیٰ یوم القيمة مع الانبياء وغيرهم، ص ۱۲۹۳، نمبر ۵۱۰)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ۔۔۔ جس نے، لا اله الا الله، کہا اور اس کے دل میں ذرہ برابر خیر، یعنی  
ایمان ہے تو وہ جہنم سے نکلا جائے گا

ان آیات اور احادیث سے معلوم ہوا کہ ذرہ برابر دل میں ایمان ہو تو جنت میں داخل ہو گا، جس کا  
مطلوب یہ ہے کہ دل کے تصدیق کا نام اصل ایمان ہے۔

## ہم دل کی تفتیش کرنے کے مکلف نہیں ہیں

اگر زبان سے ایمان کا اقرار کرتا ہے تو ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ تفتیش کریں کہ اس نے دل  
سے کہا کہ نہیں کہا، بلکہ ہم اس کو مون مان کر اس پر اسلام کے احکام جاری کر دیں گے، ہاں اگر وہ  
ظاہری طور پر کفر یا شرک کا عمل کرتا ہے تو اب اس کو کافر مانا جائے گا، مثلاً وہ ایمان کا اقرار بھی کرتا ہے  
اور بتول کے سامنے سجدہ بھی کرتا ہے تو اب اس کو کافر سمجھا جائے گا، کیونکہ عمل کے اعتبار سے اس نے

کفر کیا ہے

دل کی تفتیش کرنے کا ہم مکف نہیں اس کے لئے حدیث یہ ہے

5۔ عن اسامة بن زید .... فادر کت رجلا فقال لا الله الا الله فطعنته فوقع فى نفسى من ذالك فذكرته للنبي ﷺ فقال رسول الله ﷺ أقال لا الله الا الله و قلتته؟ قال قلت يا رسول الله انما قالها خوفا من السلاح قال افلا شفقت عن قلبه حتى تعلم أقالها ام لا ، فما زال يكررها على حتى تميّنت انی اسلمت يومیڈ - (مسلم شریف، کتاب الایمان، باب تحریم قتل الکافر بعد قوله لا الہ الا اللہ، ص ۵۶، نمبر ۲۷۷، ابو داود شریف، کتاب الجہاد، باب علی ما یقتل المشرکون، ص ۳۸۱، نمبر ۲۶۲)

ترجمہ۔ حضرت خالد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی سے ملا، تو وہ، لا الہ الا اللہ، کہنے لگا میکن پھر بھی میں نے اس کو قتل کر دیا، میرے دل میں اس کے بارے میں بات آئی تو میں نے نبی ﷺ کے سامنے اس کا ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا کہ، لا الہ الا اللہ، کہا پھر بھی آپ نے اس کو قتل کر دیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ اس نے ہتھیار کے ڈر سے ایسا کہا تھا، تو حضور نے فرمایا، کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا! تاکہ تم جان لو کہ اس نے سچ کہا تھا نہیں، اور اس بات کو بار بار دہراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے تمہاں کی کہ آج ہی مسلمان ہوتا تو اچھا تھا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہا تو آگے دل میں ایمان ہے یا نہیں اس کی تفتیش کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ جانے، ہم اس کو مسلمان جانیں گے اور اس پر اسلامی احکام جاری کریں گے آج کل ذرا ذرا سی بات پر لوگ دوسروں کو کافر، اور مشرک ہونے کا فتوی دے دیتے ہیں، اور اس پر تشدد کرتے ہیں یہ بات حدیث کے خلاف ہے۔

## ایمان کا ایک حصہ عمل کرنا بھی ہے

ایمان کا ایک حصہ عمل کرنا بھی، اسی لئے بعض کتاب میں، و العمل بالارکان، بھی لکھا ہوا ہے کہ۔  
البته ایک بات ضرور ہے کہ اصل ایمان کے خلاف عمل کرے گا تو اس کو فرشتار کر دیا جائے گا، مثلاً آیت  
میں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرو، اور اس نے بتوں کے سامنے سجدہ کر دیا، تو اس عمل سے وہ کافر  
ہو جائے گا، کیونکہ اس نے صریح آیت کے خلاف عمل کیا  
عمل کی دلیل یہ آیت ہے

۹۔ وَ إِنِّي لَغَافِرٌ لِمَنْ تَابَ وَ أَمْنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى۔ (آیت ۸۲، سورت ط ۲۰)۔  
ترجمہ۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے، اور نیک عمل کرے پھر سیدھے راستے پر  
قائم رہے تو میں اس کے لئے بہت بخشنے والا ہوں

۱۰۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ (آیت ۳، سورت العصر ۱۰۳)  
ترجمہ۔ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں، اور نیک عمل کریں [تو وہ نقصان میں نہیں ہیں  
۱۱۔ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ (آیت ۲۲،  
سورت البقرة ۲)

ترجمہ۔ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے، اور نیک عمل کریں گے وہ اپنے رب کے  
پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے  
ان آیتوں میں ہے کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے، جس سے معلوم ہوا کہ نیک عمل کرنا بھی ایمان کا  
 حصہ ہے۔

ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ دو آیتوں کا مجموعہ ہے۔

کلمہ طیبہ دو آیتوں کا مجموعہ ہے ایک ہے، لا الہ الا اللہ، اور دوسرا ہے، محمد رسول اللہ۔  
اس آیت میں اس کی دلیل ہے

۱۲۔ فَاغْلُمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ۔ (آیت ۱۹، سورت محمد ۲۷)

ترجمہ۔ اس لئے اے پیغمبر یقین جانو! کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اپنے قصور پر بھی خشنش کی دعائیں لگاتے رہو

۱۳۔ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ۔ (آیت ۳۵، سورت الصافات ۳۷)

ترجمہ، ان کا حال یہ تھا کہ جب ان سے یہ کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو یہ اکڑ دکھاتے تھے ان دونوں آیتوں میں، لا الہ الا اللہ، کا ذکر ہے

اور رسول اللہ کے لئے یہ آیت ہے

۱۴۔ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحْمَاءُ بَيْنَهُمْ (آیت ۲۹،

سورت الفتح ۲۸) ترجمہ۔ محمد ﷺ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے

مقابلے میں سخت ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے لئے رحم دل ہیں

۶۔ عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ بنی الاسلام على خمس ، شهادة ان لا

الله الا الله ، و ان محمد رسول الله۔ (بخاری شریف، کتاب الایمان، باب قول النبی، بنی

الاسلام على خمس، ص ۵، نمبر ۸)

ترجمہ۔ حضور نے فرمایا، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، شہادۃ ان لا الہ الا اللہ، و ان محمد رسول اللہ۔

اس عقیدے کے بارے میں ۱۴ آیتیں اور ۶ حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

## ۳۰۔ تقدیر

اس عقیدے کے بارے میں 2 آیتیں اور 6 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کسی کی قسمت میں ایک چیز لکھ دی ہے وہ ہو کر رہے گی۔ اللہ نے ہر آدمی کی تمام باتوں کو پہلے سے لکھ دیا ہے، پھر جو آدمی نیک جنت ہے وہ اپنی خوشی سے، اور اپنی چاہت سے نیک کام کرتا رہتا ہے، اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اور بدآدمی اپنی چاہت سے اور اپنے اختیار سے برا کام کرتا رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوتا ہے، یہ داخل ہوا اپنے عمل سے،  
 اگرچہ تقدیر میں پہلے سے لکھا تھا۔  
 آدمی کو اس پر ایمان رکھنا چاہئے، ایمان کے چھا اجزاء میں سے ایک جز تقدیر بھی ہے

اس کے لئے آیتیں یہ ہیں

۱۔ وَمَا يَعْزِبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مُثْقَالٍ ذَرَّةٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ (آیت ۲۱، سورت یونس ۱۰)

ترجمہ۔ اور تمہارے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، نہ اس سے چھوٹی، نہ بڑی، مگر وہ ایک واضح کتاب میں درج ہے

۲۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِي الرُّبُّ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ۔ (آیت ۵۲۔ ۵۳، سورت القمر ۵۲) ترجمہ۔ اور جو جو کام انہوں نے کئے ہیں وہ سب اعمال ناموں میں درج ہیں، اور ہر چھوٹ اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے

ان آیتوں میں تقدیر کا تذکرہ ہے، اس لئے تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے

۱۔ وَقَالَ عَزِيزٌ اللَّهُ أَوْلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلْمَ فَقَالَ لَهُ أَكْتُبْ فَقَالَ الْقَلْمَ مَا ذَا أَكْتُبْ يَا رَبْ؟ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَكْتُبْ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ (ابوداؤ شریف، نمبر ۷۴۰۰ رترمذی شریف، نمبر ۲۱۵۵)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور اس کو کہا لکھو، قلم نے کہا اے رب میں کیا لکھوں، اللہ نے فرمایا، قیامت تک جتنی باتیں ہونے والی ہیں سب لکھو

۲۔ عن عبد الله بن عمر بن العاص قال سمعت عمر بن العاص قال سمعت رسول الله عزيلله يقول كتب الله مقادير الخالائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة قال عروشه على الماء۔ (مسلم شریف، باب ججاج آدم وموسى، ص ۱۱۵۶، نمبر ۲۶۵۳، ۲۶۲۸)۔ ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ، زمین اور آسمان کے پیدا ہونے سے پچاس ہزار سال پہلے اللہ نے مخلوق کی تقدیر لکھ دی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا

3- عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله ﷺ لا يومن عبد حتى يومن بالقدر  
خيره و شره حتى يعلم ان ما اصحابه لم يكن ليخطئه ، و ان ما اخطأه لم يكن ليصييه -  
(ترمذی شریف، باب ماجاء ان الیمان بالقدر خیره و شره، ص ۲۹۳، نمبر ۲۱۲۷)

ترجمہ۔ حضور نے فرمایا کہ، تقدیر میں جو خیر اور شر کھا ہوا ہے، اس پر جب تک ایمان نہ رکھے، آدمی مومن نہیں بن سکتا، یہ بھی جان لے کہ جو اس کو پہنچنا ہے، وہ بھی خطانہیں کر سکتا، اور جو اس کو نہیں پہنچنا ہے، اس میں بھی غلطی نہیں ہوگی، یہ یقین کر لے

ان احادیث اور آیات میں ہے کہ تقدیر حق ہے، اور اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔

## [ا] تقدیر مبرم۔ [۲] اور تقدیر معلق

تقدیر کی دو قسمیں ہیں۔ تقدیر مبرم، اور تقدیر معلق

تقدیر مبرم۔۔۔ کام مطلب یہ ہے کہ یہ تقدیر بدلتی نہیں ہے جتنی ہے، جیسے زید کی تقدیر میں لکھ دیا کہ وہ پچاس سال کی عمر میں مرے گا، تو یہ طے ہے کہ وہ پچاس سال کی عمر میں مرے گا۔  
دوسری ہے، تقدیر معلق۔۔۔ کام مطلب یہ ہے کہ کسی کام کے کرنے پر وہ معلق ہے، اور اس کام کے کرنے پر تقدیر بدل سکتی ہے، مثلاً یہ کہے کہ اگر آپ نے ماں کی خدمت کی تو اس سے آپ کی عمر بڑھ جائے گی، تو یہاں خدمت سے عمر بڑھی، یہ تقدیر معلق ہے۔ لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ یہ آدمی ماں کی خدمت کرے گا یا نہیں، اور اس کی عمر بڑھے گی یا نہیں ہے، یہ تقدیر مبرم ہے  
لیل؛ تقدیر معلق کی لیل یہ حدیث ہے

4- عن سلمان قال قال رسول الله ﷺ : لا يرد القضاء الا الدعاء ، و لا يزيد

العمر الا البر - (ترمذی شریف، باب ما جاء لا يريد القدر الا الدعاء، ص ۲۹۲، نمبر ۲۱۲۹)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ دعا ہی اللہ کے فیصلے کو بدلتی ہے، اور یہی ہی عمر کو زیادہ کرتی ہے اس حدیث میں ہے کہ دعا کی وجہ سے اللہ کا فیصلہ بدل سکتا ہے، یا یہی کرنے کی وجہ سے عمر زیادہ ہو سکتی ہے، یہ بات تقدیر معلق میں ہوتی ہے، البتہ وہ ایسا کرے گا یا نہیں کرے گا یہ بات اللہ کے علم میں حتی طور پر موجود ہے، جس کو تقدیر مبرم، کہتے ہیں

## جو جیسا ہوتا ہے ویسا، ہی کام کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے

حضورؐ نے فرمایا کہ تقدیر حق ہے، لیکن جو آدمی نیک ہوتا ہے اس کو نیکی کے کام کرنے کی توفیق ہوتی رہتی ہے، اور وہ اپنے نیک کام کی وجہ سے جنت میں جائے گا، اور جو بد ہے اس کو برا کام کرنے کی توفیق ہوتی رہتی ہے، پھر وہ برعکس جہنم میں جائے گا اس کے لئے حدیث یہ ہے

5۔ عن علیؓ قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد .... قال ما منكم من أحد ، ما من نفس منفوحة الا كتب مكانها من الجنة و النار و الا كتب شقية او سعيده فقال رجل يا رسول الله أفلان توكل على كتابنا وندع العمل ؟ فمن كان منا من اهل السعادة فسيصير الى عمل اهل السعادة ، واما من كان منا من اهل الشقاوة فسيصير الى عمل اهل الشقاوة ،

قال اما اهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، واما اهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة ، ثم قرأ ﴿فَمَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَ أَتَقَىٰ وَ صَدَقَ بِالْحُسْنَىٰ﴾ [آیت ۵-۶، سورت اللیل ۹۲] (بخاری شریف، کتاب الجنائز، باب موعظة الحدث عند القبر و تعود أصحابه حوله، ص ۲۱۸، نمبر ۱۳۶۲)

ترجمہ۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ ہم جنتِ بقیع میں ایک جنازے میں تھے۔ حضورؐ نے فرمایا کہ، ہم میں سے جتنے بھی نفس ہیں اس کی گلگہ جنت یا جہنم میں لکھی ہوئی ہے، اور ہر ایک کا نیک اور بد لکھا ہوا ہے، ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ، ہم اپنے لکھے ہوئے پر بھروسہ کر لیں؟ اور عمل نہ چھوڑ دیں، تاکہ جو

ہم میں سے نیک لوگ ہوں وہ خود نیک عمل کی طرف چلے جائیں، اور ہم میں سے جو بد لوگ ہوں وہ خود ہی بد عمل کی طرف چلے جائیں، تو آپ نے فرمایا نیک آدمی کے لئے نیک کام آسان ہو جاتا ہے، اور برے آدمی کے لئے برا کام آسان ہو جاتا ہے، پھر حضور نے یہ آیت پڑھی، ﴿فَإِنَّمَا مَنْ أُعْطَى وَأَتُقْرَبَ إِلَيْهِ بِالْحُسْنَى﴾ [آیت ۵-۶، سورت اللیل ۹۶]

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس کی تقدیر میں نیکی لکھی ہے وہ نیک عمل ہی کرتا رہے گا، اوجس کی تقدیر میں بر الکھا ہے وہ برا کام ہی کرتا رہتا ہے

## تقدیر کے بارے میں زیادہ بحث نہیں کرنی چاہئے

تقدیر کا سچھنا مشکل ہے اس لئے اس بارے میں زیادہ بحث کرنے سے منع کیا ہے، حدیث یہ ہے 6- عن ابی هریرۃ قال خرج علینا رسول الله ﷺ وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِي الْقَدْرِ فَغَضَبَ حَتَّى احْمَرَ وَجْهَهُ حَتَّى كَانَمَا فَقِيَءَ فِي وَجْنَتِي الرَّمَانَ ، فَقَالَ : أَبَهْذَا أَمْرَتَمِ امْ بِهَذَا أَرْسَلْتَ إِلَيْكُمْ؟ انْمَا هَلْكَ مِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِينَ تَنَازَعُوا فِي هَذَا الْأَمْرِ ، عَزَّمْتَ عَلَيْكُمْ عَزَّمَتْ عَلَيْكُمْ إِلَّا تَنَازَعُوا فِيهِ - (ترمذی شریف، باب ماجاء فی التَّشَدِيدِ فِي الْقَدْرِ، ص ۲۹۰، نمبر ۲۱۳۳) ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ہم تقدیر کے بارے میں بھگڑھر ہے تھے کہ ہمارے سامنے حضور شریف لائے، تو حضور اتنے غصے ہوئے کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، ایسا لگتا تھا کہ آپ کے چہرے پرانا رچھاڑ دیا گیا ہو، اور کہنے لگے کہ کیا تم لوگوں کو اس کا حکم دیا گیا ہے، کیا اس کے لئے میں معوث ہوا ہوں، تم سے پہلے جو لوگ اس بارے میں بھگڑھے تو وہ ہلاک ہو گئے، تم کو بار بار زور دیکر کہتا ہوں کہ تقدیر کے بارے میں ہرگز نہ بھگڑھا کرو۔

## ۳۱۔ استطاعت، خلق اور کسب، کیا ہیں

اس عقیدے کے بارے میں 8 آیتیں اور 2 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

اس باب میں تین باتیں ہیں۔ خلق، استطاعت، اور کسب  
ان تینوں کو سمجھنا ضروری ہے

### استطاعت کیا ہے

استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کرنے کی آپ کے پاس ساری سہولیں موجود ہوں، تمام اسباب  
مہیا ہوں، اسی پر اللہ کے حکم کا مدار ہے

احکام بجالانے کے لئے یہ چار باتیں ہوں تو اس کو، استطاعت، کہتے ہیں  
[۱]۔ اس آدمی کی صحت اتنی اچھی ہو کہ وہ عبادت کر سکے۔

[۲]۔ اس کام کرنے کی طاقت ہو،

[۳]۔ اس کام کرنے پر قدرت ہو

[۴]۔ اور اس کام کرنے کے لئے اعضاء صحیح سالم ہوں، تب وہ کام انسان پر واجب ہوتا ہے، اسی کو  
قدرت میسرہ، کہتے ہیں۔

ان چارباتوں کے ہونے کے بعد کام سے پہلے آدمی کا ارادہ ہوا اور اس پر اللہ وہ کام کروادے اور اس کام کو تخلیق کر دے، اس کو توفیق کہتے ہیں، اسی پیدا کرنے کا نام، تخلیق ہے، جو اللہ کا کام ہے۔

اس بارے میں عقیدۃ الطحاویۃ کی عبارت یہ ہے

وَالسْتِطَاعَةُ الَّتِي يَجِبُ بِهَا الْفَعْلُ مِنْ نَحْوِ التَّوْفِيقِ الَّذِي لَا يَجُوزُ أَنْ يُوْصَفَ  
الْمُخْلوقُ بِهِ (تَكُونُ) مَعَ الْفَعْلِ وَإِمَالِ السْتِطَاعَةِ مِنْ جَهَةِ الصَّحَّةِ وَالْوُسْعِ ، وَ  
الْتَّمْكِنِ ، وَسَلَامَةِ الْآلاتِ ، فَهِيَ قَبْلُ الْفَعْلِ وَبِهَا يَتَعَلَّقُ الْخُطَابُ ، وَهُوَ كَمَا قَالَ  
تَعَالَى . لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا – (آیت ۲۸۶، سورت البقرۃ ۲) – (عقیدۃ الطحاویۃ،  
عقیدہ نمبر ۸۵، ص ۱۸)

ترجمہ۔ ایک وہ استطاعت جو فعل کے ساتھ ہوتی ہے، جس کو توفیق کہتے ہیں، یہ مخلوق کی صفت بن ہی  
نہیں سکتی، یہ فعل کے ساتھ ہوتی ہے [یہ اللہ کی صفت ہے۔ دوسری استطاعت یہ ہے کہ آدمی کی صحت  
ٹھیک ہو، اس کو عبادت کرنے کی گنجائش ہو، عبادت کرنے پر قدرت ہو، اس کے اعضاء صحیح سالم ہوں،  
یہ استطاعت فعل سے پہلے ہوتی ہے

اس عبارت میں دو استطاعت کا ذکر ہے، ایک ہے فعل، یعنی کام کو پیدا کرنا، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ  
صفت مخلوق کی نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری استطاعت ہے، صحت درست ہو، گنجائش ہو، کام کرنے پر  
قدرت ہو، اعضاء صحیح سالم ہوں، اسی دوسری استطاعت پر اللہ کا حکم آتا ہے

ان آئیوں میں استطاعت کا ذکر ہے

۱۔ وَ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ سَبِيلًا۔ (آیت ۷۶، سورت آل عمران ۳)

ترجمہ۔ اور لوگوں میں سے جو لوگ بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ کے لئے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے

۲۔ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْجِحَ الْمُحْصَانَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَانَكُمْ۔ (آیت ۲۵، سورت النساء ۲)

ترجمہ۔ اور تم میں سے جو لوگ اس بات کی طاقت نہ رکھتے ہوں کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکیں تو وہ مسلمان باندیوں میں سے کسی ایک سے نکاح کر سکتے ہیں جو تمہاری ملکیت میں ہو

۱۔ عن عمران بن حصين <sup>رض</sup> قال كانت بي بواسير فسألت النبي ﷺ عن الصلاة؟  
فقال صل قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب - (بخاري شريف،  
كتاب التقصير، باب اذا لم يطغ قاعداصلى الى جب، ص ۹۷، نمبر ۱۱۱)

ترجمہ۔ حضرت عمران بن حصین فرماتے ہیں کہ مجھے بواسیر کا مرض تھا، اس لئے میں نے حضورؐ سے نماز کے بارے میں پوچھا؟ تو آپؐ نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور اس پر قدرت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اس پر بھی قدرت نہ ہو پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھو۔

ان آئیوں اور حدیث سے معلوم ہوا کہ تمام اسباب کے مہیا ہونے کا نام استطاعت ہے، اور اسی پر احکام کا مدار ہے

## کسب

کسب کا معنی ہے کمانا۔ کسی کام کا آپ ارادہ کرتے ہیں، پھر اس کام کے لئے اس باب اختیار کرتے ہیں، اور اس کام کو اپنے ارادے سے کرتے ہیں، اسی کام کرنے کو، کسب، کہتے ہیں، اور اسی پر عذاب اور ثواب کا مدار ہے، کیونکہ آپ نے اپنے ارادے سے یہ کام کیا ہے اگرچہ کام کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کام کو تخلیق کر دیتے ہیں ان آئیوں میں کسب کا ذکر ہے، اور یہ بھی ذکر ہے کہ تمہارے کسب کرنے کی وجہ سے یہ عذاب، یا ثواب دیا جائے گا۔

اس کے لئے آیتیں یہ ہیں

۳- وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ - (آیت ۲۵، سورت آل عمران ۳) ترجمہ۔ اور ہر شخص نے جو کچھ کمائی کی ہوگی وہ اس کو پوری پوری دے دی جائے گی، اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا

۴- ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ - (آیت ۱۶۱، سورت آل عمران ۳) ترجمہ۔ پھر ہر شخص کو اس کے کئے کا پورا پورا بدله دیا جائے گا، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا

۵- بَلِّي مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ حَطَيْثَةٌ فَأُولُئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ - (آیت ۸۱، سورت بقرۃ ۲) - ترجمہ۔ جو لوگ بدی کماتے ہیں، اور ان کی بدی انہیں گھیر لیتی ہے تو ایسے لوگ ہی جہنم کے باہی ہیں

ان آئیوں سے پتہ چلا کہ ہم جو اپنے ارادے سے کسب کرتے ہیں، اس کا بدله دیا جائے گا، اور اسی پر عذاب، یا ثواب کا دار و مدار ہے۔

# خلق

خلق کا معنی ہے پیدا کرنا۔ کسی چیز کو پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے یہاں تک کہ جو کچھ ہم خود کرتے ہیں وہ بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے، لیکن چونکہ ہم کسب کرتے یعنی اچھا یا برا کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اور پھر اس کو اپنے ارادے سے کرنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ہمارے کام کو پیدا کر دیتے ہیں، یعنی اس کو تخلیق کر دیتے ہیں۔ تو اس کسب کرنے کی وجہ سے انسان کو ثواب یا عذاب دیا جاتا ہے

ان آئیوں میں ہے کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے

۶۔ اللَّهُ خَالِقُ كُلٌّ شَيْءٍ وَ هُوَ عَلَى كُلٌّ شَيْءٍ وَ كَيْلٌ۔ (آیت ۲۲، سورت الزمر ۳۹)

ترجمہ۔ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہی ہر چیز کا رکھوا لا ہے

۷۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلٌّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ۔ (آیت ۲۲، سورت غافر ۲۰)

ترجمہ۔ اللہ وہ ہے جو تمہارا پانے والا ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے ان آئیوں میں ہے کہ خیر ہو یا شر ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہی ہے، اس لئے ہمارے کسب کے بعد جو کچھ فعل پیدا ہو گا وہ بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے

اس مسئلے میں پچھلے زمانے میں بڑا اختلاف رہا ہے

باقی تفصیل، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، کے عنوان میں دیکھیں۔

## عہد الاست

ازل میں اللہ نے آدمؑ کی اولاد کو پیچھے سے نکالا، اور سب سے یہ عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے کہا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں، اسی کو، عہد الاست، کہتے ہیں  
اس آیت میں عہد الاست کا ثبوت ہے

۸- إِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ الْسُّتُّ  
بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلِّي شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ - (آیت ۲۷، سورت الاعراف)

ترجمہ۔ اور اے رسول! لوگوں کو وقت یاددا و جب تمہارے رب نے آدم کے بیٹوں کی پشت سے ان کی ساری اولاد کو نکالا تھا، اور ان کو خود اپنے اوپر گواہ بنایا تھا اور پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا تھا کہ کیوں نہیں؟ ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں

2- عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال اخذ الله الميثاق من ظهور آدم بنعمان . يعني عرفہ . فاخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنشر هم بين يديه كالذرث كلامهم فنلا قال ،الست بربكم . الخ (آیت ۲۷، سورت الاعراف) (منداحمد، مند عبد اللہ بن عباس، ۳، ص ۲۶۷، نمبر ۲۲۵۵)۔ ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ اللہ نے نعمان یعنی عرفہ کے مقام پر حضرت آدم کی پشت سے نکال کر یہ عہد لیا، ہر پشت سے ہر اولاد کو نکالا، اور اپنے سامنے ان کو ذرے کی طرح پھیلا دیا، پھر ان سب سے بات کی [کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور اوپر کی آیت الاست بربکم، الخ پڑھی۔  
اس آیت اور حدیث میں الاست بربکم کی پوری تفصیل ہے

اس عقیدے کے بارے میں 8 آیتیں اور 2 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

## ۳۲۔ شرک تمام آسمانی کتابوں میں ممنوع ہے

اس عقیدے کے بارے میں 34 آیتیں اور 6 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

سب سے بڑا گناہ شرک، اور کفر ہے، اس لئے اس سے بچنا چاہئے  
ان آیتوں میں ہے کہ پہلے لوگوں کو بھی شرک نہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اس شریعت میں بھی یہی ہے

۱۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِلَّا نَعْبُدُو إِلَّا اللَّهُ وَلَا  
نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ۔ (آیت ۲۶، سورت آل عمران  
۳)۔ ترجمہ۔ مسلمانوں ایہود و نصاری سے کہہ دو کہ اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آجائو جو ہم اور  
تم میں مشترک ہو، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ  
ٹھہرائیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم ایک دوسرے کے کورب نہ بنائیں

۲۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ أَئُنْ أَشْرَكْتُ لَيْجُبْطَنَ عَمْلُكَ وَ

**لِتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدُ وَاوَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ** (آیت ۲۵، سورت الزمر) (۳۹)

ترجمہ۔ اور حقیقت ہے کہ تم سے، اور تم سے پہلے تمام رسولوں وحی کے ذریعے یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ اگر تم نے شرک کا ارتکاب کیا تو تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے گا، اور تم یقینی طور پر سخت نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے، اس لئے صرف اللہ کی عبادت کرو، اور شکر گزار لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ ۳۔ **فُلِ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ** - (آیت ۱۲، سورت الانعام) (۴۰)

ترجمہ۔ کہہ دو کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ فرماں برداری میں سب لوگوں سے پہل کرنے والا بنوں، اور تم مشرکوں میں ہرگز شامل نہ ہونا۔ ۴۔ **فُلِ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَأْبَ** - (آیت ۳۶، سورت الرعد) (۴۱)

ترجمہ۔ کہہ دو کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اور اس کے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک نہ مانوں، اسی بات کی میں دعوت دیتا ہوں، اور اسی اللہ کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے ان تمام آئیوں میں یہ کہا گیا ہے کہ شرک ہرگز نہ کریں۔

## اہل عرب ایک خدا مانتے تھے لیکن وہ شرک بھی کرتے تھے

اہل عرب ایک خدا کو مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ دوسروں کو بھی صفات میں شریک کرتے تھے۔  
اس کی دلیل یہ آیات ہیں

5۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، أَمْنُ يُمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ ، وَمَنْ يَخْرُجُ الْحَيٌّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيَخْرُجُ الْمَيِّتُ مِنَ الْحَيٍّ ، وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ، فَقُلْ أَفَلَا تَتَقَوَّنَ - (آیت ۳۱، سورت یونس ۱۰)

ترجمہ۔ اے رسول ان مشرکوں سے کہو کہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے؟ یا بھلا کون ہے جو سننے اور دیکھنے کی قوتوں کا مالک ہے، اور کون ہے جو جاندار کو بے جان سے، اور بے جان کو اندار سے باہر نکال لاتا ہے؟ اور کون ہے جو ہر کام کا انتظام کرتا ہے؟ تو یہ لوگ کہیں گے اللہ! تو تم ان سے کہو کہ کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟

6۔ وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولَنَّ اللَّهُ ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ - (آیت ۲۳، سورت العنكبوت ۲۹)

ترجمہ۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ: کون ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے زمین کے مردہ ہونے کے بعد اسے زندگی بخیٹی؟ تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ،، اللہ،، کہو، الحمد للہ! لیکن ان میں سے اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے

7۔ وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مِنْ خَلْقِهِمْ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ - (آیت ۸۷، سورت الزخرف ۷۳)

ترجمہ۔ اور اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ نے

۸۔ وَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَاءَ وَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقْرَبُنَا إِلَى اللَّهِ زُلْفًا۔ (آیت ۳)

(سورت الزمر ۳۹)

ترجمہ۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے بجائے دوسروں کو رکھوا لے بنا لئے ہیں، یہ کہہ کر کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لئے کرتے ہیں کہ یہ میں اللہ سے قریب کر دیں گے۔

اس آیت میں ہے کہ مشرکین مکہ مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے، لیکن دیوی، دیوتاؤں، اور بتوں کی پوجا اس لئے کرتے تھے کہ وہ اللہ تک پہنچا دیں گے، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ ان دیوی، دیوتاؤں کو اللہ نے یہ طاقت دی گئی ہے کہ وہ اللہ تک پہنچا دیں، اللہ نے تنبیہ کی کہ یہ بالکل غلط کر رہے ہیں

## شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کر سکے گے

۹۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْفُرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَ يَعْفُرُ مَا دُونَ ذَالِكَ مَنْ يَشَاءُ ، وَ مَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدِ افْسَرَ إِثْمًا عَظِيمًا ۔ (آیت ۲۸، سورت النساء)

ترجمہ۔ بیشک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا جائے، اور اس سے مکتر ہر بات کو جس کے لئے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا تا ہے وہ ایسا بہتان باندھتا ہے جو بڑا از بر دست گناہ ہے

۱۰۔ وَ لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لِئَنْ أَشْرَكُتَ لَيْحَطِّنَ عَمْلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ، بَلِ اللَّهِ فَاعْبُدُ وَا وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (آیت ۲۵، سورت الزمر)

(۳۹)

ترجمہ۔ اور حقیقت ہے کہ تم سے، اور تم سے پہلے تمام رسولوں و حی کے ذریعے یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ اگر تم نے شرک کا ارتکاب کیا تو تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے گا، اور تم یقینی طور پر سخت نقصان

اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے، اس لئے صرف اللہ کی عبادت کرو، اور شرک گزار لوگوں میں شامل ہو جاؤ

۱۱۔ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَاوَاهُ النَّارُ ، وَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ۔ (آیت ۲۷، سورت المائدۃ)

ترجمہ۔ یقین جانوا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اللہ نے اس کے لئے جنت حرام کر دی ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظلم کرنے والوں کے لئے کوئی مددگار میرس نہیں آئیں گے

ان آئیوں میں ہے کہ اگر کوئی شرک کرتے ہوئے مر گیا، اور موت سے پہلے اس گناہ سے توبہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف نہیں کریں بلکہ ہمیشہ ہمیش اس کو جہنم میں جلنے پڑے گا۔

## اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا حرام ہے

شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن ان میں سے دو قسم بہت اہم ہیں  
 ایک ہے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا، یعنی دو خداووں، کو مانا  
 اور دوسرا ہے خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، اس کی پوجا کرنا  
 اس لئے صرف ایک ہی خداماننا چاہئے، اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہئے

ان آیتوں میں ہے کہ صرف ایک ہی خدا ہے دوسرا خدا گز نہیں ہے

12- وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَحْذِلُونَ إِلَهِيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِنَّمَا فَارْهَبُونَ - (آیت ۱۵،  
 سورت الحلق) ۱۶

ترجمہ۔ اور اللہ نے فرمایا کہ، دو دو معبود نہ بنائی جھنا، وہ تو بس ایک ہی معبود ہے، اس لئے بس مجھ ہی سے  
 ڈر کرو

13- أَنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ . قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَ  
 إِنَّنِي بَرِئٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ - (آیت ۱۹، سورت انعام ۶)

ترجمہ۔ کیا سچ مج تم یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ کہہ دو کہ، میں تو ایسی  
 گواہی نہیں دوں گا، کہہ دو کہ، وہ تو صرف ایک خدا ہے، اور جن جن چیزوں کو تم اس کی خدائی میں شریک  
 ٹھہراتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں

14- لَقَدْ كَفَرَ الظَّالِمُونَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثٌ ثَلَاثَةٌ وَمَا مِنْ إِلَهٌ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ - (آیت ۷۳،

## سورت المائدۃ (۵)

ترجمہ۔ وہ لوگ بھی یقیناً کافر ہو چکے ہیں، جنہوں نے یہ کہا کہ، اللہ تین میں کا تیرا ہے،، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے

15۔ وَاللَّهُمْ كُمُ الْهُدَىٰ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ۔ (آیت ۱۶۳، سورت البقرۃ ۲)

ترجمہ۔ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے

16۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔ (آیت ۲۲، سورت الانبیاء ۲۱)

ترجمہ۔ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا دوسرے خدا ہوتے تو وہ دونوں درہم برہم ہو جاتے

17۔ وَ مَا مِنْ إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ وَ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ (آیت ۲۲، سورت آل عمران ۳)

ترجمہ۔ اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یقیناً اللہ ہی ہے جو غالب ہے، حکمت والا ہے

تقریباً ایک سو چالیس آیتوں میں ہے کہ ایک خدا ہے دوسرا ہرگز نہیں ہے۔

## اللہ کی عبادت میں شریک کرنا حرام ہے

عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، عبادت کے طور پر اس کے سامنے کھڑا ہونا، یا اس کو پوچنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے یہ کرنا شرک ہے، حرام ہے

اس کے لئے آیتیں یہ ہیں

18۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ (آیت ۲۳، سورت الاسراء ۱۷)

ترجمہ۔ اور تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو

19۔ قُلْ إِنَّى نُهِيَّتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَاجَأَنِي الْبَيْنَاتُ مِنْ رَبِّيْ وَ اُمْرُثُ أَنْ أَسْلَمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ (آیت ۲۶، سورت غافر ۴۰)

ترجمہ۔ اے رسول کافروں سے کہہ دو، کہ مجھے اس بات سے منع کر دیا گیا ہے کہ جب میرے پاس میرے رب کی طرف سے کھلی کھلی نشانیاں آگئیں تو پھر بھی میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے بجائے پکارتے ہو، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ رب العالمین کے آگے سر جھکا دوں

20۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ۔ (آیت ۳، سورت الفاتحہ ۱)

ترجمہ۔ اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور تجھہ ہی سے مدد مانگتے ہیں

21۔ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهُ۔ (آیت ۲، سورت ہود ۱۱)

ترجمہ۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو

22۔ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهُ۔ (آیت ۲۶، سورت ھود ۱۱)

ترجمہ۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو

23۔ آن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهُ۔ (آیت ۱۴، سورت فصلت ۲۱)

ترجمہ۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو

ان آئیوں میں ہے کہ اللہ کے علاوہ ہرگز کسی کی عبادت نہ کریں، اور عبادت میں، سجدہ کرنا، رکوع کرنا،

عبادت کے لئے قیام کرنا، یہ سب شامل ہے اس لئے ان سب باتوں سے پرہیز کرنا چاہئے۔

اس سے بھی آدمی مشرک بن جاتا ہے جس کا انجام یہ ہے کہ اللہ اس کو بھی معاف نہیں کریں گے، اور

اس کو ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا

لوگ اس میں بہت بے احتیاطی کرتے ہیں

## اللہ کے علاوہ کسی کے لئے سجدہ، اور رکوع جائز نہیں ہے

عبادت کے طور پر کسی کے سامنے سجدہ کرنے سے آدمی مشرک ہو جاتا ہے، اور تعظیم کے طور پر کسی کے سامنے سجدہ کرنا حرام ہے، اسی طرح عبادت کے طور پر کسی کے سامنے رکوع کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی نماز اور عبادت کا حصہ ہے اس کے لئے یہ آیتیں ہیں

24- لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَ لَا لِلْقَمَرِ وَ اسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقُوكُمْ إِنْ كُنْتُمْ إِيمَانًا تَبْعُدُونَ۔ (آیت ۳۷، سورت فصلت ۲۱)

ترجمہ۔ نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، اور اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر تمہیں اسی کی عبادت کرنی ہے

25- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ۔ (آیت ۷۷، سورت الحج ۲۲)

ترجمہ۔ ائے ایمان والو! رکوع کرو، اور سدہ کرو، اور اپنے رب کی بنڈگی کرو

26- فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَ اعْبُدُوا۔ (آیت ۲۲، سورت النجم ۵۳)

ترجمہ۔ اللہ کے لئے سجدہ کرو اور اس کی بنڈگی کرو

27- يَا مَرْيَمُ اقْتُنِي لِرَبِّكَ وَ اسْجُدْيُ وَ ارْكَعْيُ مَعَ الرَّأْكِعِينَ۔ (آیت ۲۳، سورت آل عمران ۳) ترجمہ۔ ائے مریم تم اپنے رب کی عبادت میں لگی رہو، اور سجدہ کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کیا کرو

28- وَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ اتُوِّلُوا الزَّكَاءَ وَ ارْكَعُوا مَعَ الرَّأْكِعِينَ (آیت ۲۳، سورت البقرۃ ۲)

ترجمہ۔ اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو  
ان آئیوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ ہی کے لئے رکوع اور سجدہ کرو، اس لئے کسی اور کے لئے نہ سجدہ کرنا  
جاائز ہے، اور نہ عبادت کے طور پر کسی کے سامنے رکوع کرنا جائز ہے

1- عن قيس بن سعد قال أتت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فقلت رسول الله ﷺ أحق ان يسجد له قال فأتيت النبي ﷺ فقلت انى اتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فانت يا رسول الله ! أحق ان نسجد لك ،قال: أرأيت لو مررت بقبرى أكنت تسجد له ؟ قال قلت لا ، قال : فلا تفعلوا ، لو كنت أمراً أحداً ان يسجد لاحد لامر النساء ان يسجدن لازموا جهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق - (ابوداود شریف، کتاب النکاح، باب حق الزوج على المرأة، ص ۳۰۹، نمبر ۲۱۳۰، ابن ماجہ شریف، کتاب النکاح، باب حق الزوج على المرأة، ص ۲۶۵، نمبر ۱۸۵۳)

ترجمہ۔ قیس بن سعد فرماتے ہیں کہ میں حیرہ مقام پر آیا تو دیکھا کہ وہ لوگ اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ تو زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو سجدہ کیا جائے،، میں حضورؐ کے پاس آیا اور کہا کہ میں حیرہ گیا تھا، وہاں دیکھا کہ وہ اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، اس لئے آپ یا رسول اللہ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، حضورؐ نے فرمایا کہ اگر تم میری قبر پر گزرو تو کیا اس کو سجدہ کرو گے، قیس نے جواب دیا ہیں! تو حضورؐ نے فرمایا کہ، زندگی میں بھی مجھے سجدہ مت کرو، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا، تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں، اس لئے کہ اللہ نے شوہروں کو بیویوں پر بہت حقوق دئے ہیں  
اس حدیث میں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ تعظیمی کرنا بھی حرام ہے

## شخصی طور پر ہم کسی کو حتمی طور پر جنتی، یا جہنمی نہیں کہہ سکتے،

کسی کے بارے میں حتمی طور پر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ جنتی ہے، یا جہنمی ہے جب تک کہ قرآن، یا حدیث میں اس کی تصریح نہ ہو

قرآن یا حدیث میں کسی کا نام لیکر جنتی، یا جہنمی کہا گیا ہے تو اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنتی یا جہنمی ہے، لیکن اس کا نام لیکر جنتی یا جہنمی نہیں کہا ہے تو بہت ممکن ہے کہ ظاہری طور پر وہ جنتی ہو لیکن اندر وہی طور پر وہ اللہ کے بیہاں جہنمی ہو، یا ظاہری طور پر وہ جہنمی ہو لیکن اندر وہی طور پر وہ اللہ کے بیہاں جنتی ہو کیونکہ ایمان اور قدر ایق کا معاملہ دل کا معاملہ ہے، اور دل کا حال اللہ ہی جانتا ہے ہاں کسی پر کفر کی علامت ہو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کفر کی علامت ہے اس لئے ممکن ہے کہ یہ کافر ہو اور اس پر کافر کے احکام جاری کئے جائیں گے، لیکن حتمی طور پر اس کو کافر نہیں کہہ سکتے اس لئے جو لوگ اپنی تقریروں میں نام لے لے کر کسی کو کافر کہتے ہیں، یا جنتی کہتے ہیں، یا نہیں کہنا چاہئے

عقیدۃ الطحاویۃ کی عبارت یہ ہے

وَ لَا نَزَّلَ أَحَدًا مِنْهُمْ جَنَّةً وَ لَا نَارًا، وَ لَا نَشَهَدُ عَلَيْهِمْ بِالْكُفُرِ وَ لَا بِشَرْكٍ وَ لَا  
بِنَفَاقٍ مَالِمٍ يَظْهُرُ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَالِكَ وَ نَذَرَ سَرَائِرَهُمُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى - (عقیدۃ  
الطحاویۃ، عقیدہ نمبر ۷، ص ۱۶)

ترجمہ۔ ہم کسی کو جنتی، یا جہنمی قران نہیں دیتے، اور نہ ہم اس پر کفر اور شرک، اور نفاق کی گواہی دیتے ہیں جب تک کہ اس سے ان میں سے کوئی چیز ظاہر نہ ہو جائے، اور جو چیزی ہوئی باقی میں یہیں ان کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ ہم کسی کے بارے میں حتی طور پر جنتی، یا جہنمی نہیں کہہ سکتے

اس کی دلیل یہ ہے۔

29۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَبَيْوْا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ ، إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ۔ (آیت ۱۲، سورت الحجرات ۲۹)

ترجمہ۔ اے ایمان والوا بہت سے گمانوں سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں

30۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يُكُونُ خَيْرًا مِنْهُمْ۔ (آیت ۱۱، سورت الحجرات ۲۹)

ترجمہ۔ اے ایمان والو! نہ کوئی مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑا رہا ہے خود ان سے بہتر ہو۔

ان آئیوں میں گمان کرنے سے منع فرمایا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ہم کسی کو حتی طور جنتی یا جہنمی نہیں کہہ سکتے

2- عن عائشة ام المؤمنین قالت دعى رسول الله الى جنازة صبي من الانصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة! لم يعمل السوء ولم يدر كه قال اوغير ذالك؟ يا عائشة! ان الله خلق للجنة اهلا خلقهم لها و هم في اصلاح

آبائِہم و خلق للنار اہلا خلقہم لها وهم فی اصلاح ابائِہم۔ (مسلم شریف، کتاب القدر، باب معنیٰ کل مولود پولد علی الفطرة و حکم موئی اطفال الکفار و اطفال مسلمین، ص ۱۱۵۹، نمبر ۲۲۶۲)

ترجمہ۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں حضورؐ انصار کے ایک بچے کے جنازے میں بلائے گئے، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جنت کی چیز ہے، اس کے لئے خوشخبری ہو، اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، اور اس کو گناہ کا وقت بھی نہیں ملا، حضورؐ نے فرمایا:، کچھ اور بھی کہنا چاہتی ہو؟ اے عائشہ! جب لوگ اپنے باپ کی پیٹھ میں تھے تب ہی اللہ نے جنت میں جانے والوں کو پیدا کر دئے تھے، اور جب وہ اپنے باپ کی پیٹھ میں تھے تب ہی جہنم میں جانے والوں کو پیدا کر دئے تھے اس حدیث میں ہے کہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، اس لئے ہم کسی کو دیکھ کر جنتی، یا جہنمی ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے

## گناہ صغیرہ، و گناہ کبیرہ کی تعریف

گناہ کبیرہ۔۔۔ جن گناہ پر عید آئی ہو یاد نیا میں لعنت کی گئی ہو، اور بہت ڈانٹ پڑی ہو، اس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں

گناہ کبیرہ۔۔۔ توبہ کرنے سے معاف ہوتا ہے، اس سے پہلے معاف نہیں ہوتا، ہاں اللہ چاہے تو کسی کا گناہ کبیرہ بھی معاف کر سکتا ہے۔ البتہ شرک ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ بغیر توبہ کے اللہ معاف نہیں کریں گے گناہ کبیرہ کرنے سے آدمی مشرک، یا کافر نہیں بنتا، کیونکہ اس کے دل میں ایمان اور تصدیق بالقلب موجود ہے، البتہ یہ گناہ بہت بڑا ہے، اس سے ہر حال میں بچنا چاہئے، اور بھی ہو گیا ہو تو فوراً توبہ کر لینا چاہئے

گناہ صغیرہ۔۔۔ اور جن گناہ پر عید نہ ہوا س کو گناہ صغیرہ، کہتے ہیں

گناہ صغیرہ۔۔۔ چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام کرنے سے بھی معاف ہو جاتا ہے

گناہ صغیرہ۔۔۔ بغیر توبہ کے بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں  
اس کے لئے آیتیں یہ ہیں

31- إِنَّ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفَّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ نُدْخِلُكُمْ مُدْخَلَكُمْ كَرِيمًا -  
(آیت ۳۱، سورت النساء) (۲)

ترجمہ۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو تمہاری چھوٹی برا یوں کا

ہم خود کفارہ کر دیں گے، اور تم کو ایک باعزت جگہ داخل کر دیں گے  
 ۳۲۔ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْأُثُمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمُمْ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ (۵۳)  
 آیت ۳۲، سورت الحجۃ

ترجمہ۔ ان لوگوں کو جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، البتہ کبھی کبھی بھار پھسل جانے کی بات اور ہے، یقین رکھو تمہارا رب بہت وسیع مغفرت والا ہے [انکو معاف کر دیں گے] ان آئیوں کے اندر اشارہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہو سکتا ہے اللہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے

## گناہ کبیرہ کرنے والا جنت میں جائے گا

شرک اور کفر کے علاوہ کوئی اور گناہ کبیرہ کیا ہو، اور توبہ کئے بغیر مر گیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو گناہ کی سزا ملے اور جہنم میں کافی مدت سزا بھلتنا پڑے، لیکن سزا کاٹنے کے بعد کبھی نہ کبھی جنت میں جائے گا، کیونکہ اس کے دل میں ایمان ہے، اور مون کبھی نہ کبھی جنت میں جائے گا اور اگر گناہ کبیرہ سے توبہ کر لی، اور اس کی توبہ قبول ہو گئی تو اس کی سزا بھگتے بغیر جنت میں جائے گا، کیونکہ اس نے توبہ کر لی ہے اور اس کی توبہ قبول بھی ہو گئی ہے

اس کے لئے حدیث یہ ہے

3- عن ابی زرٌ قال قال رسول الله ﷺ آتاني آت من ربی . فاخبرنی ، او قال

بشرنی۔ انه من مات من امتی لا یشرک بالله شيئاً دخل الجنة فقلت و ان زنى و ان سرق؟ قال و ان زنى و ان سرق۔ (بخاری شریف، کتاب الجنائز، ص ۱۹۸، نمبر ۱۲۳۷ مسلم شریف، کتاب الایمان، باب الدلیل علی من مات لا یشرک بالله دخل الجنة، ص ۵۶، نمبر ۹۲، نمبر ۲۶۷۸)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ میرے رب کی جانب سے کوئی آنے والا آیا اور مجھ کو خبر دی، یا یوں فرمایا کہ مجھ کو خوشخبری سنائی کہ، میری امت میں سے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو اور اس کی وفات ہوئی تو وہ جنت میں داخل ہوگا، میں نے پوچھا کہ، چاہے وہ زنا کرتا ہو اور چوری بھی کرتا ہو تب بھی؟، تو خوشخبری دینے والے نے کہا کہ، چاہے وہ زنا کرتا ہو اور چوری بھی کرتا ہو، تب بھی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا

اس حدیث میں ہے کہ کوئی مشرک نہ مرا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اس لئے گناہ کبیرہ کرنے والا بھی جنت میں داخل ہوگا

4۔ عن انس بن مالک قال قال رسول الله ﷺ ..... ثم يخرج من النار من قال لا اله الا الله و كان في قلبه من الخير ما يزن ذرة۔ (مسلم شریف، کتاب الایمان، باب ادنی اہل الجنة منزلة فيها، ص ۱۰۲، نمبر ۳۲۷۸، بخاری شریف، باب کتاب التوحید، باب کلام الرب تعالیٰ یوم القیامۃ مع الانبیاء وغیرہم، ص ۱۲۹۲، نمبر ۵۱۰)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ۔۔۔ جس نے، لا اله الا الله، کہا اور اس کے دل میں ذرہ برابر خیر، یعنی ایمان ہے تو وہ جہنم سے نکلا جائے گا

ان آیات اور احادیث سے معلوم ہوا کہ ذرہ برابر دل میں ایمان ہو تو جنت میں داخل ہوگا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ کبیرہ کرنے والا بھی جنت میں داخل ہوگا۔

## گناہ کبیرہ کو حلال سمجھئے گا تو وہ کافر ہو جائے گا

بے خبری میں یا مجبوری میں گناہ کبیرہ کر لیا، جب کہ اس گناہ کو وہ گناہ سمجھ رہا ہے، تو اس کی سزا ملے گی، لیکن اس سے آدمی کافرنہیں ہو گا، لیکن اگر ایسا گناہ کبیرہ ہے جس کی ممانعت صریح آیت میں موجود ہے، اب اس گناہ کو حلال سمجھتے ہوئے کرے گا تو یہ مجرم کافر ہو جائے گا  
 کیونکہ جب حلال سمجھتے ہوئے گناہ کیا تو اس نے صریح آیت کا انکار کیا جس میں اس گناہ کی ممانعت ہے، اور پہلے گزر چکا ہے کہ ایمان کے چھ جز میں سے ایک جز قرآن کو اور آیت کو مانتا ہے، اور اس نے آیت کا انکار کر دیا اس لئے اب یہ کافر ہو جائے گا، مثلا زنا کی حرمت آیت میں موجود ہے، اب وہ حلال سمجھ کر زنا کرتا ہے، تو گویا کہ زنا والی آیت کا انکار کیا، اس لئے اب وہ کافر بن جائے گا، اور اب اس سے تو بہ کرے گا تب وہ مسلمان ہو گا

عقیدۃ الطحاویۃ میں عبارت یہ ہے

- وَ لَا نَكْفُرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ مَا لَمْ يَسْتَحْلِمْ - (عقیدۃ الطحاویۃ، عقیدہ نمبر ۷۵، ص)

(۱۴)

ترجمہ۔ کسی گناہ کی وجہ اہل قبلہ کو کافر قرار نہیں دیتا، جب تک کہ اس گناہ کو حلال نہ سمجھ لے اس عبارت میں، مالم یستحلہ، کا مطلب یہی ہے کہ گناہ کو حلال سمجھنے لگے، جس کی وجہ سے صریح آیت کا انکار ہو جائے، اور اس کی وجہ سے اس کو کافر قرار دیا جائے گا۔

## گناہ کبیرہ کی تعداد

گناہ کبیرہ کی تعداد متعین نہیں ہے، البتہ یہ سب گناہ کبیرہ میں شامل ہیں، شرک، کفر، قتل، زنا کرنا، زنا کی تہمت ڈالنا، چوری کرنا، شراب پینا، سود کھانا، والدین کی نافرمانی، جھوٹی فتنہ کھانا، میدان جہاد سے بھاگنا، بیتیم کے مال کو کھانا۔

اس کی دلیل یہ آیت ہے

وَ الَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخِرَّ وَ لَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ  
وَ لَا يَزُنُونَ وَ مَنْ يَفْعُلُ ذَالِكَ يَأْتِيَ أَثَامًاً۔ (آیت ۲۸، سورت الفرقان ۲۵)

ترجمہ۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی بھی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے، اور جس جان کو اللہ نے حرمت بخشی ہے اسے ناحق قتل نہیں کرتے، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور جو شخص بھی یہ کام کرے گا اسے اپنے گناہوں کے باال کا سامنا کرنا پڑے گا  
اس آیت میں تین گناہ کبیرہ کا ذکر ہے

5- عن ابی هریرة ان رسول الله ﷺ قال اجتنبوا السبع الموبقات ، قيل يا رسول الله ما هن ؟ قال الشرك بالله ، و السحر ، و قتل النفس التي حرم الله الا بالحق ، و اكل مال اليتيم ، و اكل الربا ، و التولى يوم الزحف ، و قذف المحسنات الغافلات المؤمنات - (مسلم شریف، کتاب الایمان، باب الکبائر و اکبر، ص ۵۳، نمبر ۸۹/۲۶۲)

ترجمہ۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ سات بلک کرنے والے گناہوں سے بچو، لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہیں؟

فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو، اللہ نے جس نفس کو حرام کیا ہے اس کو قتل کرنا، ہاں جس کو قتل کرنے کا حق بتاتے ہے، اس کو قتل کرے تو نہیں، یتیم کے مال کو کھانا، سود کھانا، میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا، پاک دامن مومن عورتوں پر زنا کی تہمت ڈالنا۔

اس حدیث میں سات قسم کے گناہ کبیرہ کو گناہ گیا ہے۔

6- عن ابی بکرہ قال کنا عند رسول الله ﷺ فقال ألا انئكم باكبر الكبائر ثلاثة الاشراك بالله، و عقوق الوالدين ، و شهادة الزور۔ (مسلم شریف، کتاب الایمان، باب الکبائر و اکبرہا، ص ۵۳، نمبر ۷۸۹)

ترجمہ۔ حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں کہ ہم حضورؐ کے پاس تھے، تو آپؐ نے فرمایا تم کو سب سے بڑے تین گناہ نہ بتاؤں؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور جھوٹی گواہی دینا،

34- وَ مَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعْنَةُ وَ أَعْذَلَهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۔ (آیت ۹۲، سورت النسا)۔ ترجمہ۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اللہ اس پر غصب نازل کرے گا اور لعنت

بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لئے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے

اس آیت میں ہے کہ کسی نے ناحق قتل کیا تو اس کی سزا ہمیشہ کے لئے جہنم ہے  
لیکن یہ تاکید کے لئے ہے ورنہ ایمان کی وجہ سے کبھی نہ کبھی جنت میں جائے گا

اس عقیدے کے بارے میں 34 آیتیں اور 6 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

## ۳۳۔ مسلمان مرتد کب بنتا ہے

اس عقیدے کے بارے میں 1 آیتیں اور 8 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

ایمان کی بحث میں گزر اکہ چھ چیزوں پر ایمان رکھنے کا توہہ مومن بنے گا، یہ چھ چیزیں یہ تھیں  
 [۱] اللہ [۲] رسول [۳] کتاب یعنی قرآن کریم [۴] فرشتہ [۵] آخرت کے دن پر ایمان ہو [۶] اور تقدیر  
 پر ایمان ہوتا توہہ مومن ہے  
 ان چھ چیزوں میں سے کسی ایک کا انکار کر دے توہہ مرتد بن جائے گا  
 اس کی دلیل عقیدۃ الطحاویۃ کی یہ عبارت ہے  
 و لا يخرج العبد من الايمان الا بجهود ما ادخله الله فيه - (عقیدۃ الطحاویۃ، عقیدہ نمبر  
 ۲۱، ص ۱۵) ترجمہ۔ جن چیزوں کی وجہ سے ایمان میں داخل ہوا ہے انہیں کے انکار کرنے کی وجہ سے  
 بندہ ایمان سے نکلتا ہے  
 اس عبارت میں ہے کہ جب ان چھ باتوں کے اقرار سے آدمی مسلمان ہوتا ہے، اسی میں سے کسی ایک  
 کے انکار سے وہ ایمان سے نکلے گا، لیکن اگر ان میں سے کسی ایک کا انکار نہیں کرتا توہہ مومن ہی رہے گا

## مرتد کو قاضی شرعی قتل کی سزادے گا

اس کے لئے یہ آیت ہے

۱- وَمَنْ بِرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَيُمْتَ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبْطُتْ أَعْمَالَهُمْ فِي الدُّنْيَا  
وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (آیت ۲۱، سورۃ البقرۃ ۲)

ترجمہ۔ اور اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے، اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرتے تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت ہو جائیں گے، ایسے لوگ دوزخ والے ہیں، اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے

۱- قال اتى علیٰ بِزِنادِقَةٍ فَاحْرَقْهُمْ ... لقول رسول الله ﷺ من بدل دينه فاقتلوه.  
(بخاری شریف، باب حکم المرتد والمrtleدة واستئذنهم، ص ۱۹۲۲، نمبر ۶۹۳)

ترجمہ۔ حضرت علیؓ کے پاس ایک زندقی کو لایا گیا، تو آپ نے اس کو جلا دینے کا حکم دیا۔۔۔ اس لئے کہ حضورؐ نے فرمایا جو دین بدل دے اس کو قتل کر دو۔

۲- عن ابی موسیٌ قال...، فادا رجل عنده ( عند ابی موسی ) موتف، قال ما هذا؟ قال  
کان یہودیا فاسلم ثم تھود، قال اجلس! قال لا اجلس حتى یقتل قضاء الله ورسوله  
ثلاث مرات فامر به فقتل (بخاری شریف، باب حکم المرتد والمrtleدة واستئذنهم، ص ۱۹۲۳، نمبر ۶۹۲۳)  
ترجمہ۔ حضرت معاذؓ کے پاس ایک آدمی باندھا ہوا تھا، حضرت معاذؓ نے  
پوچھا یہ کیا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ یہودی تھا، پھر مسلمان ہوا، اب پھر یہودی ہو گیا ہے، پھر حضرت  
معاذ سے کہا گیا کہ آپ یہیٹھا جائیں، تو انہوں نے کہا کہ، جب تک اس کو قتل نہیں کرو گے میں نہیں بیٹھوں  
گا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے، یہ تین مرتبہ فرمایا، حاکم نے حکم دیا اور وہ یہودی قتل کر دیا گیا

## لیکن مرتد کو قتل کرنے کے لئے تین شرطیں ہیں

[۱] پہلی شرط یہ ہے کہ اسلامی حکومت ہو

پہلی شرط یہ ہے کہ اسلامی حکومت ہوتے قتل کیا جائے گا تاکہ دوسرا مسلمان بھی مرتد نہ ہو جائے، اس کے لئے قول صحابی یہ ہے

3- عن زید بن ثابت <sup>رض</sup> قال لا تقام الحدود في دار الحرب مخافة ان يلحق اهلها بالعدو - (سنن کبری للبیهقی، کتاب السیر، باب من زعم لا قيام الحدود في ارض الحرب حتى يرجع، ج ۹، ص ۸۷، نمبر ۱۸۲۲۵) / الاصل لامام محمد، کتاب السیر فی ارض الحرب، باب اقامة الحدود في دار الحرب و تقصیر الصلاة، ج ۷، ص ۳۶۲)

ترجمہ۔ حضرت زید بن ثابت نے فرمایا کہ دارالحرب میں حد قائم نہیں کی جائے گی، اس ڈر سے کہ جس پر حد قائم ہوئی وہ کہیں حریروں کے ساتھ نہل جائے

4- عن حکیم بن عمیر كتب الى عمير بن سعد الانصارى و الى عماله ، ان لا يقيموا حدا على احد من المسلمين في ارض الحرب حتى يخرجوها الى ارض المصالحة - (سنن کبری للبیهقی، کتاب السیر، باب من زعم لا قيام الحدود في ارض الحرب حتى يرجع، ج ۹، ص ۸۷، نمبر ۱۸۲۲۶)

ترجمہ۔ حضرت حکیم نے عمیر اور اس کے عاملہ کو لکھا، دارالحرب میں کسی مسلمان پر حد قائم نہ کریں، جب تک کہ وہ صلح کی زمین پر نہ آجائے

ان قول صحابی میں ہے کہ مسلمان امیر ہوتے بھی دارالحرب میں حدود قائم نہ کی جائے، تو جہاں اسلامی حکومت بھی نہ ہو تو وہاں حدود کیسے قائم کی جائے گی۔

[۲] دوسری شرط یہ ہے کہ شرعی قاضی ہو جو حد کا فیصلہ کرے  
دوسری شرط یہ ہے کہ اسلامی قاضی ہو وہ تمام تحقیقات کر کے قتل کا فیصلہ کرے، تب قتل کیا جائے گا، یہ عوام  
کا کام نہیں ہے۔

5- عن عقبة بن الحارث ، ان النبي ﷺ اتی بنعمان او بابن نعمان و هو سکران  
فشق عليه و امر من فى البيت ان يضربوه ، فضربوه بالجريدة و النعال - (بخاری شریف  
كتاب الحدود، باب الضرب بالجريدة والمعال، ص ۱۱۲۸، نمبر ۵۷۷)

ترجمہ۔ نعمان، یا ابن نعمان کو حضور ﷺ کے پاس لایا گیا، اس حال میں کہ وہ نشہ میں تھا، یہ بات حضور پر  
گراں گزری، پھر جو لوگ گھر میں تھے انکو حکم دیا کہ اس کو مارے، تو لوگوں نے کھجور کی ٹہنی اور جوتوں سے  
مارا

6- عن انس قال جلد النبي ﷺ في الخمر بالجريدة و النعال - (بخاری شریف، کتاب  
الحدود، باب الضرب بالجريدة والمعال، ص ۱۱۲۸، نمبر ۶۷۷)  
ترجمہ۔ حضور ﷺ نے شراب کی سزا میں کھجور کی چھڑی اور جوتوں سے مارا۔  
ان دونوں حدیثوں میں حضور ﷺ نے حد کا فیصلہ کیا ہے جو اس وقت حاکم اور قاضی تھے، اس لئے قاضی  
کے فیصلے سے ہی حد کی سزا دی جاسکے گی

اس لئے جہاں شرعی قاضی نہیں ہے وہاں حد کی سزا نہیں ہو گی، ورنہ عوام میں انتشار ہو گا، البتہ وہاں کے  
حاکم سے تعزیر کا مطالبہ کر سکتے ہیں، کہ وہ ایسی غیر اسلامی حرکت کرنے والے کو تنبیہ کرے

[۳]، تیسرا شرط یہ ہے کہ تین دنوں تک توبہ کی مہلت دی جائے گی، تیسرا شرط یہ ہے کہ تین دن تک مہلت دی جائے گی، اس آدمی کو بار بار سمجھایا جائے گا، اور اسلام کی حقانیت واضح کی جائے، تین دنوں تک سمجھانے بعد بھی نہیں مانے گا تب جا کر اس کو قتل کیا جائے گا

تین دنوں تک سمجھانے کی دلیل یہ صحابی کا قول ہے۔

7- عن علیٰ قال یستتاب المرتد ثلاثا (مصنف ابن ابی شیبۃ، ۳۰۰ ما قالوا فی المرتد کم یستتاب، رج سادس، ص ۲۲۲، نمبر ۳۲۷ رسنن للبیهقی، باب من قال تکبیس ثلاثة ایام، رج ثامن، ص ۳۵۹، نمبر ۱۶۸۸)

ترجمہ۔ حضرت علیؓ مرتد سے تین دن تک توبہ کرنے کا مطالبہ کرتے تھے

حضرت عمرؓ تین دن مہلت دینے پر سختی کرتے تھے

8- لما قدم على عمر فتح تستر. و تستر من ارض البصرة. سألهم هل من مغربية؟ قالوا رجل من المسلمين لحق بالمضاركين فاخذناه، قال ما صنعتم به؟ قالوا قتلناه، قال : قال افلا ادخلتموه بيتا واغلقتم عليه بابا واطعمتموه كل يوم رغيفا ثم استبتموه ثلاثا . فان تاب والا قتلتموه ثم قال اللهم لم اشهد ولم امر ولم ارض اذا بلغنى (مصنف ابن ابی شیبۃ، ۳۰۰ ما قالوا فی المرتد کم یستتاب، رج سادس، ص ۲۲۲، نمبر ۳۲۷ رسنن للبیهقی، باب من قال تکبیس ثلاثة ایام، رج ثامن، ص ۳۵۹، نمبر ۱۶۸۸)

ترجمہ۔ جب حضرت عمرؓ کے پاس تستر کی فتح کی خبر آئی۔ تستر یہ بصرہ کا علاقہ ہے۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا کہ مغرب کا کوئی آدمی ہے؟ لوگوں نے کہا مسلمان کا ایک آدمی مشرک ہو گیا تھا، تو ہم نے اس کو کپڑا لیا

حضرت عمرؓ نے پوچھا اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟، لوگوں نے کہا ہم نے اس کو قتل کر دیا۔ تو حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ، اس کو گھر میں نہیں بند کر دیتے، اور اس کو ہر روز روٹی کھلاتے، پھر تین دنوں تک اس سے توبہ کا مطالبہ کرتے، اگر تو بہ کر لیتا تو چھوڑ دیتے، ورنہ اس کو قتل کر دیتے، پھر حضرت عمرؓ نے فرمایا اللہ گواہ رہنا، میں نے نہ ان لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، اور جب اس کے قتل کی بات پہنچی تو میں اس سے راضی بھی نہیں ہوں۔

ان صحابی کے قول میں ہے کہ، تین دن سے پہلے قتل کرنے پر حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اے اللہ نہ میں اس میں حاضر ہوں اور نہ میں نے اس کا حکم دیا اور نہ میں اس سے راضی ہوں۔ جس سے معلوم ہوا کہ تین دن تک مهلت دینا ضروری ہے۔ تین دنوں کے بعد بھی اپنے قول پر اڑا رہے تب جا کر اس کو قتل کیا جائے گا

ان شرطوں پر اس وقت عمل کرنا اس لئے بھی ضروری ہے کہ، دیکھا گیا ہے کہ ایک آدمی کسی پر شرک کا یا گستاخی کا الزام ڈالتا ہے، اور اس کی سزا کے لئے ایک بھی جمع ہو جاتی ہے اور وہ یہ مطالبه کرتی ہے کہ اس ملزم کو ہمارے حوالے کروتا کہ ہم لوگ اس کو سزا دیں اور سڑک پر پیٹ پیٹ کر مار دیں، اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، اس صورت حال سے پورے ملک میں انتشار پیدا ہوتا ہے، اور میڈیا والے اس کو اچھا لتے ہیں کہ دیکھو سلام کتنا خطرناک مذہب ہے اس لئے اس کا خاص خیال رکھیں کہ حد کی سزا دینے کے لئے شرعی قاضی کا ہونا ضروری ہے، یہ عوام کا کام نہیں ہے۔

## آدھے جملے سے مشرک نہ بنائیں

اس وقت کئی ملکوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کسی کا آدھا جملہ لے لیا، یا کسی کی بات کو توڑ مڑوڑ کر پیش کر دیا، یا اس نے تقریر کے دوران کوئی ایسی بات کہہ دی جو کسی چھوٹے جزیئے کے خلاف تھا، اس کو لوگوں نے رکارڈ کر لیا، اب اسی کو لیکر بیٹھا ہے، اور اس کو قتل کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اب وہ لاکھ مرتبہ اس سے انکار کرتا ہے یا تو بے کرتا ہے تب بھی نہیں مانا جاتا ہے، اور اس کو پچھانی پر لٹکا کردم لیتے ہیں، ان حرکتوں کو غیر مسلم ملک میڈیا پر بار بار دکھلاتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ اسلام نعوذ بالله ظالم ہے کہ اپنے اختیار سے ایک نہ ہب اختیار کرتا ہے، اس کی بھی آزادگی چھین لیتا ہے، اور اس کو سر عام پچھانی پر لٹکا دیتا ہے۔ حالانکہ ابھی گزر اک حقیقی مرتد ہونے کے باوجود اگر وہ تو بے کر لیتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔

میں نے ایک کتاب دیکھی جسکو ختم نبوت ثابت کرنے کے لئے لکھی تھی، اور مصنف نے حضور ﷺ کو انسان، جنات، اور فرشتوں، اور ساری دنیا کے لئے آخری نبی ثابت کیا تھا، لیکن کچھ حضرات کو دیکھا کہ کہیں کہیں سے جملے کا ٹیکا اور یہ ثابت کیا کہ یہ صاحب ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں، اور اس کی اتنی تشهیر کی کہ بہت سے آدمی یہ سمجھنے لگے کہ واقعی وہ مصنف ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں، میں نے اصل کتاب کو دیکھا تو حیران ہو گیا، کہ کس طرح جملوں کو کاٹ کر بدنام کیا گیا ہے، اس لئے اس قسم کے فیصلوں کے لئے ضروری ہے کہ انکار کرنے والوں کو تین دن تک سمجھا جائے، اور کسی صورت سے بھی مسلمان ثابت ہو تو اس کو قتل نہ کیا جائے، ورنہ تو بے پناہ انتشار ہوتا ہے، اور اسلام بدنام ہوتا ہے۔

آن جل میڈیا والے یہ سوال بہت اٹھاتے ہیں کہ آیت میں -**لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدٌ**

مِنَ الْغَيْ - (آیت ۲۵۶، سورت البقرۃ ۲) - ہے دین اور مذہب کو قبول کروانے میں زبردستی نہیں ہے کہ، تو مرتد نے اپنی مرضی سے دوسرا دین قبول کیا تو اس کو قتل کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کو سمجھائے کہ یہ ان ملکوں میں کیا جائے گا جہاں اسلامی حکومت ہے، یہ مسئلہ یورپ اور امریکہ کے لئے ہے ہی نہیں، اس لئے اس بارے میں بحث کرنا بیکار ہے۔

### تعزیر کیا ہے

قرآن میں کئی جرموں کے لئے حد مقرر کی ہے، غیر مسلم ملکوں میں قاضی نہ ہونے کی وجہ سے وہ حد نہیں لگائی جاسکتی ہے اس لئے حد سے کم یعنی چالیس کوڑے سے کم انتالیس کوڑے تک لگانے کا مطالبہ کرنا تعزیر ہے، یا محروم پر کوئی مناسب جرمانہ لازم کرنا تعزیر ہے، غیر مسلم ملکوں میں اس کا مطالبہ کرنا جائز ہے۔

### مرتد کو سزادینے کی حکمت کیا ہے

مرتد کی سزا میں اصل حکمت یہ ہے کہ، اسلامی حکومت میں یہ چھوٹ دی جائے تو دوسروں کو کفر اختیار کرنے کا موقع ملے گا، اور اس سے اس کی آخرت بر باد ہو جائے گی، کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، اس لئے اس کی آخرت بچانے کے لئے یہ اقدام کیا جاتا ہے۔ اس میں خود مرتد کا فائدہ ہے، جو وہ سمجھ نہیں رہا ہے۔

اس عقیدے کے بارے میں ۱ آیتیں اور ۸ حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

## ۳۴۔ اہل قبلہ کون لوگ ہیں

اس عقیدے کے بارے میں 2 آیتیں اور 5 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

حضورؐ کی لائی ہوئی تمام باتوں کو دل سے ماننے کا نام اہل قبلہ ہے

عقیدۃ الطحاویۃ میں عبارت یہ ہے

و نسمی اہل قبلتنا مسلمین مومنین ،ما داموا بما جاء به النبی ﷺ معتبرین، و له بكل ما قال و اخبر مصدقین - (العقیدۃ الطحاویۃ، عقیدہ ناصر، ص ۵۲)

ترجمہ۔ جو اہل قبلہ ہیں ہم اس کو مسلمان اور مومن سمجھتے ہیں بشرطیکہ حضورؐ جو کچھ لے کر آئے ہیں ان کا اعتراض کرنے والا ہو، اور جو کچھ آپ نے کہا ہے اور خبر دی ہے ان کی تصدیق کرنے والا ہو اس عبارت میں فرمایا کہ حضورؐ جو کچھ لائے ہیں ان کا اعتراض کرتا ہو کہ یہ اللہ کی جانب سے ہیں، اور جو کچھ آپ نے کہا ہے اس کی دل سے تصدیق کرتا ہو تو وہ مومن ہے، مسلمان ہے، اور وہی اہل قبلہ ہے

ان احادیث میں اس کی دلیل ہے

۱- عن انس بن مالک قال قال رسول الله ﷺ من صلی صلاتنا و استقبل قبلتنا و اكل ذبيحتنا فذالك المسلم الذى له ذمة الله و ذمة رسوله فلا تكفروا الله فى ذمته۔ (بخارى شریف، کتاب الصلاۃ، باب فضل استقبال القبلة، ص ۲۹، نمبر ۳۹۱)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ جس نے ہماری طرح نماز پڑھی، ہمارے قبلے کا استقبال کیا، ہمارا ذبح کیا ہوا گوشت کھایا تو یہ مسلمان ہے، جس کے لئے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ہے، اس لئے اللہ کے ذمے کومت چھپا و۔

۲- عن انس بن مالک قال قال رسول الله ﷺ امروت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ، فادا قالوها و صلو اصلاتنا و استقبلوا قبلتنا و ذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دمائهم و اموالهم الا بحقها و حسابهم على الله۔ (بخاری شریف، نمبر ۳۹۲)۔ ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا، جب تک کہ لا اله الا الله، نہ کہے اس وقت تک مجھے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پھر جب، لا اله الا الله، کہہ لے، اور ہماری طرح نماز پڑھنے لگے، ہمارے قبلے کا استقبال کرنے لگے، ہمارا ذبح کیا ہوا گوشت کھانے لگے، تو اس کا خون کرنا، اس کا مال چھیننا ہم پر حرام ہے، ہاں جو اللہ کا حق ہے ہم وہ لیں گے، باقی اس کا حساب اللہ پر ہے

اور اگلی حدیث میں ہے۔ فهو مسلم له مال المسلمين و عليه ما على المسلمين۔ (بخاری شریف، کتاب الصلاۃ، باب فضل استقبال القبلة، ص ۲۹، نمبر ۳۹۲/۳۹۳)

ترجمہ۔ اگلی حدیث کے لئے کاترجمہ۔ یوگ مسلمان ہیں، مسلمان کا جو حق ہے یہ اس کو بھی ملے گا، اور مسلمان پر جو ذمہ داریاں ہیں ان پر بھی یہ ذمہ داریاں ہوں گی ان تینوں حدیثوں میں یہ ہے کہ اہل قبلہ ہوتو وہ مسلمان ہے اس کو نہ کافر کہو اور نہ کافر جیسا برتاو کرو۔

## جو لوگ ان چھ چیزوں کو دل سے مانتا ہوا سکوا اہل قبلہ کہتے ہیں

[۱] اللہ کو۔ [۲] رسول کو [۳] اللہ کی کتاب، یعنی قرآن کریم کو۔ [۴] فرشتے کو، [۵] آخرت کے دن کو۔

[۶] اور تقدیر کو مانتا ہوا سکومون کہتے ہیں، اور وہ اہل قبلہ ہیں۔

عقیدۃ الطحاویۃ میں، عبارت یہ ہے

و الایمان هو الایمان بالله ، و ملائکته ، و کتبه ، و رسالہ و الیوم الآخر ، و القدر

خیرہ و شرہ و حلوہ و مرہ من الله تعالیٰ۔ (عقیدۃ الطحاویۃ، عقیدہ نمبر ۲۶، ص ۱۵)

ان باتوں پر ایمان لانے کی دلیل ایمان کی بحث میں گزر چکی ہے

اس سے پہلے کی عبارت میں بھی ہے کہ حضور ﷺ کی لاٹی ہوئی باتوں کا اعتراف کرتا ہو، اور ان کو دل سے مانتا ہو تو وہ مون ہے مسلمان ہے، اور وہی اہل قبلہ ہے، صرف ہمارا ذبیحہ کھانے سے اہل قبلہ نہیں ہو

جائے گا

اس کی پوری تفصیل ایمان کی بحث میں دیکھیں

## فاجر کی امامت جائز ہے، البتہ مکروہ ہے

کسی کو اپنے اختیار سے امام متعین کرے تو متفقی اور پر ہیز گار کو امام متعین کرے، لیکن کہیں مجبوری کے درجے میں کسی فاسق، فاجر کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے تو اس کے پیچھے نماز پڑھ لے، تاکہ جماعت سے نماز ادا ہو جائے، اور آپ کے چھوٹے کی وجہ سے منتشر بھی نہ ہو  
آج کل ذرا ذرا سی بات پر اختلاف کر لیتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے ہیں، غیر کے ملکوں میں اتحاد برقرار رکھنے کے خاطر اس سے بچنے کی ضرورت ہے

فاجر کی امامت کے بارے میں عقیدۃ الطحاویہ کی عبارت یہ ہے

- و نری الصلوۃ حلف کل برو فاجر من اهل القبلة و على من مات منهم۔ (عقیدۃ الطحاویہ، عقیدہ نمبر ۶۹، ص ۱۶)

ترجمہ۔ جو اہل قبلہ ہیں، ان میں سے ہر نیک اور فاجر کے پیچھے نماز پڑھنا جائز سمجھتے ہیں، اور اہل قبلہ میں سے جو نیک، یا فاجر مر گیا ہواں پر نماز جنازہ پڑھنا بھی جائز سمجھتے ہیں  
اس عبارت سے معلوم ہوا کہ احتیاط تو اسی میں ہے کہ نیک لوگوں کے پیچھے نماز پڑھے، لیکن کبھی فاجر کے پیچھے نماز پڑھنے پڑے تو پڑھ لے، کیونکہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے  
اس کے لئے حدیث یہ ہے

3۔ عن ابی هریرۃ قال قال رسول الله ﷺ الصلاۃ المکسوۃ واجبة حلف کل مسلم برا کان او فاجرا ، و ان عمل الكبائر۔ (ابوداؤ شریف، کتاب الصلاۃ، باب امامۃ البر و

(الفاجر، ص ۹۷، نمبر ۵۹۲)

حضرورؐ نے فرمایا کہ فرض نماز ہر مسلمان کے پیچھے پڑھنا واجب ہے، چاہے وہ نیک ہو یا فاجر ہو، اور چاہے وہ گناہ کبیرہ کرتا ہو اس حدیث میں ہے کہ انسان نیک ہو یا فاجر ہو اس کے پیچھے نماز جائز ہے بشرطیکہ وہ مسلمان ہو، کافر اور مشرک نہ ہو

تاہم نیک امام مل جائے تو ہمیشہ کے لئے اس کو امام بنانا بہتر ہے، اس کے لئے یہ حدیث ہے

4- عن جابر بن عبد الله قال خطبنا رسول الله ﷺ ..... الا لا تؤمن امراة رجلا و لا يوم اعرابي مهاجرأ و لا يوم فاجر مؤمنا الا يقهره بسلطان يخاف سيفه و سوطه -

(ابن ماجہ شریف، کتاب اقامة الصلوٰۃ، باب فی فرض الجمعۃ، ص ۱۵۲، نمبر ۱۰۸۱)

ترجمہ۔ حضورؐ نے ہم کو خطبہ دیا۔۔۔ سن اور عورت مرد کی امامت نہ کرے، دیہاتی ہجرت کئے ہوئے صحابی کی امامت نہ کرے، فاجر مقتی مومن کی امامت نہ کرے، ہاں کوئی بادشاہ اس کو مجبور کر دے، اور آدمی اس کی تلوار، اور اس کے کوڑے سے ڈرتا ہو تو [تو پھر اس فاجر کے پیچھے نماز پڑھ لے] لیکن اگر وہ آدمی اعتقاد کے اعتبار سے ہر طرح سے مشرک ہے تو اب اس کی امامت جائز نہیں ہے۔ کیونکہ وہ تو مسلمان ہی نہیں رہا

اس وقت کا عالم یہ ہے کہ بہت سی جگہ ایک مسلک والا دوسرا مسلک والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں جس سے اتنا انتشار ہے کہ قوم کی قوم بتاہ ہو رہی ہے

اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے

## اسلام میں تشدید بھی نہیں ہے، اور بہت دھیل بھی نہیں ہے

اسلام میں تشدید بھی نہیں ہے، اور بہت دھیل بھی نہیں ہے، اس کے درمیان ہے عقیدۃ الطحاویۃ میں عبارت یہ ہے

و هو [يعنى الاسلام] بين الغلو و التقصير ، و بين التشبيه و التعطيل ، و بين الجبر و القدر ، و بين الامن و الياس - (عقیدۃ الطحاویۃ، عقیدہ نمبر ۱۰۲، ص ۲۲)

ترجمہ۔ [بہت زیادہ غلو کرنا، اور بہت زیادہ کمی کرنا]، اللہ کو کسی کے مشابہ قرار دینا، اور اللہ کو بیکار سمجھنا، [اللہ کو مجبور سمجھنا، انسان کو قادر سمجھنا]، گناہ سے بے خوف ہو جانا، اللہ سے بالکل مایوس ہو جانا، اسلام اس کے درمیانی راستے کو کہتے ہیں

اس عبارت میں ہے کہ زیادہ غلو کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، اور بہت کمی کرنا بھی ٹھیک نہیں، اس کے درمیانی راستے کو اسلام کہتے ہیں  
اس کے لئے آیت یہ ہے

۱۔ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُبُوا فِي دِينِكُمْ وَ لَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ - (آیت ۱۷۱، سورت النساء ۲۴)

ترجمہ۔ اے اہل کتاب! اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو، اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کوئی بات نہ کہو۔

۲۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَ لَا تَعْنَدُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ - (آیت ۷۸، سورت المائدۃ ۵)

ترجمہ۔ اے ایمان والو! اللہ نے تمہارے لئے جو پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں ان کو حرام قرار نہ دو، اور حد سے تجاوز نہ کرو، یقین جانو اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ان دونوں آیتوں میں ہے کہ حد سے تجاوز کرنا ٹھیک نہیں ہے،

5- عن انس ان نفرا من اصحاب النبی ﷺ سأّلوا ازواجا النبی ﷺ عن عمله فی السر ؟ فقال بعضهم لا اتزوج النساء و قال بعضهم لا أَكُل اللحم و قال بعضهم لا انام فی فراش ، فحمد الله و اثنى عليه فقال: ما بال اقوام قالوا كذا كذا ؟ لکنی اصلی و انام و اصوم و افترط و اتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتی فليس مني - ( مسلم شریف، کتاب النکاح، ص ۵۸۶، نمبر ۱۲۰۳ )

ترجمہ۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ کچھ صحابہ نے حضورؐ کی بیویوں سے حضورؐ کی خانگی عمل کے بارے میں پوچھا؟ پھر ان میں سے ایک نے کہا میں عورتوں سے شادی ہی نہیں کروں گا، دوسرا نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا، ایک نے کہا کہ میں بستر پر نہیں سوؤں گا، تو حضورؐ نے حمروشا کے بعد فرمایا، کہ لوگوں کو کیا ہوا کہ اس اس طرح کہتے ہیں، لیکن میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، اور کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، یہ میری سنت ہے، جو میری سنت سے بے رغبتی کر دے مجھ میں سے نہیں ہے اس حدیث میں ہے کہ اتنا تشدد بھی نہ کرے کہ لوگ تنگ آجائے، اور اتنی سہولت بھی نہ دے کہ لوگ حرام کا ارتکاب کرنے لگے۔

اس عقیدے کے بارے میں 2 آیتیں اور 5 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

## ۳۵۔ پیری مریدی

اس عقیدے کے بارے میں 3 آیتیں اور 7 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

### پیری مریدی کا فائدہ

پیر مخلص ہو، مرید کو نیک انسان بنانے کی تڑپ ہو اور خود بھی نیک انسان ہو تو اس سے مرید کو فائدہ ہوتا ہے، وہ بھی نیک انسان بن جاتا ہے، جیسے استاد اچھا ہو، مخلص ہو اور اچھی طرح پڑھاتا ہو تو اس سے شاگرد بہت اچھا لکھتا ہے، اسی طرح پیر کا حال ہے۔  
 لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ مرید میں بھی نیکی حاصل کرنے کی صلاحیت ہو، اور وہ نیک بننے کے لئے پوری محنت کرتا ہو، تب وہ نیک بنتا ہے، ورنہ خالی رہ جاتا ہے۔  
 اسی شاگردی میں آنے کے لئے پیر کے ہاتھ پر عہد کرتے ہیں کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی نصیحت مانوں گا اور شریعت پر پابندی سے عمل کروں گا، اسی عہد کا نام بیعت ہے۔

## پیرا پنے مرید کو یہ چار فائدے دے سکتے ہیں

حضور ﷺ کو ان چار کاموں کے لئے بھیجا گیا ہے، ایک پیر کا بھی یہی کام ہے کہ اپنے مرید کو یہ چار کام سکھلائے

- [۱] امت کے سامنے قرآن پڑھے،
- [۲] انکو قرآن سکھلائے
- [۳] حکمت سکھلائے
- [۴] اور تذکیہ کرے ۔

اس کے لئے آتیں یہ ہیں

۱- هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتَلَوَّا عَلَيْهِمُ اِبْرَاهِيمُ وَ يُزَكِّيْهِمْ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ اِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفْنِي صَلَالٍ مُّبِينٍ (آیت ۲، سورۃ الجمعۃ) ۲۲  
ترجمہ۔ وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جوانکے سامنے اس کی آتیوں کی تلاوت کریں، اور ان کو پاکیزہ بنائیں، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں، جبکہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں پڑھے ہوئے تھے

۲- رَبَّنَا وَ ابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتَلَوَّا عَلَيْهِمُ اِبْرَاهِيمُ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيْهِمْ ۔ (آیت ۱۲۹، سورۃ البقرۃ) ۲

ترجمہ۔ اور ہمارے پروڈگار! ان میں ایک ایسا رسول بھی بھیجا جو انہیں میں سے ہو، جوانکے سامنے تیری آتیوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنائے۔

اس آیت میں ہے کہ حضورؐ کو چار کام کے لئے مبعوث کیا گیا ہے۔ [۱] قرآن کی تلاوت کرنے کے لئے [۲] قرآن سکھلانے کے لئے، [۳] حکمت سکھلانے کے لئے [۴] اور تزکیہ کرنے کے لئے، پیر صاحب اپنے ہوں تو یہی چار کام وہ سکھلاتے ہیں، اور مرید کو یہی فائدہ ہوتا یہاں تفسیر ابن عباس میں تزکیہ کا معنی کیا ہے، کہ پیر صاحب، تو حید سمجھا کرشک سے بچانے کی کوشش کریں گے، اور توبہ کرو اگر گناہ سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ کیم کا یہی مطلب ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ پیر صاحب کوئی خاص قسم کی دل کی صفائی کر دیں گے، جیسا کہ بعض حضرات سمجھتے ہیں، اگر ایسا ہوتا تو پیر صاحب پہلے اپنی اولاد کا تزکیہ کر لیتے اور ہر پیر کا بیٹا ولی کامل ہوتا، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے پیر کی اولادنا کا رہ، اور نااہل ہوتی ہے تفسیر ابن عباس کی عبارت یہ ہے

- ﴿وَيَزْكِيهِمْ يَطْهِرُهُمْ بِالْتَّوْحِيدِ مِنَ الشَّرِكِ، وَيَقَالُ بِالنِّزْكَةِ وَالْتُّوبَةِ مِنَ الذُّنُوبِ، إِذَا يَدْعُوهُمْ إِلَى ذَالِكَ﴾ (تفسیر ابن عباس، آیت ۲، سورہ الجمعۃ ۶۲)

ترجمہ۔ لوگوں کو پاک کرتے ہیں، یعنی تو حید کے ذریعہ شرک سے پاک کرتے ہیں، بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ، زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کرواتے ہیں، توبہ کرنے کی طرف لوگوں کو بلاستے ہیں

اس تفسیر میں ہے کہ تو حید کے ذریعہ مریدوں کو شرک سے پاک کرنے کی کوشش کریں گے، اور گناہوں سے توبہ کروانے کی کوشش کریں گے۔ اس لئے یہ مطلب نہیں ہے کہ دل کی کوئی خاص قسم کی صفائی کریں گے۔

اور یہ شرک سے تزکیہ بھی اس وقت ہوتی ہے جب خود مرید میں صلاحیت ہو اور خود بھی شرک سے بچنے کی محنت کرے، اگر وہ محنت نہ کرے تو پیر صاحب لاکھ سر مارے کچھ نہیں ہوتا۔

## پیر خدا ترس ہو تو اس کا زیادہ اثر پڑتا ہے

۱- ان اسماء بنت یزید انہا سمعت رسول اللہ ﷺ يقول : الا ینبأ کم بخیار کم ؟  
 قالوا بلى یا رسول اللہ قال خیار کم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ عز و جل - (ابن ماجہ  
 شریف، کتاب الزہد، باب من لایہ به، ص ۲۰۱، نمبر ۳۱۹)

ترجمہ۔ میں نے حضورؐ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں سے اچھے کوں ہیں اس کی خبر دوں؟ لوگوں نے  
 کہا، ہاں یا رسول اللہ! آپؐ نے فرمایا، تم میں سے اچھے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو دیکھو تو خدا یاد آجائے

اس حدیث میں ہے کہ جسے دیکھ کر خدا یاد آئے، وہ اچھے لوگ ہیں، اس لئے پیر ایسا اللہ والا ہو جس کو دیکھ  
 کر خدا یاد آئے۔ اور اگر پیر کی شان و شوکت دیکھ کر دنیا یاد آئے لگتی ہے تو، یا اس کی مکاری کو دیکھ کر آپ  
 کا جیگھرا تا ہے تو اس پیر کے پاس بیٹھ کر آپ کو کیا ملے گا

اس حدیث میں ہے کہ نیک لوگ ہو تو اس کے پاس بیٹھنے اس کا اثر پڑتا ہے کہ آخرت میں جی لگنے لگتا  
 ہے، اور بد کار آدمی ہو یا مکار پیر ہو تو اس کے پاس بیٹھنے سے اس کا بھی اثر پڑتا ہے کہ دنیاداری میں جی  
 گنے لگتا ہے  
 حدیث یہ ہے

۲- سمعت ابا بردہ بن ابی موسی عن ابیه <sup>رض</sup> قال قال رسول اللہ ﷺ مثل الجليس  
 الصالح و الجليس السوء كمثل صاحب المسك و كير الحداد ، لا يعدمك من

صاحب المسك اما تشریفیہ او تجد ریحہ، و کیر الحداد یحرق بیتک، او ثوبک، او تجد منه ریحا خبیثة۔ (بخاری شریف، کتاب البویع، باب فی العطار و بیع المسك، ص ۳۳۸، نمبر ۲۱۰۱، مسلم شریف، کتاب البر والصلة، باب استخباب مجالسة الصالحین و مجانبة قرناء السوء، ص ۱۱۳۶، نمبر ۲۶۲۸)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ نیک بیٹھنے والے اور برے بیٹھنے والے کی مثال ایسی ہے، جیسے مشک والا، اور لوہار کی بھٹی، مشک والا سے آپؐ کو کچھ نہ کچھ ملے گا ہی، یا اس سے مشک خریدیں گے، یا اس کی خوبیوں ضرور ملے گی، اور لوہار کی بھٹی یا آپؐ کا گھر جلانے گی، یا آپؐ کا کپڑا جلانے گی، یا اس کی بدبو ضرور ملے گی

اس حدیث میں ہے کہ نیک لوگوں کا اور برے لوگوں کا اثر پڑتا ہے

ان احادیث سے پتہ چلا کہ پیر صاحب اپنے ہوں اور مخلص ہوں، اور ان سے فائدہ حاصل کرنے والا بھی مخلص ہو اور لگن کے ساتھ حاصل کرے تو اس سے اوپر کے چار فائدے، اور چار فیض حاصل ہوتے

ہیں

## دنیا طلب کرنے کے لئے پیر بانا، یا مرید بانا اچھی بات نہیں ہے

اس کے لئے یہ حدیث ہے

3- سمعت ابا هریرۃؓ یقول قال رسول الله ﷺ ثلثۃ لا ينظر الله اليهم يوم القيمة و لا يزكيهم و لهم عذاب اليم ..... و رجل بايع امامه لا يباعيه الا لدنيا فان اعطاه منها رضى و ان لم يعطه منها سخط ... ثم قرأ ﴿اَنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بَعْهَدَ اللَّهِ وَ اِيمَانَهُمْ ثُمَّ نَمَّا قَلِيلٌ﴾ [آل عمران: ۲۷]، سورت آل عمران (۳)۔ (بخاری شریف، کتاب المساقۃ باب اثر من منع ابن اسپیل من الماء، ص ۳۷۹، نمبر ۲۳۵۸)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ قیامت کے دن تین آدمیوں کی طرف اللہ نہیں دیکھیں گے، اور نہ اس کو پاک کریں گے، اور اس کے لئے در دن اک عذاب ہوگا۔۔۔ ایک آدمی جس نے اپنے امام سے بیعت کی، اور صرف دنیا کمانے کے لئے بیعت کی، اگر امام نے دیا تو اس سے راضی ہو گیا، اور اگر نہیں دیا تو اس سے ناراضی ہو گیا۔۔۔ پر حضورؐ نے یہ آیت پڑھی، جس کا ترجمہ یہ ہے۔ جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں سے تھوڑا سامال خریدتے ہیں۔ انہیں۔۔۔

اس حدیث میں ہے کہ دنیا کے لئے جو بیعت کرتا ہے اللہ قیامت کے روز اس کی طرف، رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، اور نہ اس کو پاک کریں گے، اور ان کے لئے در دن اک عذاب ہوگا۔

اس دور میں کچھ لوگوں نے مرید کرنا بھی ایک دھندرہ بنا لیا ہے، مالدار مریدوں سے خلافت اور مریدی کے نام پر بہت لوٹتے ایسے پیروں سے چوکنارہنگی کی ضرورت ہے، یہ دین کے لئے اور تربیت دینے کے لئے مرید نہیں بناتے بلکہ پیسہ کمانے کے لئے پیری مریدی کی جاں بچاتے ہیں۔ ایسے پیروں سے بچنا چاہئے۔

اس دنیا میں اچھے پیر بھی ہیں جو لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، میرے ایک استاذ تھے جو پیر تھے، وہ ہم لوگوں کو الٹا پیسہ دیا کرتے تھے، اور بہت مخلص تھے، ایک عظیم منفی ہونے کے باوجود پوری زندگی فقر و فاقہ میں گزار دی۔ میں آج تک ان سے متاثر ہوں۔

میری زندگی میں دو تین پیر ایسے ہی آئے جنہوں نے پوری زندگی فقر و فاقہ میں گزاری، اور مریدوں کی تربیت میں کوشش رہے، فللہ اللہ الحمد  
میں کسی سے نفرت کے لئے نہیں بلکہ لوگوں کو خرافات سے بچانے کے لئے یہ سب لکھ رہا ہوں، آپ میرے تجربے سے فائدہ اٹھائیں۔

## بیعت کی چار فسمیں ہوتی ہیں

[۱] ایمان پر برقرار رہنے کے لئے بیعت کرنا

[۲] جہاد کے لئے بیعت کرنا

[۳] خلافت کے لئے بیعت کرنا۔

[۴] اعمال صالحہ کرنے کے لئے، اور اس میں ترقی کرنے کے لئے بیعت کرنا

[۱] ایمان پر برقرار رہنے کے لئے اور اعمال صالحہ کے لئے بیعت کرنا

۳۔ اس کے لئے یہ آیت ہے۔**يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَأِ يَعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكَنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا وَ لَا يَسْرِقْنَ وَ لَا يَرْزُقْنَ وَ لَا يَقْتُلْنَ أُولَادَهُنَّ وَ لَا يَأْتِيْنَ بِهُنَّاْنِ يَقْتَرِنُهُنَّ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ لَا يَعْصِيْنَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَأْيَهُنَّ وَ اسْتَغْفِرُهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ (آیت ۱۲، سورت الحجۃ ۶۰)**

ترجمہ۔ اے نبی جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کے لئے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں مانیں گی، اور چوری نہیں کریں گی، اور زنا نہیں کریں گی، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور نہ کوئی ایسا بہتان باندھیں گی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گھٹ لیا ہو، اور کسی بھلے کام میں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو تم انکو بیعت کر لیا کرو، اور ان کے حق میں اللہ سے مغفرت کی دعا کیا کرو، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ اس آیت میں حضورؐ سے نیک اعمال کرنے پر بیعت لینے کے لئے کہا گیا

[۲] جہاد کرنے کے لئے بیعت کرنا، اس کے لئے یہ آیتیں ہیں

۴- إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ (آیت ۱۰، سورت الفتح) ۲۸

ترجمہ۔ اے رسول جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ انکے ہاتھوں پر ہے، اس کے بعد جو کوئی عہد توڑے گا، اس کاوبال اسی پر پڑے گا، اور جو کوئی اس عہد کو پورا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے، تو اللہ زبردست ثواب عطا کرنے والا ہے

۵- لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَانْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَسْحًا قَرِيبًا۔ (آیت ۱۸، سورت الفتح)

ترجمہ۔ یقیناً اللہ ان مونوں سے براخوش ہوا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، اور ان کے دلوں میں جو کچھ تھا وہ بھی اللہ کو معلوم تھا، اس لئے ان پر سکینت اتار دی، اور ان کو انعام میں ایک قریبی فتح عطا فرمادی۔

ان دونوں آیتوں میں جہاد پر بیعت کرنے کا ذکر ہے۔

[۳] خلافت کے لئے بیعت کے لئے صحابی کا یہ عمل ہے

۴- فَحَمَدَ اللَّهُ أَبُو بَكْرٍ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ..... فَقَالَ عُمَرُ بْنُ نَبِيِّكَ أَنْتَ سَيِّدُنَا وَ خَيْرُنَا وَاحْبَبْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاخْذَ عُمَرُ بْنِيَّهُ فَبَايَعَهُ وَ بَايَعَهُ النَّاسُ - (بخاری شریف، کتاب فضائل الصحابة باب، ص ۲۱۶، نمبر ۳۶۶۸)

ترجمہ۔ حضرت ابو بکرؓ نے اللہ کی حمد و شناکی۔۔۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، ہم میں سے اچھے ہیں، حضورؐ کو آپ بہت محبوب تھے، یہ کہہ کر حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکرؓ کا ہاتھ پکڑا، اور ان سے بیعت کر لی، پھر لوگوں نے بھی حضرت ابو بکرؓ سے بیعت کی۔ اس حدیث میں خلافت پر بیعت کرنے کا ثبوت ہے۔

[۲] اعمال صالحہ کرنے کے لئے، اور اس میں ترقی کرنے کے لئے بیعت کرنا

5۔ سمعت جریر بن عبد اللہؓ يقول بایعت رسول الله ﷺ علی شهادة ان لا اله الا الله ، و ان محمد رسول الله و اقامة الصلاة و ايتاء الزكوة و السمع و الطاعة و النصح لكل مسلم ۔ (بخاری شریف کتاب البویع، باب هل بیع حاضر لباد بغیر اجر، ص ۳۲۵، نمبر ۲۱۵)

ترجمہ۔ حضرت جریر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ میں حضور ان بالتوں پر بیعت کی، شہادة ان لا اله الا الله ، و ان محمد رسول الله ، اور نماز قائم کروں، زکوٰۃ دوں، حضور کی بات سنوں، ان کی اطاعت کروں، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کروں اس حدیث میں ہے کہ اعمال صالحہ کرنے کے لئے حضورؐ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی

حضور عورتوں سے بیعت کرتے تھے لیکن انکے ہاتھ کو نہیں چھوٹے تھے،

حضور عورتوں سے بیعت کرتے تھے انکے ہاتھ کو نہیں چھوٹے تھے، پر دے میں رہ کر بیعت کرتے تھے، اس کے لئے یہ حدیث ہے

6- عن عائشة زوج النبي ﷺ..... قالت عائشة فمن اقر بهذه الشرط من المؤمنات فقد اقر بالمحنة، فكان رسول الله ﷺ اذا اقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله ﷺ انطلقن فقد بايتكن ، لا و الله ما مست يد رسول الله ﷺ يد امراة قط غير انه بايجهن بالكلام ، و الله ما اخذ رسول الله على النساء الا بما امره الله ، يقول لهن اذا أخذ عليهن قد بايتكن كلاما - (بخاري شریف، کتاب الطلاق، باب اذا اسلمت المشركة او النصرانية تحت الذمي او الحرمي، ص ۹۲۵، نمبر ۵۲۸۸)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں، مومن عورتوں میں سے جو آیت کی شرطوں کا اقرار کر لیتی تو گویا کہ اس نے امتحان دینے کی باتوں کا اقرار کر لیا، عورتیں جب باتوں سے ان چیزوں کا اقرار کر لیتیں، تو حضورؐ کہتے، تم لوگ چلے جاؤ، میں نے تم سے بیعت کر لی ہے، خدا کی قسم حضورؐ کے ہاتھ نے کسی عورت کا ہاتھ کبھی نہیں چھوپا، صرف بات سے ہی بیعت کر لیا کرتے تھے، اللہ نے جتنا حکم دیا تھا، حضورؐ عورتوں کے ساتھ اتنا ہی معاملہ کرتے، حضور جب عورتوں سے بیعت لیتے تو یہی کہتے، میں نے بات [کلام] سے ہی تم سے بیعت کر لی ہے

اس حدیث میں ہے کہ عورتوں سے صرف کلام سے بیعت کی اس کا ہاتھ نہیں چھوپا۔

آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ مریدہ عورت پیر کے سامنے بے محابہ بیٹھی ہوئی ہے، اور بے پردگی کے وہ سارے کھلیل کرتے ہیں جو نہیں ہونی چاہئے، اس سے ہر حال میں پچنا چاہئے

## پیر صاحب آپ کو کوئی معنوی فیض دے دیں گے ایسا نہیں ہے

بعض پیر حضرات یہ تاً ثردیتے رہتے ہیں کہ میری خدمت کرو گے تو میں تمہیں کوئی معنوی فیض دے دوں گا اور مرید اس کے حاصل کرنے کے لئے برسوں خدمت میں لگا رہتا ہے اور وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ یہ معنوی چیز دینے کا واقعہ حدیث میں صرف ایک مرتبہ ہے جو مجذہ کے طور پر تھا، اس کے بعد پھر صادر نہیں ہوا۔۔۔ ورنہ ہر پیر اپنی اولاد کو یہ فیض پہلے دے دیتا۔

7- حدیث یہ ہے۔ عن ابی هریرۃؓ .... و قال النبی ﷺ یوماً لَن یسْطَ احْدَ مِنْکُمْ ثُوَبَهُ حتیٰ اقضی مقالتی هذہ ثُمَّ یجْمِعُهُ إلی صدرِهِ فِی نَسْبِی مِنْ مقالتی شیئاً ابداً ، فَبَسْطَتْ نَمَرَۃً لَیْسَ عَلَیٰ ثُوبَ غَيْرِهَا ، حتیٰ قَضَیَ النبی ﷺ مقالتہ ثُمَّ جَمَعَتْهَا إلی صدرِی فَوَالذِّی بَعْثَهُ بِالْحَقِّ مَا نَسِيَتْ مِنْ مقالتہ تَلَکَ الی یومِ هَذَا - (بخاری شریف، کتاب الحُرث و الْمُرْأَة، باب ماجاء فی الغرس، ص ۲۷۷، نمبر ۲۳۵۰)

ترجمہ۔ حضور پاک ﷺ نے ایک دن فرمایا کہ، کوئی اپنا کپڑا پھیلائے تاکہ اس میں اپنی کوئی بات کہہ دوں اور اس کو اپنے سے لگائے تو کبھی وہ میری بات نہیں بھولے گا، پس میں نے اپنی ایک چادر کو پھیلا دی، میرے پاس اس کے علاوہ تھی بھی نہیں، حضور ﷺ نے اپنی بات اس میں کہی، پھر اس چادر کو اپنے سینے پر چکالیا، پس قسم اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث کیا، آپ کی کوئی بات ابھی تک نہیں بھولی۔

یہ حدیث مجذہ کے طور پر ہے، ہمیشہ یہ بات نہیں تھی، ورنہ بار بار حضور یہ فیض دیتے اس عقیدے کے بارے میں 3 آیتیں اور 7 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

## ۳۶۔ تعویذ پہننا کیسا ہے

اس عقیدے کے بارے میں 4 آیتیں اور 29 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

### تعویذ کی سات فسمیں ہیں

- [۱]۔۔۔ قرآن اور حدیث کی جائز تعویذ کو جائز مقصد کے لئے پڑھی جائے، یا کی جائے تو یہ جائز ہے
- [۲]۔۔۔ تعویذ یا منتر میں اللہ کے علاوہ سے مدد مانگی گئی ہو تو یہ حرام ہے
- [۳]۔۔۔ تعویذ، یا منتر میں ایسے الفاظ استعمال کرنے گئے ہیں جن کا معنی کا پتہ نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ کے علاوہ سے مدد مانگی گئی ہو تو یہ بھی جائز نہیں ہے
- [۴]۔۔۔ نظر بد گانا
- [۵] جادو۔۔۔ یہ کرنا حرام ہے
- [۶] عراف۔۔۔ جو غیب جانے کا دعویٰ کرتا ہو۔ اس کے پاس جانا حرام ہے
- [۷] جنات نکالنا

## تعویذ کرنے کی دو صورتیں ہیں

[۱]۔۔۔ ایک ہے قرآن اور حدیث کو پڑھ کر پھونکنا، اس کا ثبوت حدیث میں ہے۔

[۲]۔۔۔ دوسرا ہے کہ آیت یا حدیث کو لکھ کر گلے میں لٹکانا، حدیث میں اس کی ممانعت معلوم ہوتی ہے۔۔۔ ہر ایک کے لئے آگے آیت اور حدیث دیکھیں

## بعض تعویذ کرنے والوں کا مکر

دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں

سب نہیں، بعض تعویذ کرنے والا، بیچ بیچ کی باتیں کرتا ہے، وہ نہ یہ کہتا ہے کہ جنات ہے، اور نہ وہ اس کا انکار کرتا ہے، بلکہ یوں کہتا ہے کہ اس پر جنات کا سایہ ہے یعنی جنات ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔، اور اس کے اتارنے کے لئے کافی پیسے وصول کر لیتا ہے، اور مہینوں بعد نہ اترے تو یہ کہہ دیتا ہے کہ میں ایک جنات کو نکال دیا تھا، لیکن اب اس کے خاندان کے لوگ آگئے ہیں، اب اس کو اتارنے کے لئے اور پیسے لیں گے۔

کبھی یہ بھی کہہ دیتے ہیں، کہ آپ کے قریب کے لوگوں نے جادو کیا ہے، یا تعویذ کی ہے، اور قریب میں پڑو سن، بھاوی، ساس، اور ندر ہوتیں ہیں تو ان میں سے کسی ایک سے زندگی بھر کے لئے اندر ہی اندر دشمنی ہو جاتی ہے، اور بعض مرتبہ بڑا ہنگامہ ہو جاتا ہے، اور یہ سب تعویذ والا کرواتا ہے، حالانکہ خود تعویذ والے کو اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، اس لئے ایسے تعویذ، اور جادو والوں سے پرہیز کرنا ہی بہتر ہے۔

اس آیت میں اس کی وضاحت ہے

۱۔ فَيَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّغُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءَ وَ زَوْجِهِ وَ مَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ

الْأَيَّادِنُ اللَّهُ - (آیت ۱۰۲، سورت البقرة ۲)

ترجمہ۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعہ شوہر، اور بیوی میں جدائی پیدا کر دیں، اور یہ واضح رہے کہ وہ اس کے ذریعہ کسی کو اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اس آیت میں فرمایا کہ یہ جادو کرنے والے عموماً ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ میاں، بیوی میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ رشتہ داروں میں دشمنی کروادیتا ہے۔ واقعی بعض تعویذ کرنے والے رشتہ داروں میں اختلاف کروادیتے ہیں۔

اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ ان تعویذ والوں کو ایک بات کا پتہ لگتا ہے تو اس میں سوجھوٹ ملا کر مریض کو بتاتے ہیں تاکہ اس کو یقین آجائے، اور اس کی دکان خوب چلے اس کے لئے حدیث یہ ہے۔

1- عن عائشة قالت قلت يا رسول الله ! ان الكهان كانوا يحدثونا بالشيء فجده حقا ، قال تلك الكلمة الحق يخطفها الجنى فيقذفها في اذن وليه ، ويزيد فيها مائة كذبة . (مسلم شریف، کتاب السلام، باب تحریم الکہانۃ واتیان الکہان، ص ۹۸۹، نمبر ۲۲۲۸) (۵۸۱۶/)

ترجمہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ، میں نے کہا کہا ہن کچھ بات ہم لوگوں سے کہتا ہے تو ہم اس کو سچ پاتے ہیں! تو حضورؐ نے فرمایا کہ جنات کوئی ایک سچی بات کو کہیں سے پالیتا ہے، وہ اپنے موکل کو بتاتا ہے، اور موکل اس میں سوجھوٹ ملا دیتا ہے اس حدیث میں ہے کہ موکل سوجھوٹ ملا کر لوگوں کو کہتا ہے

## جس گھر میں تعویز کاررواج ہو جاتا ہے، اس کی جان نہیں چھوٹی

بعض مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جس گھر میں تعویز کاررواج بہت ہو جاتا ہے، تو انکے گھروں والوں کو اس کا وہم ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی پریشانی آئے تو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے کوئی جادو کر دیا ہے، یہاں تک کہ ہاتھ سے اچانک برتن گر جائے تو بھی سمجھتے ہیں کہ کسی کے جادو کرنے سے یا تعویز کرنے سے، ہی برتن گرا ہے، اس کو لاکھ سمجھا کہ یہ اچانک برتن گرا ہے، یا یہ درد یا بیماری کی وجہ سے ہے تو وہ نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کے دماغ میں تعویز، یا جادو کا بھوت ہے، پھر اس جادو کے اتردانے کے لئے تعویز والے کے پاس جاتے ہیں، اور وہ بیچ بیچ کی بات کر کے اچھی خاصی رقم وصول کرتے رہتے ہیں، اور زندگی بھر پھسائے رکھتے ہیں کیونکہ اس کو تو پونڈ وصول کرنا ہے، اور معاشرے میں اپنی شہرت حاصل کرنی ہے اس لئے مودبانہ گزارش ہے کہ ان وہموں سے دور ہیں، اسی لئے حضور نے بعض تعویز، اور جادو کو منع بھی کیا ہے، اس کے لئے آگے دیکھیں

## تعویذ سے ذہنی طور پر تھوڑی تسلی ہو جاتی ہے

ایک تعویذ کرنے والے نے مجھے 4 چار باتیں بتائیں

[۱] جس پر ہم جھاڑ پھونک کرتے ہیں وہ عموماً ذہنی مریض ہوتے ہیں، یا تو اس کو نیند نہیں آتی، یا اس کے ذہن پر خوف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈر تار ہتا، اور کوئی آواز آجائے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ جنات، یا شیطان کی آواز ہے، اور اب وہ ہم پر حملہ کرے گا، اس خوف سے، یا اس وہم سے وہ ڈر تار ہتا ہے، اور بعض مرتبہ اس کو اس خوف کی وجہ سے آٹھ گھنٹے کی پوری نیند نہیں آتی، وہ تھوڑی دیر سوتا ہے، اور اٹھ جاتا ہے، اب اس کم سونے کی وجہ سے پورا دن دماغ میں در در ہتا، گردن میں در در ہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر جنات سوار ہے، اور اس سے وہ بے چین ہو جاتا ہے، حالانکہ کوئی جنات نہیں ہوتا، اس کو کہاں فرصت ہے کہ وہ اس کے گردن پر سوار ہو، اور اپنا کام چھوڑ کر یہاں بسیرا کرے، اصل معاملہ یہ ہے کہ خوف کی وجہ سے، یا گھر یلو ٹینشن کی وجہ سے اس کو نیند نہیں آتی ہے، جس کی وجہ سے پورا جسم ٹوٹ رہا ہے۔

جب میرے پاس مریض آتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس کو ٹینشن ہے، اور نیند نہیں آتی ہے، لیکن سیدھا کہنے سے کام نہیں بنتا، اس لئے کہتا ہوں کہ یہ تعویذ لواس سے سارے جنات بھاگ جائیں گے، اس جھاڑ پھونک سے مریض کو تسلی ہو جاتی ہے کہ جنات، اور جادو بالکل بھاگ گیا، اس سے اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے، اب وہ آرام سے سو جاتا ہے، اور اس سونے کی وجہ سے اس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اس لئے ہماری تعویذ، ایک قسم کی تسلی ہے۔

[۲]۔۔ انہوں نے دوسری بات یہ بتائی کہ، ہمارے ہاتھ میں کوئی کرشمہ نہیں ہوتا، ہم لوگ تو مختلف قسم کی دعائیں لکھ کر دے دیتے ہیں، اس میں اثرِ الناصر خدا کام ہے، اگر وہ چاہیں تو اس سے شفا ہو جاتی ہے، اور نہ چاہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لئے ہمارے ہاتھوں میں کوئی کرشمہ نہیں ہوتا

[۳]۔۔ اور تیسری بات یہ بتائی کہ عموماً ہمارے ہاتھ میں کوئی جنات، یا مولک تابع نہیں ہوتا، عوام کا یہ وہم اتنا صحیح نہیں ہے، ممکن کہ یہ ہوتا ہو لیکن میرے علم تک یہی ہے کہ جنات تابع نہیں ہوتا، پیسے بنانے کے لئے بہت سے لوگ یہ شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کہ، میرے پاس مولک ہے، اگر ایسے ہی ہے تو اس مولک سے پیسے کیوں نہیں جمع کروالیتا، یہ دوسروں سے کیوں مانگتے پھرتے ہیں؟

[۴]۔۔ اور چوتھی بات یہ بتائی کہ ہمیں غیب کا بھی پتہ نہیں ہوتا، ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ بیمار کو ادھر ادھر سے کچھ باتیں پوچھ لیتے ہیں، اس سے ایک اندازہ ہو جاتا ہے، پھر انی ذہانت سے، اور اپنے تجربہ سے، پتی پتی کی بات سمجھانے لگتے ہیں، اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ مجھے غیب کا علم ہے، یا مجھے آپ کے بارے میں جنات نے ساری معلومات دے دی ہیں، چونکہ وہ لوگ عامی لوگ ہوتے ہیں، اس لئے ہماری باتوں پر یقین کر لیتے ہیں، اور سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم لوگوں کو علم غیب ہے، یا ہم پہنچے ہوئے بابا ہیں، جو بیمار کی ہر بات جانتے ہیں

اور اگر کوئی ذہین آدمی آگیا، اور اس نے ہماری باتوں کو پرکھنا شروع کر دیا تو ہم لوگ اس سے زیادہ بات نہیں کرتے، بلکہ اس سے جان چھڑاتے ہیں تاکہ ہماری بنی بنائی شہرت خاک میں نہ مل جائے، اور آنے والے پسیے بندہ ہو جائیں، کیونکہ ہمارے پاس پیسے کمانے کے لئے یہی ایک اچھی دکان ہوتی ہے، جس میں ملتا بہت ہے، اور خرچ کچھ بھی نہیں ہوتا۔

اس خلاص تعویذ والے کی بات کہاں تک سہی ہے، یہ وہی جانے، البتہ اس کی باتوں میں کچھ جان تو ہے آپ بھی ان کی باتوں سے فائدہ اٹھائیں، اور دھوکہ کھانے سے محفوظ رہیں۔۔۔ واللہ اعلم بالصواب۔

## [ا]۔ قرآن اور حدیث کی جائز تعویذ

یہ ضروری ہے کہ تعویذ کے ذریعہ لوگوں کی پریشانی دور کرنا مقصود ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر تعویذ اس لئے کر رہا ہو کسی کوستانا مقصود ہو، یا بیوی اور شوہر کے درمیان نفرت کرنا مقصود ہو، یا رشتہ داروں کے درمیان نفرت بڑھانا مقصود ہو تو ایسی تعویذ جائز نہیں ہے، اس کا سخت گناہ ہو گا تعویذ میں ایسے کلمات ہوں جن سے صرف اللہ سے مدد مانگی گئی ہو تو یہ جائز ہے، بلکہ تعویذ میں وہ کلمات ہوں جن سے حضور نے تعویذ کی ہے تو بہت بہتر ہے، اور چونکہ حضور کے کلمات ہیں اس لئے اس سے اثر بھی زیادہ ہو گا، اور ثواب بھی ملے گا

2۔ عن عبد العزيز قال دخلت أنا و ثابت على انس بن مالك ، فقال ثابت : يا أبا حمزة اشتكيت فقال انس الا ارقيك برقيه رسول الله ﷺ ؟ قال بلى قال اللهم رب الناس مذهب الناس ، اشف انت الشافى ، لا شافى الا انت ، شفاء لا يغادر سقما - (بخاري شریف، کتاب الطب، باب برقية انس بن مالک، ص ۱۰۲، نمبر ۵۷۲)

ترجمہ۔ حضرت عبد العزیز نے فرمایا کہ، میں اور ثابت حضرت انس کے پاس آئے، تو حضرت ثابت نے کہا، اے ابو حمزہ میں بیمار ہوں؟، تو حضرت انس نے فرمایا، حضور نے جو تعویذ کی ہے میں وہ تعویذ نہ کروں!، تو ثابت نے کہا! تو حضرت انس نے یہ دعا پڑھی، اس کا ترجمہ یہ ہے۔۔۔ اے انسان کے رب، تکلیف دور کرنے والے، شفادے دے، تو ہی شفادینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، ایسی شفا جو کسی بیماری کو نہ چھوڑے اس حدیث میں ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی شفاء دینے والا ہے، اس لئے صرف اسی سے مدد مانگی چاہئے

## پھر تعویذ کرنے کے دو طریقے ہیں

[۱] ایک ہے تعویذ کے کلمات پڑھ کر مریض پر چھوٹنا، یہ جائز ہے، کیونکہ حضور نے مریض پر پڑھ کر دم فرمایا ہے

[۲] دوسرا ہے کہ تعویذ کے کلمات کاغذ پر لکھ کر گل میں، یا بانہوں پر لکھنا، یہ صورت اتنی اچھی نہیں ہے، اس کی پوری تفصیل آگے آرہی ہے

## حضور نے تعویذ کے کلمات پڑھ کر مریض پر دم فرمایا ہے

اس کے لئے احادیث یہ ہیں

3- عن عائشة قالت كان رسول الله ﷺ اذا اشتكي من انسان مسحه بيمنيه ثم قال اذهب الباس رب الناس و اشف انت الشافي لا شفاء الا شفائقك شفاء لا يغادر سقما- (مسلم شریف، کتاب السلام، باب استجابة رقية المريض، ص ۹۷، نمبر ۲۱۹۰۷، ۵۷۰)

ترجمہ- حضرت عائشہ فرماتی ہیں، کہ کوئی آدمی بیمار ہوتا تو حضور اپنے دائیں ہاتھ سے اس کو پوچھتے، پھر کہتے، اے انسان کے رب، تکلیف دور کر دے۔ اور شفادے دے، آپ ہی شفادینے والے ہیں، صرف تیری ہی شفاء ہے، ایسی شفادے جو کسی بیماری کو نہ چھوڑے

4- عن عبد العزيز قال دخلت أنا و ثابت على انس بن مالك ، قال ثابت يا ابا حمزة اشتكت ف قال انس : ألا أرقيك برقية رسول الله ﷺ؟ قال بلى ، قال الهم

رب الناس مذهب الbas ، اشف انت الشافی لا شافی الا انت ، شفاء لا يغادر سقما  
 -(بخاری شریف، باب رقیۃ النبی ﷺ، ص ۱۰۱۲، نمبر ۵۷۲۲)

ترجمہ۔ میں اور ثابت حضرت انس کے پاس آئے، تو حضرت ثابت نے کہا، اے ابو جمزہ میں یمار ہوں؟، تو حضرت انس نے فرمایا، حضور نے جو توعیز کی ہے میں وہ توعیز نہ کروں!، تو ثابت نے کہا ہاں! تو حضرت انسؓ نے یہ دعا پڑھی، اس کا ترجمہ یہ ہے-- اے انسان کے رب، تکلیف دور کرنے والے، شفادے، تو ہمی شفادینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفادینے والا نہیں ہے، ایسی شفا جو کسی یماری کو نہ چھوڑے

آیت پڑھ کر دم کیا کرتے تھے اس کی دلیل یہ حدیث ہے

5۔ عن علیؓ قال قال رسول الله ﷺ خیر الدواء القرآن۔ (ابن ماجہ شریف، کتاب الطب، باب الاستشفاء بالقرآن، ص ۵۰۹، نمبر ۳۵۳۳)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ، قرآن، بہترین دوا ہے۔

6۔ عن عائشةؓ ان النبي ﷺ كان ينفث على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات۔ (بخاری شریف، کتاب الطب، باب المرأة الرجل، ص ۱۰۱۵، نمبر ۵۷۴۵)

ترجمہ۔ جس مرض میں حضورؐ کی وفات ہوئی، اس میں حضورؐ اپنے اوپر، قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس، پڑھ کر پھونک کرتے تھے

7۔ عن عائشة ان النبي ﷺ كان ينفث في الرقية۔ (ابن ماجہ شریف، کتاب الطب، باب النفث، ص ۵۰۸، نمبر ۳۵۲۸)

ترجمہ۔ حضورؐ توعیز میں دم کیا کرتے تھے

ان احادیث سے تین باتوں کا پتہ چلا،

[۱] ایک تو یہ کہ آیت اور حدیث کے الفاظ سے توعیز کرنا جائز ہے۔

[۲] دوسری بات یہ ہے کہ توعیزات میں صرف اللہ ہی سے مدد مانگی جائے، وہی شفاذینے والے ہیں، کسی اور سے ہرگز شفاذ طلب کرنا جائز نہیں ہے، بعض مرتبہ وہ شرک شمار ہو جاتا ہے

[۳] اور تیسری بات یہ ہے کہ الفاظ پڑھ کر پھونٹنا جائز ہے۔

## پاگل پن اتارنے کے لئے یہ دعا حدیث میں ہے

حضور ﷺ نے یہ آیتیں پڑھ کر پاگل پردم کیا، اور وہ ٹھیک بھی ہو گیا

حدیث یہ ہے

- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أبي ليلى قال كنت جالسا عند النبي ﷺ إذ

جاءه اعرابي ، فقال ان لى أحنا وجعا قال ما وجع أخيك ؟ قال به لمم ، قال اذهب

فاتنى به قال فذهب فجاء به فاجلسه بين يديه فسمعته عوذ بفاتحة الكتاب و اربع

آيات من اول البقرة و آيتين من وسطها ﴿وَالْهُكْمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ [آیت ۱۲۳، سورہ البقرۃ

۲] و آیة الكرسي ، و ثلاث آيات من خاتمتها ، و آیة من آل عمران أحببه قال ﴿

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ و آیة من الاعراف ﴿إِنَّ رَبَّكَمُ اللَّهُ﴾ [آیت ۵۲، سورہ

الاعراف ۷] و آیة من المؤمنین ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أُخْرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ﴾ [آیت

۷]، سورت المؤمنون ۲۳] و آیة من الجن ﴿وَإِنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا﴾ [آیت ۳، سورہ الجن ۷]

[وَعَشْرَةُ آيَاتٍ مِّنْ أَوْلِ الصَّافَاتِ وَثَلَاثَ آيَاتٍ مِّنْ آخِرِ الْحَسْرِ، وَ**﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾** [آیت، سورت الْأَخْلَاصُ ۱۱۲] وَالْمَعْوذَتَيْنِ، فَقَامَ الْأَعْرَابِيُّ قَدْ بَرَا، لِيُسَّبِّ بِهِ بَأْسَ—

(ابن ماجہ شریف، کتاب الطب، باب الفرع والارق وما یعوذ به منه، ص ۵۱، نمبر ۳۵۲۹)

ترجمہ: حضرت ابواللین فرماتے ہیں کہ میں حضورؐ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا میرے بھائی کو کچھ تکلیف ہے، حضورؐ نے پوچھا تمہارے بھائی کو تکلیف کیا ہے؟، دیہاتی نے کہا کہ اس کو کچھ پاگل پنی کا اثر ہے، حضورؐ نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس لیکر آؤ، دیہاتی جا کر لے آیا، ان کو حضورؐ کے سامنے بیٹھایا، تو میں نے سنا کہ انکی ان آیتوں سے توعیز کر رہے تھے، سورہ فاتحہ پڑھی، اور سورہ بقرۃ سے چار آیتیں پڑھیں، اور اس کے درمیان سے، **﴿وَالْهُكْمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾** [آیت ۱۶۳، سورہ البقرۃ ۲۳]۔ پڑھی، اور آیتہ الکرسی پڑھی، اور سورہ بقرۃ کے آخر سے تین آیتیں پڑھیں، اور سورہ آل عمران سے ایک آیت پڑھی، میرا خیال یہ ہے کہ، **﴿شَهَدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾** پڑھی۔ اور سورہ سورة اعراف سے، **﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ﴾** پڑھی، اور سورہ مونین سے ایک آیت، **﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخْرَ لَا يُبُرْهَانَ لَهُ بِهِ﴾** پڑھی، اور ایک آیت سورہ حم سے، **﴿وَإِنَّهُ تَعَالَى جَدِ رِبِّنَا﴾** پڑھی، اور سورہ صافات کے شروع سے دس آیتیں پڑھیں، اور سورہ حشر کے آخر سے تین آیتیں پڑھیں، اور سورہ اخلاص **﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾** پڑھی، اور سورہ، قل اعوذ برب الفلق، اور، قل اعوذ برب الناس، پڑھ کر دم کیا تو دیکھا کہ وہ پاگل بالکل ٹھیک ہو چکا تھا، اس کو کوئی بیماری نہیں تھی

اس حدیث میں ہے کہ حضورؐ نے اتنی ساری آیتیں پڑھ کر پاگل کا علاج کیا، اور وہ ٹھیک بھی ہو گیا یہ حقیقت تو ہے لیکن اس وقت پاگل کے علاج میں ذہین لوگ لوٹتے بہت ہیں، ان سے چونا رہیں

## [۲]۔ دوسرا ہے کہ آیت یا حدیث کو لکھ کر گلے میں لٹکانا

اہل عرب کوڑیوں کو دھاگا میں پروکھ رہا بنتے تھے، اور اس کو بیمار کے گلے میں لٹکا دیتے تھے، اور بعض مرتبہ اللہ کے علاوہ جن، شیطان اور بھوت سے مد بھی مانگتے تھے، کوڑیوں کے ایسے ہار کو، تمیمة، کہتے ہیں، حضور<sup>ؐ</sup> نے ایسے، تمیمة، کو لٹکانا شرک فرمایا ہے

اس کی دلیل یہ حدیث ہے

8۔ عن عبد الله سمعت رسول الله ﷺ يقول ان الرقى و التمائيم و التولة شرك۔  
 (ابوداؤد شریف، کتاب الطب، باب فی تعلیق التمائم، ص ۵۵۲، نمبر ۳۸۸۳، بن ابی ماجة شریف، کتاب الطب، باب تعلیق التمائم، ص ۵۰۸، نمبر ۳۵۳۰)

ترجمہ۔ حضور<sup>ؐ</sup> نے فرمایا کہ، جادو کے لئے جھاڑ پھونک کرنا، کوڑی کا ہار لٹکانا، اور جادو کرنا شرک ہے

9۔ عن عقبة بن عامر الجهنى ان رسول الله ﷺ اقبل اليه رهط فباعي تسعه و  
 امسك عن واحد فقالوا يا رسول الله بايعد و تركت هذا؟ قال ان عليه تميمه  
 فادخل يده فقعها فباعيده وقال من علق تميمه فقد اشرك۔ (مسند احمد، باب حدیث  
 عقبة بن عامر الجهنی، ج ۵، ص ۱۵۶، نمبر ۱۶۹۶۹)

ترجمہ۔ حضرت عقبۃ بن عامر فرماتے ہیں کہ حضور<sup>ؐ</sup> کے پاس ایک جماعت آئی، تو نو آدمیوں سے بیعت کی اور ایک سے نہیں کی، تو لوگوں نے پوچھا کہ، یا رسول اللہ آپ نے سب سے بیعت کی اور اس ایک

کوچھوڑ دیا! تو آپ نے فرمایا کہ اس پر کوڑی کا ہار لٹکا ہوا ہے اس آدمی نے اپنا ہاتھ داخل کیا اور ہار کو نکال دیا، پھر آپ نے بیعت کی، اور یوں فرمایا کہ، جس نے ہار لٹکایا، تو گویا کہ اس نے شرک کیا۔ اس حدیث میں ہے کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا

10۔ ان ابن مسعود کان يقول کان النبی ﷺ یکرہ عشر خلال .... و الرقی الا بالمعوذات و عقد التمام - (ابوداودشریف، کتاب الخاتم، باب ماجاء فی خاتم الذہب، ص ۵۹۲، نمبر ۳۲۲۲)

ترجمہ۔ حضورؐ س با توں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔۔۔، قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس، کے علاوہ سے تعویذ کرنا، اور ہار لٹکانا [یعنی ان دس با توں کو ناپسند فرماتے تھے]

## تعویذ نہ لٹکائے اور صبر کرے تو یہ تقویٰ کا اعلیٰ درجہ ہے،

اس کے لئے حدیث یہ ہے

11- عن ابن عباس <sup>رض</sup> قال خرج علينا النبي ﷺ يوما ..... فرأيت سواداً كثيراً سد الأفق فقيل له ولاء امتك و مع هولاء سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ..... فقال لهم الذين لا يتطهرون ولا يكتون ولا يسترقون ولا على ربهم يتكلون - (بخاري شریف، باب من لم يرق، ص ۱۰۱۶، نمبر ۵۲۵)

ترجمہ۔ حضور <sup>ﷺ</sup> ایک دن ہمارے سامنے تشریف لائے۔۔۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک بڑی جماعت دیکھی جو افق کو گھیری ہوئی تھی، مجھ سے یہ کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، ان کے ساتھ ستر ہزار آدمی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔۔۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بد فالی، نہیں لیتے، جسم کو نہیں داغتے، تعویذ نہیں کرتے، صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں اس آیت میں بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ پر توکل کرنا چاہئے

2- وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ۔ (آیت ۱۲۳، سورت ۱۱۰)

ترجمہ۔ تمام معاملہ اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے، اس لئے اسی کی عبادت کرو، اور اسی پر توکل کرو۔ اس آیت اور حدیث میں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ تعویذ نہ کرے، اور اللہ پر بھروسہ کرے تو بہت بہتر ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس زمانے میں تعویذ والے عوام کو بہت بیوقوف بناتے ہیں، اور بہت لوٹتے ہیں۔

## کبھی کبھار توعیز لٹکا لی جس سے تسلی ہو جائے تو اس کی تھوڑی سی گنجائش ہے

حدیث میں توعیز لٹکانے کو منع فرمایا ہے، لیکن صحابی اورتابعی کے قول اور عمل سے اس کی تھوڑی سی گنجائش معلوم ہوتی ہے، اس لئے کبھی کبھار کر لیا، اور اس میں بھی اللہ پر ہی بھروسہ کیا، کہ توعیز سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات صرف اللہ ہی ہے تو اس کی گنجائش ہے، اس سے دل کی تسلی ہو جاتی ہے

توعیز لٹکانے میں صحابی کا عمل یہ ہے

12- عن عمر بن شعیب عن ابیه عن جده ان رسول الله ﷺ قال ؛ اذا فرع احدكم في النوم فليقل ، اعوذ كلامات الله التامات من غضبه و عقابه و شر عباده و من همزات الشياطين و ان يحضرؤن ، فانها لن تضره ، قال فكان عبد الله بن عمر يعلمها من بلغ من ولده ، ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم علقها في عنقه - (

ترمذی شریف، کتاب الدعوات، باب دعاء الغر ع من النوم، ص ۸۰۲، نمبر ۳۵۲۸)

ترجمہ: حضور ﷺ نے فرمایا کہ کسی کو نیند میں گھبراہٹ ہو تو یہ کہے، اعوذ کلامات الله التامات من غضبه و عقابه و شر عباده و من همزات الشياطين و ان يحضرؤن، یہ دعا پڑھنے سے اس کو نقصان نہیں ہوگا،

راوی کہتے ہیں کہ۔ حضرت عبد اللہ بن عمر یہ دعا اپنے بالغ اولاد کو سکھلاتے تھے، اور جو بالغ نہیں تھی، تو ایک کاغذ پر لکھ پر اس کی گردون میں لٹکا دیتے تھے

تابعی کا قول یہ ہے

13- عن عطاء قال لا بأس ان يعلق القرآن - (مصنف ابن أبي شيبة، ج ۵، كتاب الطب، باب من رخص في تعلق التعاوين، ص ۲۳۵، نمبر ۲۳۵۵۰/۲۳۵۴۰)

ترجمہ۔ حضرت عطاؑ فرماتے ہیں کہ قرآن میں سے کسی چیز کو توعیز کے طور پر لٹکادے تو کوئی حرج نہیں ہے

14- عن الضحاك لم يكن بأسا ان يعلق الرجل الشيء من كتاب الله اذا وضعه عند الغسل و عند الغائط - (مصنف ابن أبي شيبة، ج ۵، كتاب الطب، باب من رخص في تعلق التعاوين، ص ۲۳۵، نمبر ۲۳۵۴۲/۲۳۵۵۲)

ترجمہ۔ حضرت ضحاکؓ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی قرآن میں سے کوئی چیز توعیز کے طار پر لٹکائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بشرطیکہ غسل کے وقت میں اور پیخانہ کے وقت میں اس کو نکال کر الگ رکھ دے

15- عن يونس بن خباب قال سألت أبا جعفر عن التعلق على الصبيان ، فرخص فيه ، (مصنف ابن أبي شيبة، ج ۵، كتاب الطب، باب من رخص في تعلق التعاوين، ص ۲۳۵، نمبر ۲۳۵۵۱)

ترجمہ: حضرت یونسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے بچوں پر جو توعیز لٹکاتے ہیں اس کے بارے میں حضرت ابو جعفرؑ سے پوچھا، تو انہوں نے اس کی گنجائش دی حدیث میں تو توعیز لٹکانا منع ہے، البتہ اس کو پڑھ کر پھونکنا جائز ہے، البتہ ان تابعی کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ توعیز لٹکانے کی تھوڑی سی گنجائش ہے، لیکن اس کو دھندا نہ بنالے۔

## تعویذ کرنے کے لئے معاوضہ لینے کی تھوڑی سی گنجائش ہے

اس کے لئے یہ حدیث ہے

16- عن ابی سعید الخدری ان ناسا من اصحاب رسول الله ﷺ کانوا فی سفر فمروا بحی من احیاء العرب ..... فاتاہ فرقاہ بفاتحة الكتاب فبرا الرجل فاعطی قطیعا من غنم ..... ثم قال خذوا منهم و اضربوا لی سهم - (مسلم شریف، کتاب السلام، باب جواز اخذ الاجرة علی الرقیۃ بالقرآن والاذکار، ص ۵۷۵، نمبر ۲۲۰۱، نمبر ۵۷۳۳) (۵۷۳۶)

ترجمہ۔ حضورؐ کے کچھ صحابی سفر میں تھے، وہ عرب کے ایک گاؤں سے گزرے۔۔۔ آدمی مریض کے پاس آیا اور سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونکا، جس کی وجہ سے مریض ٹھیک ہو گیا، اور اس نے چند بکریاں دیں۔۔۔ آپ نے فرمایا اس سے بکریاں لے لو، اور اس میں میرا بھی حصہ رکھو۔۔۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھار تھوڑا تعویذ کا پیسہ لے لیا تو اس کی گنجائش ہے

لیکن تعویذ کا دھندا بنالینا ٹھیک نہیں ہے

اس کے لئے احادیث ہیں

17- عن عبادۃ بن الصامت قال علمت ناسا من اهل الصفة القرآن و الكتابة فاھدی الى رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال و ارمى عنها في سبیل الله ، فسألت رسول الله ﷺ عنها فقال ، ان سرک ان تطوق بها طوفا من نار فاقبلها۔ (ابن ماجہ شریف، کتاب التجارات، باب الاجر على تعلیم القرآن، ص ۳۱۰، نمبر ۲۱۵)

ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ، انہوں نے فرمایا کہ میں نے صفحہ کے کچھ لوگوں کو قرآن اور کتابت سکھلایا، تو ان میں سے ایک نے مجھے ایک کمان ہدئے میں دیا، میں نے دل میں کھا کر یہ تو مال نہیں ہے، میں اس کے ذریعہ اللہ کے راستے میں تیر پھیکوں گا، میں نے اس بارے میں حضورؐ سے پوچھا، تو حضورؐ نے فرمایا کہ، اگر تم کو یہ خوشی ہو کہ آگ کا طوق پہن تو اس کو قبول کرلو

18- عن ابی بن کعب قال علمت رجلا القرآن فاھدی الى قوسا فذکرت ذالک لرسول الله ﷺ فقال ان اخذتها اخذت قوسا من نار ، فردتها۔ (ابن ماجہ شریف، کتاب التجارات، باب الاجر على تعلیم القرآن، ص ۳۱۰، نمبر ۲۱۵)

ترجمہ: حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو قرآن سکھلایا، تو انہوں نے مجھے ایک کمان ہدئے میں دیا، میں نے حضورؐ سے اس کا ذکر کیا، تو حضورؐ نے فرمایا کہ اگر تم نے اس کو لیا تو گویا کہ آگ کا کمان لیا، تو میں نے اس کو واپس کر دیا۔

- یعنی قرآن پڑھانے کے بد لے میں تیر کالینا گویا کہ آگ کو لینا ہے، اس لئے تعویذ کے بد لے میں پسیے لینے کا دھندا بنالینا ٹھیک نہیں ہے

اس حدیث میں ہے کہ دوائی استعمال کرنا جائز ہے

بیماری کی دوائی کروانا، اور اس کا علاج کروانا سنت ہے

19- عن جابر عن رسول الله ﷺ انه قال لكل داء دواء فإذا أصيّب دواء الداء برأ  
باذن الله تعالى۔ (مسلم شریف، کتاب السلام، باب لكل داء دواء واستحب انتداوى ص ۹۷) (نمبر ۲۲۰۷، ۲۲۱)

ترجمہ۔ حضورؐ سے روایت ہے کہ، ہر بیماری کی دوا ہے، اگر بیماری کی صحیح دوامی جائے تو اللہ کے حکم سے  
وہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے

[۲]۔ توعیز یا منتر میں اللہ کے علاوہ سے مدد مانگی گئی ہو تو یہ حرام ہے

[۳]۔ توعیز، یا منتر میں ایسے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں جن کا معنی کا پتہ نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ  
اس میں اللہ کے علاوہ سے مدد مانگی گئی ہو تو یہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ کے علاوہ سے مدد مانگنا جائز  
نہیں ہے

غیر مسلم لوگ جو جنتر، منتر کرتے ہیں وہ عموماً اپنی دیوی، دیوتا سے مدد مانگتے ہیں، اور اس میں شرکیہ کلمات  
ہوتے ہیں اس لئے ان سے جنتر، منتر [تعویز] نہیں کروانا چاہئے

ان دونوں کے لئے حدیث یہ ہے۔

20- عن عوف بن مالک الاشجعى قال كنا نرقى فى الجاهلية ، فقلنا يا رسول الله !  
كيف ترى فى ذالك ؟ ، فقال اعرضوا على رقакم ، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه

شرک - (مسلم شریف، کتاب السلام، باب لاباس بالرقی المکین فی الشرک، ص ۵۷۹، نمبر ۲۲۰۰، ۱۴۳۲)

ترجمہ۔ عوف بن مالک فرماتے ہیں، ہم زمانہ جاہلیت میں جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، میں نے کہا یا رسول اللہ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ، اپنی جھاڑ پھونک مجھے بتاؤ، پھر آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں شرک نہیں ہے تو جھاڑ پھونک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شرکیہ کلمات سے جھاڑ پھونک کرنا جائز نہیں ہے، ہاں اللہ سے مدد مانگی گئی ہو، تو اس تعویذ کے پڑھنے سے کوئی حرج نہیں ہے

## [۲]۔ نظر بد لگنا

کسی کی نظر کسی کو لگ جائے جس سے اس کو نقصان ہو جائے، یہ حق ہے جس آدمی کی نظر لگتی ہے، اس میں اس کوئی اختیار نہیں ہوتا، خود بخونظر لگ جاتی ہے، اس نے اس کو برا بھلا کہنا نہیں چاہئے، کیونکہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے جس آدمی کی نظر لگتی ہے، اس کو چاہئے کہ جب کوئی عجیب چیز دیکھے تو ماشاء اللہ، کہ مدد تو اس کہنے سے اس کی نظر نہیں لگے گی اس کا علاج یہ ہے کہ جس کی نظر لگی ہو اس کو غسل دو، اور غسل کے پانی کو مریض پر ڈال دو، تو اس سے نظر بد ختم ہو جائے گی اس کے لئے حدیث یہ ہے

21- عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال العين حق - (بخاري شريف، كتاب الطب، باب العين حق، ص ۱۰۱۲، نمبر ۴۵)

ترجمہ۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ نظر لگنا حق ہے

22- عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال العين حق ، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين ، و اذا استغسلتم فاغسلوا - (مسلم شريف، كتاب السلام، باب الطب والمرض والرقى، ص ۱۷۶، نمبر ۵۷۰۲/۲۱۸۸)

ترجمہ۔ حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ نظر لگنا حق ہے، اگر تقدیر سے کوئی چیز آگے بڑھ سکتی ہے تو نظر لگنا بڑھ سکتا ہے، اگر تم سے کوئی کہے کہ غسل کرو، تو غسل کر لیا کرو

اس حدیث میں ہے کہ جس کی نظر لگی ہے، اس کو غسل کرنے کے لئے کہے تو اس کو غسل کر لینا چاہئے

## [۵]-جادو کرنا حرام ہے

اس کے لئے یہ آیت ہے

۳ - وَ مَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَ لِكِنَ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ - (آیت ۱۰۲، سورت البقرۃ ۲)

ترجمہ۔ حضرت سلیمانؑ نے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیطان لوگوں کو جادو کی تعلیم دیکر کفر کا ارتکاب کرتے تھے

اس آیت میں ہے کہ جادو کرنا کفر ہے

23- عن ابی هریرة عن النبی ﷺ قال ان رسول الله ﷺ قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله ما هن؟ قال الشرک بالله ، و السحر ، و قتل النفس التي حرم الله الا بالحق - (بخاری شریف، کتاب الوصایا، باب قول اللہ تعالیٰ، ان الذین یا کلوں اموال لیتمنی ظلمًا، الحج، ص ۲۵۸، نمبر ۲۷۶۶، مسلم شریف، کتاب الایمان، باب الکبائر و اکبرہا، ص ۵۳، نمبر ۲۶۲/۸۹)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ سات ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو، اللہ نے جس نفس کو حرام کیا ہے اس کو قتل کرنا، ہاں جس کو قتل کرنے کا حق بتا ہے، اس کو قتل کرے تو نہیں۔

اس حدیث میں ہے کہ جادو کرنا گناہ کبیرہ ہے

## سحر کی ایک حقیقت ہے

اس آیت میں اس کا ذکر ہے

۴۔ فَإِذَا جِبَالُهُمْ وَعَصِيَّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سَحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى۔ (آیت ۲۶، سورت طہ ۲۰)

ترجمہ۔ پھر اچانک اس کی ڈالی ہوئی رسیاں اور لاثھیاں ان کے جادو کے نتیجے میں حضرت موسیٰ کو ایسی محسوس ہونے لگیں جیسے دوڑ رہی ہیں

24۔ عن عائشة ، ان النبی ﷺ سحر حتی کان يخیل اليه انه صنع شيئاً ولم يصنعه  
 (بخاری شریف، کتاب الجزیۃ والموادعۃ، باب حل یعنی عن الذی اذ اخر، ص ۵۲۹، نمبر ۵۲۷)

ترجمہ۔ حضورؐ کو جادو کیا گیا، جس کی وجہ سے آپؐ کو خیال ہوتا تھا کہ فلاں کام کر لیا ہے، حالانکہ وہ کام آپ نہیں کئے ہوتے تھے

25۔ عن عائشة قالت سحر رسول الله ﷺ یہودی من یہود بنی زريق یقال له لبید  
 بن الاعصم ، قالت :حتی کان رسول الله ﷺ یخیل اليه انه یفعل الشيء و ما یفعله  
 (مسلم شریف، کتاب السلام، باب سحر، ص ۱۷، نمبر ۲۸۹، ۳۷)

ترجمہ۔ بنی زريق کے ایک یہودی نے رسول اللہ ﷺ پر جادو کیا، اس کا نام لبید بن اعصم تھا، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ، حضورؐ کا حال یہ ہو گیا تھا، آپؐ کو خیال ہوتا تھا کہ فلاں کام آپ نے کر لیا ہے، حالانکہ وہ نہیں کیا ہوتا تھا۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو کی ایک حقیقت ہے، اور حضورؐ پر بھی اس کا اثر ہوا تھا لیکن آج کل ہر توعیز والے جادو اور جن کا جواہر بتاتے ہیں، وہ اکثر جھوٹ ہوتا ہے

## [۶]۔ عراف جو غیب کا دعویٰ کرتا ہو

کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں مجھے غیب کا علم ہے، اور کچھ لوگ صاف تو نہیں کہتے، لیکن تاً شرديتے رہتے ہیں کہ مجھے مریض کے بارے میں سارا علم ہے، ایسے لوگوں کو، عراف، کہتے ہیں، بہت زیادہ جانے والا

عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ تعویذ اور جادو کی دکان لیکر بیٹھے ہیں وہ آنے والے لوگوں کو یہ تاً شرديتے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھے سب کچھ معلوم ہو گیا ہے، اور پیچ پیچ کی باتیں کر کے سامنے والوں کے دل میں یہ پختہ کر دیتے ہیں کہ یہ واقعی میں غیب کی بات جانتے ہیں، اور ہمارا حال اس کو معلوم ہے، اس لئے یہ جادو نکال دیں گے، اور اس کے لئے وہ اچھا خاصار و پیشہ دے دیتے ہیں، آج کے دور میں یہ بھی ایک قسم کا غیب داں اور عراف ہے اس لئے ان کے پھرے میں نہیں پڑنا چاہئے

## عرف کی باتوں کی تصدیق کرنا جائز نہیں

عقیدۃ الطحاویۃ میں عبارت یہ ہے

وَ لَا نصْدَقُ كَاهْنًا وَ لَا عَرَافًا ، وَ لَا مَنْ يَدْعُى شَيْئاً يَخْالِفُ الْكِتَابَ وَ السُّنَّةَ وَ اجْمَاعَ الْأَلَّامَ۔ (عقیدۃ الطحاویۃ، عقیدہ نمبر ۱۰۱، ص ۲۱)

ترجمہ۔ ہم کا ہن اور عرف کی تصدیق نہیں کرتے، اسی طرح جو قرآن، حدیث، اور اجماع امت کی مخالف بتیں ہوں، ان چیزوں کا دعویٰ کرتا ہو تو ہم اس کی بھی تصدیق نہیں کرتے

## عرف کے پاس جانے سے چالیس دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی

اس کے لئے حدیث یہ ہے۔

26- عن بعض ازواج النبي ﷺ قال من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة  
اربعين ليلة۔ (مسلم شریف، کتاب السلام، باب تحريم الکہانۃ و اتیان الکہان، ص ۹۹۰، نمبر ۲۲۳۰)  
(۵۸۲۱)

ترجمہ۔ بعض بیویوں نے حضورؐ سے نقل کیا ہے، جو آدمی عرف کے پاس آئے، اور اس سے کچھ پوچھے،  
تو اس کی چالیس دنوں کی نماز قبول نہیں ہوتی

27- عن معاویۃ الحکم السلمی قال قلت يا رسول الله ! امور کنا نصنعها فی

الجاهلية، كنا ناتي الکهان، قال ﷺ فلا تأتوا الکهان قال قلت كنا نتطرير قال  
ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه، فلا يصدق لكم (مسلم شریف، کتاب السلام، باب تحریم  
الکهانة واتیان الکهان، ص ۹۸۹، نمبر ۵۸۱۳/۲۲۷)

ترجمہ۔ حضرت معاویہ سلمی فرماتے ہیں، یا رسول اللہ! زمانہ جاہلیت میں ہم میں کچھ کام کیا کرتے تھے،  
مثلاً ہم کا ہنوں کے پاس جایا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ، کا ہنوں کے پاس مت جاؤ، میں نے کہا  
کہ ہم لوگ بدفالي، لیا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایسے ہی کچھ بات دل میں لے آتے ہو،  
بدفالي تمہاری کسی چیز کو روکتی نہیں ہے [یعنی بدفالي سے کچھ نہیں ہوتا]

28- عن ابی هریرة ، و الحسن عن النبی ﷺ قال من اتى کاهنا او عرافا فصدقه  
بما يقول فقد كفر بما انزل علی محمد۔ (مسند احمد، مسند ابی ہریرۃ، ج ۱۵، ص ۳۳۱، نمبر  
(۹۵۳۶)

ترجمہ۔ حضورؐ سے روایت ہے کہ جو کا ہن کے پاس، یا عراف کے پاس آیا، اب وہ جو کچھ کہتا ہے، اس  
نے اس کی تصدیق کی، تو جو حضورؐ پر جو قرآن اتراء ہے گویا کہ اس کا انکار کیا۔  
اس حدیث میں ہے کہ کا ہن، اور عراف کے پاس جائے، اور اس کی تصدیق کرے تو وہ تصدیق کرنے  
والا کافر ہو جائے گا۔

آج کل کتنے تعویذ والے ہیں جو کا ہن اور عراف کی طرح غیب کی باتوں کا دعویٰ کرتے ہیں، اور لوگ  
اس کی تصدیق کرتے ہیں، اب بتائے کہ اس کے ایمان کا کیا حال ہو گا۔ اس سے پچنا چاہئے

29- عن عائشة قالت قلت يا رسول الله ! ان الکهان کانوا يحدثونا بالشيء فتجده

حقاً ، قال تلك الكلمة الحق يخطفها الجنى فيقذفها في أذن وليه ، ويزيد فيها مائة كَذْبَةٍ - (مسلم شریف، کتاب السلام، باب تحریم الکھانۃ واتیان الکھان، جس ۹۸۹، نمبر ۲۲۲۸)۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ، میں نے کہا کہ ان کچھ بات ہم لوگوں سے کہتا ہے تو ہم اس کو سچ پاتے ہیں! تو حضورؐ نے فرمایا کہ جنات کوئی ایک سچی بات کوئی بھی سے پایتا ہے، وہ اپنے موکل کوتاتا ہے، اور موکل اس میں سوجھوٹ ملا دیتا ہے اس حدیث میں ہے کہ موکل سوجھوٹ ملا کر لوگوں کو کہتا ہے

### [ ۷ ] - جنات نکالنا

لوگ کہتے ہیں کہ کچھ تعویذ والے جنات نکالتے ہیں، لیکن کس طرح نکالتے ہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے، اور نہ اس بارے میں کوئی حدیث، یا قول صحابی مجھے نہیں مل سکا، مجھے اس کا بھی پتہ نہیں ہے کہ جنات کسی پرسوار بھی ہوتا ہے، یا نہیں، صرف ایسے ہی اڑاتے رہتے ہیں۔ اس لئے میں معدور ہوں۔

اس عقیدے کے بارے میں 4 آیتیں اور 29 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

## ۳۷۔ قبروں کی زیارت

اس عقیدے کے بارے میں 22 آیتیں اور 44 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں۔

بچھلی قویں ان 4 باتوں سے شرک میں مبتلا ہوئیں، اور اللہ نے ان کو ہلاک کیا

[۱] اللہ کے علاوہ دوسروں کو معجود مانا

[۲] اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے سجدہ کیا

[۳] اللہ کے علاوہ دوسروں سے مدد مانگی

[۴] اللہ کے علاوہ دوسروں کو حاجت روا، یعنی حاجت پوری کرنے والا سمجھا

ان چاروں باتوں کا روایج اس طرح پڑا کہ اپنے مرے ہوئے بزرگوں کی پہلے تعظیم کی، پھر رفتہ رفتہ سجدہ کرنے لگے اور اسی میں مشغول ہو گئے

اپنے بزرگوں کے بارے میں سمجھا کہ یہ میری بات سنتے ہیں اور میری مدد کر سکتے ہیں۔

اس لئے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے ان کی مورتی بنائی، پھر ان سے مدد مانگنے کے لئے ان کے سامنے بھکے، پھر سجدہ کیا، اور رفتہ رفتہ ان کو بھی خدامان لیا، اور یہی شرک ہے جسکو خدا کبھی معاف نہیں کرے گا

اس لئے ہمیں بزرگوں کی ایسی تعظیم نہیں کرنی ہے جس سے رفتہ رفتہ شرک شروع ہو جائے

## ہندوؤں کے رواجوں پر غور کریں

ہندوؤں کے سارے رواجوں پر غور کریں  
ان کے بت بنانے پر غور کریں  
ان سے مدد مانگنے پر غور کریں،

اور ان کے سامنے پوچا کرنے پر غور کریں تو یہی باتیں کھل کر سامنے آئے گی  
کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی حد سے زیادہ تقطیم کی، پھر رفتہ رفتہ وہ شرک میں مبتلا ہو گئے

ہندو بھی ایک خدا کو مانتے ہیں، جس کو وہ، الیشور، کہتے ہیں اور ان میں سے بعض پنڈت صرف اسی کو  
مانتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ الیشور کو مانتے ہوئے بھی مورتی کی پوچا کرتے ہیں  
یہ جتنی مورتیاں بناتے ہیں وہ انکے بزرگوں کی شبیہ ہیں  
وہ جانتے ہیں کہ یہ مٹی کی بنی ہوئی مورتی ہے، لیکن ان کا اعتقاد یہ ہے کہ ان کے بزرگوں کی روحیں، یا  
ان کی دیوی دیوتا کوں کی روحیں ان مورتیوں میں آتی ہیں  
وہ ان کی بات سنتی ہیں، اور ان کی مدد بھی کرتی ہیں، ان کو مدد کرنے کا اختیار ہے  
اسی لئے وہ لوگ ان مورتیوں کی پوچا کرتے ہیں، اور جی بھر کے ان سے مانگتے ہیں، جس کو شریعت  
شرک کہتی ہے

## حضورؐ نے قبروں کی حد سے زیادہ تعظیم کرنے سے منع فرمایا

چونکہ اللہ کو اس بات کا پتہ تھا کہ مسلمان کبھی اپنے بزرگوں سے حاجت مانگیں گے، یا ان کی مورتی بنائیں گے، اور ان کے سامنے سجدہ کریں گے، اس لئے حضورؐ نے کبھی کبھی قبر پر جانے کی اجازت تو دی، لیکن بار بار یہ تنبیہ کی کہ اس کے سامنے سجدہ نہ کرنا، اس سے ضرورتیں نہ مانگنا، اس کو عیدگاہ نہ بنانا، اس پر عمارت نہ بنانا، بلکہ صرف ان کو سلام کر کے، اور ان کے لئے دعا کیں کر کے واپس آ جانا۔

آپ ان ساری تفصیلات کے لئے صحیح احادیث ملاحظہ فرمائیں

## قبرکس کو کہتے ہیں

میت کے دفن ہونے کے بعد قیامت قائم ہونے تک کا جو وقت ہے اس کو قبر کہتے ہیں، میت کا جسم زمین میں ہو، یا جلا دیا گیا ہو، یا اس کو کسی جانور نے کھالیا ہو ان سبھوں کو اس میت کا قبر کہا جاتا ہے اسی وقت کو بزرخ بھی کہتے ہیں اس آیت میں اس کی وضاحت ہے

۱- حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمُوْتَ قَالَ رَبِّ أَرْجِعُونَ لَعَلَّيُ أَعْمَلَ صَالِحًا فِيمَا تَرَكَثُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَاتِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بُرُزُخٌ إِلَيْ يَوْمٍ يُعْثُرُونَ۔ (آیت ۱۰۰ سورت المؤمنون) (۲۳)

ترجمہ۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آ کھڑی ہو گی تو وہ کہے گا کہ، میرے رب مجھے واپس بچھ دیجئے، تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں جا کر نیک عمل کروں، ہرگز نہیں! یہ تو ایک بات ہی بات ہے جو وہ زبان سے کہہ رہا ہے، اور ان مرنے والوں کے سامنے بزرخ کی آڑ ہے جو اس وقت تک قائم رہے گی جب تک انکو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔

اس آیت میں ہے کہ موت کے بعد سے لیکر قبر سے اٹھائے جانے تک کو بزرخ کہتے ہیں، اس کے حالات دنیا کے حالات سے مختلف ہیں۔

## قبر پر اس لئے جانے کی اجازت ہے

### کہ وہاں آخرت یاد آنے لگے

اگر قبر پر جانے سے آخرت یاد آنے لگے اور موت یاد آنے لگے تو تسبیح کو یہاں آنے کا فائدہ ہوا، اور اگر یہاں آنے کا مقصد تفریح کرنا ہے، یا کھلیل تماشہ کرنا ہے، یا پیسہ بٹورنا ہے تو پھر یہ قبر کا فائدہ نہیں ہوا، اور ایسی صورت میں قبر پر جانا اچھا نہیں ہے  
اس کے لئے احادیث یہ ہیں

1- عن ابن مسعود ان رسول الله ﷺ قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة - (ابن ماجة شریف، باب ماجاء في زيارة القبور، ص ۲۲۳، نمبر ۱۵۷)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو قبر کی زیارت سے روکا کرتا تھا، اب اس کی زیارت کیا کرو، کیونکہ اس سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، اور آخرت یاد آتی ہے

2- عن أبي هريرة قال زار النبي ﷺ قبر امه فبكى و ابكى من حوله فقال استأذنت ربى في ان أستغفر لها فلم يأذن لي و استأذنت ربى ان ازور قبرها فأذن لي ، فزوروها القبور ، فانها تذكركم الموت - (ابن ماجة شریف، باب ماجاء في زيارة قبور المشركین، ص ۲۲۳، نمبر ۱۵۷)

ترجمہ۔ حضورؐ نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی تو وہ روئے، اور جو قریب میں تھے انکو بھی رولا یا، پھر فرمایا میں نے اپنے رب سے اپنی ماں کی مغفرت کی اجازت مانگی تو مجھ کو اجازت نہیں ملی، اور اپنے رب سے

اگئی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو مجھے اجازت مل گئی، قبر کی زیارت کیا کرو، اس لئے کہ اس سے موت یاد آتی ہے

ان احادیث میں تین باتیں ہیں

[۱] قبر پر خود بخود رونا آجائے تو جائز ہے، واویلا کرنا جائز نہیں

[۲] دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی قبر کی زیارت کرنی چاہئے، کیونکہ حضور زندگی میں ایک بار ماں کی قبر کی زیارت کی ہے، رات دن اس پر جنم گھٹائیں لگانا چاہئے

[۳] اور تیسرا بات یہ معلوم ہوتی کہ اس لئے قبر کی زیارت کرے کہ اس سے موت یاد آئے، کھلیل کو د کے لئے، یاتما شہ کے لئے قبر کی زیارت نہ کرے

اس دور میں بہت سے لوگ تفریح کے لئے اور موج و مستی کے لئے مزار پر جاتے ہیں، جو جائز نہیں ہے

## سات 7 شرطوں کے ساتھ قبر پر جانے کی اجازت ہے

ان سات 7 شرطوں کے ساتھ قبر پر جائیں، اس کے بغیر نہ جائیں

[۱] اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے  
پہلی شرط یہ ہے کہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت بھی نہ کرے  
اس کی دلیل یہ آیتیں ہیں۔

2۔ قُلْ إِنَّى نُهِيَّتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ۔ (آیت ۵۶، سورۃ الانعام ۲)

ترجمہ۔ مجھکو اس بات سے روکا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ جس کوم لوگ پکارتے ہو اس کی عبادت کروں

3۔ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَّا أَنَّ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ (آیت ۳۰، سورۃ یوسف ۱۲)

ترجمہ۔ صرف اللہ ہی کا حکم چلے گا، اور اس نے یہ حکم دیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کریں۔

4۔ ان لَا تَعْبُدُوا الا اللہ۔ (آیت ۱۲، سورۃ فصلت ۲۱)

ترجمہ۔ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو

5۔ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعاً۔ (آیت ۲۷، سورۃ المائدۃ ۵)

ترجمہ۔ آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ اللہ کے علاوہ جو نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، اس کی عبادت کروں  
لیعنی اللہ کے علاوہ کی ہرگز عبادت نہ کروں۔

6۔ وَ مَا أُمْرُوا إِلَّا يَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حَنَفاءَ (آیت ۵، سورۃ البیتہ ۹۸)

ترجمہ۔ صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ یکسو ہو کر خالص صرف اللہ ہی کی عبادت کریں ۔

7۔ وَ مَا أُمِرْتُ إِلَّا يُعْدُوا إِلَهًا وَاحِدًا، لَا إِلَهٌ إِلَّا هُوَ۔ (آیت ۳۱، سورۃ التوبۃ ۹)

ترجمہ۔ اور اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ صرف ایک خدا کی عبادت کریں، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے

ان چھ 6 آیتوں میں ایک ہی حکم دیا گیا ہے کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرو، اس لئے کسی اور کی عبادت کرنا ہرگز جائز نہیں

## [۲] قبر والوں سے نہ مانگے

دوسری شرط یہ ہے کہ، قبر والوں سے نہ مانگے

اس کے لئے آیتیں یہ ہیں

8۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ۔ (آیت ۳، سورۃ فاتحۃ) اس آیت میں حصر کے ساتھ بتایا کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، دن رات میں فرض نماز سترہ رکعتیں ہیں، اور کم سے کم سترہ مرتبہ ایک منون سے کھلوایا جاتا ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اس لئے کسی اور کی عبادت بھی جائز نہیں اور کسی اور سے مدد مانگنا بھی جائز نہیں ہے۔

9۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ، وَ لَا أَنفُسَهُمْ يُنصَرُونَ۔ (آیت ۱۹، سورۃ الاعراف ۷)

ترجمہ۔ اللہ کو چھوڑ کر جسکو تم پکارتے ہو دہ تھماری مد نہیں کر سکتا، بلکہ وہ خود اپنی مد بھی نہیں کر سکتا

۱۰۔ أَغْيِرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، بَلْ إِيَاهُ تَدْعُونَ۔ (آیت ۲۰، سورۃ الانعام)

۶۔ ترجمہ۔ تو کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو، بلکہ اسی کو پکارو گے۔

۱۱۔ إِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ (آیت ۱۸، سورۃ الحجۃ)

ترجمہ۔ اور بجدے تو تمام تر اللہ ہی کا حق ہے، اس لئے اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت مت کرو

۱۲۔ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادُ أُمَّثَالِكُمْ۔ (آیت ۱۹۲، سورۃ الاعراف)

ترجمہ۔ اللہ کے علاوہ جس کو پکارتے ہو وہ سب تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں

۱۳۔ وَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ۔ (آیت ۱۳، سورۃ فاطر ۳۵)

ترجمہ۔ اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکارتے ہو وہ گھٹلی کے چھلکے کا بھی مالک نہیں ہے [تو تمہاری مدد کیا

کریں گے]

۱۴۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّيْ وَ لَا أُشْرِكَ بِهِ أَحَدًا۔ (آیت ۲۰، سورۃ الحجۃ)

ترجمہ۔ آپ فرمادیجھے کہ میں صرف اللہ ہی کو پکارتا ہوں، اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا

ان ۷ سات آیتوں میں ہے کہ صرف اللہ کو پکارے، اس لئے کسی اور کو پکارنا، اور اس سے مدد مانگنا  
ہرگز جائز نہیں ہے، اس لئے قبر پر جائے تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہ مانگے، اور قبر والے چاہے  
ولی ہوں یا نبی ہوں ان سے بھی مدد نہ مانگے

اس وقت بہت سارے لوگ مزار اور قبرستان اس لئے جاتے ہیں کہ صاحب قبر سے حاجت مانگی جائے  
، یہ جائز نہیں ہے، دینے والی ذات صرف اللہ ہے۔

اس کی پوری تفصیل اللہ کے علاوہ سے مانگنا، کے عنوان کے تحت دیکھیں

## [۳] قبر پر سجدہ نہ کرے

تیسرا شرط ہے کہ قبر پر سجدہ نہ کرے اس کے لئے یہ آیت ہے

۱۵۔ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَ اسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقُوكُمْ۔ (آیت ۱۳۷، سورۃ

فصلت ۲۱)

ترجمہ۔ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، جس نے تم کو پیدا کیا ہے صرف اسی کو سجدہ کرو

۱۶۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا۔ (آیت ۲۲، سورۃ النجم ۵۳)

اللہ ہی کو سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔

3۔ عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه ، لعن الله

اليهود و النصارى اتخذوا قبور انبائهم مساجد۔ (بخارى شریف، باب ماجاء في قبر النبي

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وابی بکر وعمر ص ۲۲۳، نمبر ۱۳۹۰)

ترجمہ۔ جس بیماری سے حضورؐ کا وصال ہوا اس بیماری میں حضورؐ نے فرمایا، اللہ یہود اور نصاری پر لعنت

فرمائے کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا

اس حدیث میں ہے کہ قبر کو سجدے کی جگہ بنانا جائز نہیں ہے۔

4۔ سمت ابا مرسد الغنوی يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا

تصلوا اليها۔ (ابوداود شریف، کتاب الجنائز، باب فی کرامیۃ القعود علی القبر ص ۱۳۷ نمبر ۳۲۲۹)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ قبر پر بیٹھانے کرو، اور اس کی طرف رخ کر کے نماز بھی نہ پڑھا کرو

، اور یہ اس لئے فرمایا کہ آدمی کہیں قبروں کے وختان سمجھ بیٹھے، اس لئے قبر کی طرف رخ کر کے نماز بھی نماز

پڑھنے سے منع فرمایا، جب قبر کی طرف رخ کر کے نماز بھی نہ پڑھو تو قبر کو سجدہ کرنا کیسے جائز ہو جائے گا

– عن قیس بن سعد قال أتیت الحیرة فرأیتهم یسجدون لمرزبان لهم فقلت رسول الله ﷺ احـق ان یسجد له قال فأتیت البـی ﷺ فقلـت انـی اتـیت الحـیرة فـرأـیـتـهـم یـسـجـدـوـن لـمـرـزـبـان لـهـم فـانـتـ یـاـ رـسـوـلـ اللـهـ ! اـحـقـ انـ نـسـجـدـ لـکـ ، قال: أـرـأـیـتـ لـو مـرـرـتـ بـقـبـرـیـ أـكـنـتـ تـسـجـدـ لـهـ ؟ قال قـلـتـ لـاـ ، قال: فـلـاـ تـفـعـلـوـاـ ، لوـ كـنـتـ آـمـرـاـ اـحـدـاـ انـ یـسـجـدـ لـاـحـدـ لـامـرـتـ النـسـاءـ انـ یـسـجـدـ نـ لـازـمـاـجـهـنـ لـمـاـ جـعـلـ اللـهـ لـهـمـ عـلـیـهـمـ مـنـ الـحـقـ . (ابوداؤد شریف، کتاب النکاح، باب فی حق الزوج علی المرأة، ص ۳۰۹، نمبر ۲۱۳۰، ابن ماجہ شریف، کتاب النکاح، باب حق الزوج علی المرأة، ص ۲۶۵، نمبر ۱۸۵۳)

ترجمہ۔ قیس بن سعد فرماتے ہیں کہ میں حیرہ مقام پر آیا تو دیکھا کہ وہ لوگ اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ تو زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے، میں حضورؐ کے پاس آیا اور کہا کہ میں حیرہ گیا تھا، وہاں دیکھا کہ وہ اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، اس لئے آپ یا رسول اللہ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، حضورؐ نے فرمایا کہ اگر تم میری قبر پر گزر تو کیا اس کو سجدہ کرو گے، قیس نے جواب دیا نہیں! تو حضورؐ نے فرمایا کہ، زندگی میں بھی مجھے سجدہ مت کرو، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا، تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں، اس لئے کہ اللہ نے شوہروں کو یہ یوں پر بہت حقوق دئے ہیں

اس حدیث میں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ تعظیمی کرنا بھی حرام ہے

اس وقت کا عالم یہ ہے کہ بہت سے مجاور آنے والے لوگوں کو قبر کے سامنے سجدہ کرواتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ صاحب قبر کا گرویدہ ہو جائے اور مجھے اس کا نذر و نیاز ملتا رہے۔

[۳] پر دے کے ساتھ جائے، بے پر دگی کے ساتھ ہرگز نہ جائے  
چوتھی شرط یہ ہے کہ پر دے کے ساتھ جائے، بے پر دگی کے ساتھ ہرگز نہ جائے  
اس کے لئے حدیث اور آیتیں یہ ہیں

5۔ عن عائشة قالت ، كنت ادخل بيتي الذى دفن فيه رسول الله ﷺ و ابى ،  
فاضع ثوبى فاقول : انما زوجى و ابى ، فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلت الا انا  
مشدودة على ثيابى حياء من عمر - (منداحمد، باب حدیث السيدة عائشة، ج ۷، ص ۲۸۸، نمبر  
(۲۵۱۳۲)

ترجمہ۔ حضرت عائشہؓ نے میرے جس گھر میں حضورؐ فن کرنے کے لئے ہیں میں بغیر پر دے کے  
بھی اس میں داخل ہو جایا کرتی تھی، اور یوں سوچتی تھی کہ یہاں میرے شوہر ہیں اور میرے والد ہیں،  
پھر جب حضرت عمرؓ ان کے ساتھ فن ہوئے، حضرت عمرؓ سے شرم کی وجہ سے میں جب بھی داخل  
ہوئی تو پورا کپڑا باندھ کر داخل ہوئی۔  
اس حدیث میں ہے کہ تبر پر پر دہ کے ساتھ جانا چاہئے۔

17۔ وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَ يَعْفُظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لَا يُدِينُنَّ زِينَتَهُنَّ  
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، لِيَضْرِبَنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُبُوبِهِنَّ وَ لَا يُدِينُنَّ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبَعْوَلَتَهُنَّ أَوْ  
أَبَائِهِنَّ - (آیت ۳۱، سورۃ النور ۲۴)

ترجمہ۔ مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگائیں نیچی رکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور  
انپی سجاوٹ کو کسی پر ظاہرنہ کریں، سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائے، اور اپنی اوڑھنیوں کے  
انچل اپنے گریبانوں پر ڈال لیا کریں، اور اپنی سجاوٹ اور کسی پر ظاہرنہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے

یا اپنے باپ کے اخ۔

اس آیت میں ہے کہ اپنی زینت کسی پر نظاہرنے کریں

۱۸۔ وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكَنَ وَ لَا تَبَرَّجْ جَنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةَ الْأُولَى - (آیت ۳۳، سورۃ الاحزاب ۳۳)۔ ترجمہ۔ اور اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہو، اور غیر مردوں کو بناؤ سنگھار دکھاتی نہ پھر و جیسا کہ پہلی جاہلیت میں دکھایا جاتا تھا۔

۶۔ عن عبد الله عن النبي ﷺ قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان - (ترمذی شریف، باب استشراف الشیطان المرأة اذا خرجت، ۲۸۲، نمبر ۱۱۷۳)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ عورت جب باہر نکلتی ہے تو شیطان اشارہ کرتا ہے کہ اس کی تاک جھانک کرو اس حدیث میں ہے کہ عورت بن ٹھن کر باہر نکلتی ہے تو شیطان لوگوں کو متوجہ کرتا ہے کہ اس عورت کو دیکھو۔

مردوں کو بھی حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں

اس آیت میں ہے

۱۹۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَزْكَى لَهُمْ - (آیت ۳۰، سورۃ النور ۲۲)

ترجمہ۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی انکے لئے پاکیزہ ترین طریقہ ہے

اس آیت میں مردوں کو حکم ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں تو عورتوں کو کیسے اجازت دی جاسکتی ہے کہ وہ مزاروں پر بے پر دگی کے ساتھ دوڑتی رہیں

[۵] قبر پرو اولانہ کرے

پانچویں شرط یہ ہے کہ قبر پرو اولانہ کرے یعنی بلاوجہ زور زور سے نہ روئے اور نہ سینہ پیٹیے  
اس کے لئے احادیث ہیں

7۔ عن عبد الله قال قال رسول الله ﷺ ليس منا من شق الجيوب و ضرب الخدود و دعا بدعوى الجاهلية۔ (ابن ماجة شریف، باب ماجاء عن نبی ضرب الخدوش  
الجیوب، ص ۲۲۵، نمبر ۱۵۸۲)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ ہم میں سے وہ نہیں ہے کہ پڑا چھڑا رے، اور چہرے پر مارے، اور زمانہ جاہلیت  
کی جیسی بات کرے

8۔ لما ثقل ابو موسى .... ان رسول الله ﷺ قال انا بری ممن حلق و سلق و  
خرق۔ (ابن ماجة شریف، باب ماجاء عن نبی ضرب الخدوش الجیوب، ص ۲۲۵، نمبر ۱۵۸۶ مسلم  
شریف، کتاب الائیمان، باب تحریم ضرب الخدوش، ص ۵۸، نمبر ۱۰۳) (۲۸۵)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ میں اس شخص سے بری ہوں جو سر کا بال اکھیرے، گلا چھڑا چھڑا کر کے واولیا  
کرے، اور کپڑا چھڑا رے

9۔ عن جابر بن عبد الله ... قال : لا ، ولكن نهيت عن صوتين احمقين فاجرين  
صوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب و رنة شيطان۔ (ترمذی شریف، کتاب  
الجنازہ، باب ماجاء فی الرخصة فی البکاء علی المیت، ص ۲۲۳، نمبر ۱۰۰۵)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ دو حق آواز جو فاجر ہیں ان سے مجھے روکا گیا ہے، ایک آواز وہ ہے جو  
 المصیبت کے وقت چہرے پر تھڑھڑ مارتے ہوئے آوازنکا لے، اور کپڑا چھڑا رے، اور دوسری آواز ہے

شیطان کی گنگا ہٹ

اس حدیث میں واپس اکرنے سے سختی منع کیا ہے، پتہ نہیں بعض لوگ محرم کے موقع پر کیوں اتنا واپس کرتے ہیں

باقی تفصیل ماتم کے عنوان میں دیکھیں

## [۶] قبر والوں کو سلام کرے اور دعا پڑھئے

چھٹی شرط یہ ہے کہ لوگ قبر پر بہت سارے خرافات کرتے ہیں، اس لئے وہاں خرافات نہ کریں، صرف، قبر والوں کو سلام کریں، ان کے لئے استغفار کریں، ان کے لئے دعا کریں، اور قرآن وغیرہ پڑھ کر بخش دیں، اور موت کو یاد کریں، اور یوں خیال کریں کہ مجھے بھی قبرستان آنا ہے، یہاں اتنا ہی کام احادیث سے ثابت ہیں، باقی باتیں دیسے ہی ہیں

سلام اور استغفار کرنے کے لئے احادیث یہ ہیں

10- عن ابن عباس قال مر رسول الله ﷺ بقبور المدينة فا قبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا اهل القبور يغفر الله لنا و لكم انتم سلفنا و نحن بالاثر- (ترمذی شریف، کتاب الجنائز، باب ما يقول الرجل اذا دخل المقابر، ص ۲۵۲، نمبر ۱۰۵۳)

ترجمہ۔ حضور مدینہ کے ایک قبر کے پاس سے گزرے، تو اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا۔ السلام عليکم يا اهل القبور ، اللہ ہماری اور تھماری مغفرت کرے، آپ ہمارے سلف ہیں اور ہم بعد میں آنے والے ہیں

اس حدیث میں ہے کہ اہل قبر کو سلام کرے اور اس کے لئے مغفرت کی دعا کرے۔

11- عن عائشة انها قالت کان رسول الله کلمہ کان لیلتها من رسول الله ﷺ .  
يخرج من آخر الليل الى البقیع فيقول ، السلام عليکم دار قوم مومنین و اتاکم ما  
توعدون غداً موجلون ، وانا ، ان شاء الله، بكم لاحقون ، اللهم اغفر لاهل بقیع  
الغرقد۔ (مسلم ثریف، کتاب الجنائز، باب ما یقال عند دخول القبور والدعاء لاملها، ص ۳۹۲، نمبر  
۹۷۳، نمبر ۲۲۵۵)

ترجمہ۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جب بھی حضورؐ کی باری میرے ساتھ ہوتی تورات کے آخر حصے  
میں جنت البقیع [قبستان] کی طرف تشریف لیجاتے، اور یہ کلمات کہتے، السلام عليکم دار قوم  
مومنین الخ، کہتے، اور کہتے کہ، اے اللہ البقیع والوں کو معاف کر دے  
ان دونوں حدیثوں میں دونا تیس ہیں، ایک تو یہ کہ اہل قبور کو سلام کس طرح کرے، اور دوسری بات یہ  
ہے کہ اس کے لئے استغفار کرے

[۷] قبروالے کے لئے استغفار کرے  
ساتویں بات یہ ہے کہ قبروالوں کے لئے استغفار کرے

اس کے لئے احادیث یہ ہیں

12- عن عثمان بن عفان قال کان النبي ﷺ اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه  
فقال استغفروا لاخيكم و اسألوا له بالتشبيت فانه الآن يسأل۔ (ابوداود ثریف، کتاب  
الجنائز، باب الاستغفار ند القبر للميت في وقت الانصراف، ص ۳۷۰، نمبر ۳۲۲۱)

ترجمہ۔ حضورؐ جب میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو اس کے پاس کھڑے ہوتے، اور فرماتے، اپنے

بھائی کے لئے استغفار کرو، اور اس کے لئے ثابت قدم رہنے کے لئے دعا مانگو، اس لئے کہاب مکر نکیر [فرشتے] اس سے سوال کریں گے۔

13۔ سمعت عائشة تحدث فقالت ... فقال إن ربك يأمرك أن تأتني أهل البقيع فتستغفر لهم ، قالت قلت كيف أقول لهم ؟ يا رسول الله ! قال قولى السلام على أهل الديار من المؤمنين و المسلمين ويرحم الله المستقدمين منا و المستآخرين ، وانا ان شاء الله بكم للاحقون - (مسلم شریف، کتاب الجنائز، باب ما یقال عند دخول القبور و الدعاء لاحلها، ج ۳۹۲، نمبر ۷۲، نمبر ۲۲۵۶)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے کہ بقیع والوں کے پاس آئیں اور ان کے لئے استغفار کریں، حضرت عائشہؓ مرمتی ہیں کہ میں حضورؐ سے پوچھا کہ کس طرح انکے دعا کروں، تو آپ نے فرمایا السلام علی اهل الديار من المؤمنين و المسلمين، آخر تک پڑھو

14۔ عن عائشة انها قالت كان رسول الله كلما كان ليتها من رسول الله عليه السلام .

يخرج من آخر الليل الى البقيع فيقول ، السلام عليكم دار قوم مومنين و اتاكم ما توعدون غدا مؤجلون ، وانا ، ان شاء الله ، بكم لاحقون ، اللهم اغفر لاهل بقیع الغرقد - (مسلم شریف، کتاب الجنائز، باب ما یقال عند دخول القبور و الدعاء لاحلها، ج ۳۹۲، نمبر ۷۲، نمبر ۲۲۵۵)

ترجمہ۔ حضرت عائشہؓ مرمتی ہیں کہ جب بھی حضورؐ کی باری میرے ساتھ ہوتی تورات کے آخر حصے میں جنت بقیع [قبرستان] کی طرف تشریف لیجاتے، اور یہ کلمات کہتے، السلام عليکم دار قوم مومنین الخ ، اور کہتے کہ، اے اللہ بقیع والوں کو معاف کر دے

اس حدیث میں ہے کہ میت کے لئے استغفار کرے۔

**قبروالے کو سلام کرنا ہوتا قبر کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے**

اس کے لئے حدیث یہ ہے

15- عن ابن عباس قال مر رسول الله ﷺ بقبور المدينة فاقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا اهل القبور يغفر الله لنا و لكم انتم سلفنا و نحن بالاثر۔ (ترمذی شریف، کتاب الجنائز، باب ما يقول الرجل اذا دخل المقابر، ص ۲۵۲، نمبر ۱۰۵۳)

ترجمہ۔ حضور مدینہ کے ایک قبر کے پاس سے گزرے، تو اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا۔ السلام عليکم یا اهل القبور، اللھ ہماری اور تمہاری مغفرت کرے، آپ ہمارے سلف ہیں اور ہم بعد میں آنے والے ہیں

اس حدیث میں ہے کہ سلام کرنے کے لئے حضور اہل مدینہ کی قبروں کی طرف متوجہ ہوئے

## قبر کے پاس بیٹھنا ہو تو منہ قبلہ کی طرف ہو

قبروں کے پاس بیٹھنا ہو تو چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہئے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ قبر والے سے بیٹھ کر مانگ رہے ہیں

اس کے لئے حدیث یہ ہے

16- عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله ﷺ في جنازة رجل من الانصار فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد فجلس النبي ﷺ مستقبل القبلة وجلسنا معه۔ (ابوداؤد شریف، کتاب الجنائز، باب کیف تجلس عند القبر، ص ۳۶۹، نمبر ۳۲۱۲)

ترجمہ۔ ہم حضورؐ کے ساتھ ایک انصاری آدمی کے جنازے میں نکلے ہم قبر کے پاس پہنچ گئے ابھی قبر نہیں کھو دی گئی تھی، تو حضورؐ قبلے کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھ گئے

اس حدیث میں ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے حضور قبرستان میں بیٹھے، ادب کا تقاضہ یہی ہے

## عام حالات میں عورتوں کو قبر پر جانا منع ہے

عام حالات میں عورتوں کو قبر پر جانا منع ہے، کیونکہ وہ داویاً کرتی ہیں، اور خلاف شریعت کام کرنے میں مشغول ہو جاتی ہیں، البتہ دوسری حدیثوں کی وجہ سے بعض حضرات نے کبھی کھار جانے کی گنجائش دی ہیں اس میں بھی وہی سات شرطیں ہیں

حدیث میں عورتوں کے لئے قبرستان جانا منع ہے اس کے لئے یہ حدیث ہے

17۔ عن ابن عباس قال لعن رسول الله ﷺ زورات القبور - (ابن ماجہ شریف، باب ما جاء عن زيارۃ النساء القبور، ص ۲۲۲، نمبر ۱۵۷۵)

ترجمہ۔ قبر کی زیارت کرنے والی عورتوں پر حضورؐ نے لعنت کی۔

18۔ عن ابن عباس قال لعن رسول الله ﷺ زائرات القبور و المتخذين عليها المساجد والسرج - (ترمذی شریف، کتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهيۃ ان يتجذر على القبر مسجد او صریح، نمبر ۳۲۰، رنسائی شریف، کتاب الجنائز، باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، ص ۲۸۶، نمبر ۲۰۲۵)

ترجمہ۔ حضورؐ نے قبر کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت کی، اور جو اس پر مسجدیں بناتے ہیں اور چراغ جلاتے ہیں ان پر بھی لعنت کی

اس حدیث میں ہے کہ جو عورتیں قبر کی زیارت کرتی ہیں ان پر حضور ﷺ نے لعنت کی، اس لئے عورتوں کو عام حالات میں قبر پر جانا اچھا نہیں ہے البتہ کبھی کھار چلی جائے اس کی گنجائش ہے

## عورتوں کے لئے کبھی کبھار قبر کی زیارت کی گنجائش دی ہے

اس کے لئے حدیث یہ ہے

19- عن عائشہ ان رسول اللہ ﷺ رخص فی زیارة القبور۔ (ابن ماجہ شریف باب ماجاء فی زیارة القبور، ص ۲۲۳، نمبر ۱۵۷)۔ ترجمہ۔ حضورؐ نے قبر کی زیارت کی رخصت دی اس رخصت کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ بھی کبھار زیارت کر لے تو اس کی رخصت ہے

20- عن سلیمان بن بریدۃ قال قال رسول اللہ ﷺ قد كنت نهیتکم عن زیارة القبور فقد اذن لمحمد فی زیارة قبر امه فروروها فانها تذکر الآخرة۔ (ترمذی شریف، کتاب الجنازہ، باب ماجاء فی الرخصۃ فی زیارة القبور، ص ۲۵۲، نمبر ۱۰۵۲)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو قبر کی زیارت سے روکتا تھا، لیکن محمدؐ کو اپنی ماں کی قبر کی اجازت دی، اس لئے اب اس کی زیارت کیا کرو، کیونکہ اس سے آخرت یاد آتی ہے

21- قال توفی عبد الرحمن بن ابی بکر بالحبشی قال فحمل الی مکة فدفن فيها فلما قدمت عائشة اتت قبر عبد الرحمن بن ابی بکر۔ (ترمذی شریف، کتاب الجنازہ، باب ماجاء فی الرخصۃ فی زیارة القبور، ص ۲۵۵، نمبر ۱۰۵۵)

ترجمہ۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کی وفات جوشہ میں ہوئی تو انکو مکہ لا یا گیا اور وہاں دفن کیا، جب حضرت عائشہؓ سفر سے واپس آئیں تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر کی زیارت کے لئے آئیں۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا کہ عورتیں بھی کبھی کبھار قبر پر جا سکتی ہیں۔

## قبر پر عمارت بنانا مکروہ ہے

قبور پر عمارت بنانا مکروہ ہے، اس کی دلیل یہ حدیث ہے

22- عن جابر قال نهى رسول الله ﷺ ان تجচص القبور و ان يكتب عليها ، و ان يسمى عليها و ان تؤطأ۔ (ترمذی شریف، کتاب الجنائز، باب ماجاء فی کراہی تجصیح القبور والكتابۃ علیہا، ص ۲۵۲، نمبر ۱۰۵۲، ابن ماجہ شریف، باب ماجاء فی النہی عن البناء علی القبور والكتابۃ علیہا، ص ۲۲۲، نمبر ۱۵۶۲)

ترجمہ۔ حضورؐ نے قبروں کو پختہ بنانے سے منع کیا، اور اس پر لکھنے سے منع کیا، اور اس پر عمارت بنانے سے منع کیا، اور اس کو روندنے سے منع کیا۔

23- عن جابر نهى رسول الله ﷺ ان يجচص القبر ، و ان يقعد عليه ، و ان يسمى عليه۔ (مسلم شریف، کتاب الجنائز، باب النہی عن تجصیح القبر والبناء علیہ، ص ۳۹۰، نمبر ۲۲۲۵/۹۷۰)

ترجمہ۔ حضورؐ نے قبر کو پختہ بنانے سے منع فرمایا ہے، اور اس پر بیٹھنے سے، اور اس پر عمارت تغیر کرنے سے منع فرمایا ہے۔

24- عن ابی سعید ان النبی ﷺ نھی ان یسمی علی القبور - (ابن ماجہ شریف، باب ماجاء فی النہی عن البناء علی القبور والكتابۃ علیہا، ص ۲۲۲، نمبر ۱۵۶۲)

ترجمہ۔ حضورؐ نے قبر پر عمارت بنانے سے منع کیا۔  
ان تینوں حدیثوں میں قبر پر عمارت بنانے سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔

## قبر پر عمارت بنانے والوں کی ایک دلیل

بعض حضرات کہتے ہیں کہ لوگوں کے قرآن پڑھنے کے لئے، یاددا کرنے کے لئے قبر کے گرد عمارت بنانا جائز ہے، اور اس کے لئے وہ کچھ بزرگوں کے اقوال پیش کرتے ہیں

لیکن اس میں یہ خامیاں ہیں

[۱] حدیث میں شدت کے ساتھ منع کیا ہو تو پھر کسی بزرگ کے قول کا استدلال میں پیش کرنا صحیح نہیں ہے

[۲] آج کل لوگ قرآن پڑھنے کے لئے تو کم، اور شہرت، قوامی اور ڈھول کے لئے زیادہ عمارت بناتے

ہیں، آپ اس کے لئے یوٹیوب you tube اور انٹرنیٹ، دیکھ لیں، پھر فیصلہ کریں

[۳] حضورؐ کو خطرہ تھا کہ کچھلی قوموں کی طرح یہ قوم بھی قبر اور اہل قبر کے خرافات میں پڑ جائے گی اس

لئے قبر پر عمارت بنانے، اور اس پر چراغ جلانے سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔

## حضرور ﷺ کی قبر مبارک پر قبہ کیوں ہے

حدیث کی بنیاد پر حضور ﷺ کی قبر پر حپت نہیں ہونی چاہئے، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی قبر شریف حضرت عائشہؓ کے کمرے میں تھی اس لئے پہلے سے سائبان تھا، اور یہی سائبان کافی سالوں تک رہا، بعد میں دیکھا کہ جو لوگ بھی باہر سے آتے ہیں وہ قبر کے پاس ہی جانا چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ وہاں سے مٹی بھی اٹھانے لگے، کیونکہ باہر کے سب لوگ اتنے تربیت یافتے نہیں ہوتے، اس لئے اس کے ارد گرد دیوار کھڑی کر دی تاکہ لوگ وہاں تک نہ جاسکے، اور کسی توہین کا رتکاب نہ کر سکے

۱۲۶ مطابق ۵۵ھ میں سلطان نور الدین زنگیؑ والی دمشق کے زمانے میں ایک حادثہ پیش آیا، وہ یہ کہ کچھ یہودیوں نے حضور ﷺ کی قبر تک سرناگ بنایا اور آپ کی توہین کرنے کی کوشش کی اس لئے اس نور الدین زنگیؑ کے قبر کے ارد گرد شیشے کی مضبوط بنیاد بنائی تاکہ کوئی یہودی سرناگ نہ بن سکے ان حالات کو دیکھتے ہوئے ۱۲۸ مطابق ۵۷ھ میں سلطان سیف الدین قلاوون نے اس کی مرمت کی اور لکڑی کی مضبوط دیوار بنائی، اور حپت بھی بنادی، تاکہ کوئی اوپر سے بھی نہ آ سکے، اور کوئی شخص ارد گرد سے بھی اندر نہ جاسکے اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکے، اس لئے اس مجبوری کی وجہ سے حضور کی قبر شریف کے ارد گرد لکڑی کی دیوار، اور لکڑی کی حپت بنائی گئی، ورنہ حدیث کے اعتبار سے اس پر بھی کوئی عمارت، یا حپت نہیں ہونی چاہئے۔

اس وقت یہ دیوار لکڑی کی تھی اس لئے، ۸۸۶ھ مطابق ۱۴۷۸ء میں اس عمارت میں زبردست آگ لگ گئی اور جل گئی، جس کی وجہ سے سلطان قاتیبیٰ مصری نے اینٹ اور پتھر سے اس کی تعمیر کی اور اس پر مضبوط گنبد ڈال دی، تاکہ کوئی اندر نہ آ سکے، اس وقت اس عمارت پر سادہ رنگ سے رنگا جاتا تھا

۱۲۵۳ھ مطابق ۱۸۳۰ء میں سلطان محمود بن عبدالحمید نے اس کو ہرے رنگ سے رنگ دیا، اور وہ رنگ آج تک چل رہا ہے

قبر پر عمارت نہ بنا اور اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے آج بھی حضورؐ کی قبر، اور حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کی قبریں مٹی کی ہیں، اور ان پر کنکریاں بچھی ہوئی ہیں، البتہ لوگوں سے حفاظت کی غرض سے دور میں دیوار اور اس کی چھت بنائی گئی ہے۔

حضور کی قبر مبارک پرمٹی ہے اس کے لئے حدیث یہ ہے

- عن القاسم قال دخلت على عائشة فقلت يا امة !اکشفی لی عن قبر رسول الله ﷺ و صاحبیه رضی الله عنهمما فکشفت لی عن ثلاثة قبور ، لا مشرفۃ ، ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصۃ الحمراء۔ (ابوداود شریف، کتاب الجنائز، باب فی تسویۃ القبر، ص ۳۲۰، نمبر ۲۷۰)

ترجمہ۔ حضرت قاسمؓ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشۃؓ کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے حضور اور انکے دو ساتھیوں کی قبر دکھائیں؟ تو انہوں نے تین قبریں دکھائیں، جو بہت اوپر بھی نہیں تھیں اور بہت پچھی بھی نہیں تھیں، ان پر بطحاء کی سرخ کنکریاں بچھائی ہوئی تھیں  
اس قول صحابی میں ہے کہ حضور کی قبر پر بھی بھی سرخ نگ کی کنکری پڑی ہوئی ہے

اس لئے حضورؐ کی قبر کے گرد عمارت سے دوسری قبروں پر قبہ، اور گنبد بنانے پر استدلال نہیں کرنی چاہئے یہ حدیث کے خلاف ہے

## قبر کو بہت اونچی بنانا بھی مکروہ ہے

قبر کو اونچی بنانا بھی صحیح نہیں ہے۔

اس کے لئے یہ حدیث ہے۔

25۔ عن أبي الهمياج الأسدى قال : قال لى علی بن طالب الا ابغشک علی ما بعضی  
عليه رسول الله ﷺ ؟ ان لا تدع تمثلا الا طمسته و لا قبراً مشرفا الا سويته -  
مسلم شریف، کتاب الجنائز، باب الامر بتویہ القبر، ص ۳۸۹، نمبر ۹۶۹ (۲۲۲۳)

ترجمہ۔ ابی الہمیاج اسدی فرماتے ہیں کہ حضرت علیؑ نے مجھ سے کہا کہ، جس کے لئے مجھے حضورؐ نے  
بھیجا ہے میں تم کونہ بھیجوں؟، مجھے اس بات کے لئے بھیجا ہے کہ کوئی بت نہ دیکھوں مگر اس کو توڑ  
دوں، اور کوئی اونچی قبر نہ دیکھوں مگر اس کو برابر کروں  
اس حدیث میں ہے کہ اونچی قبر کو برابر کر دے، اس لئے قبر کو اونچی رکھنا بھی اچھا نہیں ہے، اس لئے قبر کو  
پختہ بنا کر اس کو اونچی کرنا اچھی بات نہیں ہے

بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ یہ کافر کی قبر کے بارے میں برابر کرنے کا حکم تھا، لیکن یہ تاویل اس  
لئے صحیح نہیں ہے اس حدیث میں کسی قبر کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ تمام قبروں کے لئے حکم عام ہے

## قبر کے اردوگر مسجد بنانا بھی مکروہ ہے

اس کے لئے حدیث یہ ہے

26۔ عن ابن عباس قال لعن رسول الله ﷺ زائرات القبور و المتخذين عليها المساجد والسرج۔ (ترمذی شریف، کتاب الصلاۃ، باب ما جاء فی کراہیۃ ان یتّخذ علی القبر مسجداً، ص ۸۸، نمبر ۳۲۰ رنسائی شریف، کتاب الجنائز، باب التغذیۃ فی اتّخاذ السرج علی القبور، ص ۲۸۶، نمبر ۲۰۲۵)۔ ترجمہ۔ حضورؐ نے قبر کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت کی، اور جو اس پر مسجدیں بناتے ہیں اور چراغ جلاتے ہیں ان پر بھی لعنت کی

27۔ عن عائشة ان ام سلمة ذكرت لرسول الله ﷺ کنیسة رأتها بارض الحبشة يقال لها مارية فذكرت له ما رأت فيها من الصور فقال رسول الله ﷺ اولئك قوم اذا مات العبد الصالح او الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا و صوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله۔ (بخاری شریف، کتاب الصلاۃ، باب الصلاۃ فی البيعة، ص ۵۷، نمبر ۳۳۲)

ترجمہ۔ حضرت ام سلمہؓ نے حضورؐ کے سامنے جب شہ میں جو چرچ دیکھا تھا، جس کو ماریہ، کہتے ہیں، اس میں جو تصویریگی ہوئی ہے اس کا تذکرہ کیا، تو حضورؐ نے فرمایا کہ یہ ایک قوم تھی جس کے نیک بندے مر جاتے تو اس کی قبر پر مسجد بنالیتے، اور اس میں یہ تصویر لگادیتے، اللہ کے نزدیک یہ شریر مخلوق ہے ان احادیث میں ہے کہ قبر کے پاس مسجد بنانا بھی مکروہ ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کے خلاف خواہ مخواہ فتوی دے دیا ہے، اور لوگوں کو گمراہ کیا ہے

## قبر پر چراغ جلانا بھی مکروہ ہے

اس کے لئے حدیث یہ ہے

28- عن ابن عباس قال لعن رسول الله ﷺ زائرات القبور و المتخذين عليها المساجد والسرج۔ (ترمذی شریف، کتاب الصلاۃ، باب ما جاء فی کراہیۃ ان یتقدّم علی القبر مسجد، ص ۸۸، نمبر ۳۲۰ رنسائی شریف، کتاب الجنائز، باب التغذیۃ فی اتّخاذ السرج علی القبور، ص ۲۸۶، نمبر ۴۰۴۵)

ترجمہ۔ حضورؐ نے قبر کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت کی، اور جو اس پر مسجدیں بناتے ہیں اور چراغ جلاتے ہیں ان پر بھی لعنت کی

29. عن ابن عباس قال لعن رسول الله ﷺ زائرات القبور و المتخذين عليها المساجد والسرج۔ (ابوداؤد شریف، کتاب الجنائز، باب فی زیارة النساء القبور، ص ۳۷۲، نمبر ۳۲۳۶)

ترجمہ۔ حضورؐ نے قبر کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت کی، اور جو اس پر مسجدیں بناتے ہیں اور چراغ جلاتے ہیں ان پر بھی لعنت کی

اس دور میں لوگ قبر پر کتنے چراغاں کرتے ہیں، اور کتنی رنگ برنگ بجلیاں جلاتے ہیں، اور اس کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں

## قبر پر پھول چڑھانا طھیک نہیں ہے

حضورؐ نے یا صحابہ نے کبھی بھی کسی قبر پر پھول نہیں چڑھایا ہے، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے کہ وہ لوگ اپنے بتوں پر، اور مورتیوں پر پھول چڑھاتے ہیں اور اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں ہندوؤں کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہئے

کچھ حضرات اس حدیث سے قبر پر پھول چڑھانے پر استدلال کرتے ہیں

29- عن ابن عباسؓ عن النبي ﷺ انه مر بغيرين يعذبان فقال انهم ليعذبان ... ثم اخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لم صنعت هذا؟ فقال لعله ان يخفف عنهم ما لم ييسا۔ (بخاری شریف، کتاب الحجائز، باب الجريدة على القبر، ص ۲۱۸، نمبر ۱۳۶۱)

ترجمہ۔ حضورؐ کا دو قبروں پر گزر رہا جن پر عذاب ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے۔۔۔ پھر ایک ترشاخ کو لیا اور اس کو دلکھرا کیا، پھر ہر قبر پر ایک ایک شاخ گاڑ دی، لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تک سوکھنہ جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک دونوں سے عذاب میں کمی رہے۔

اس حدیث میں حضورؐ نے فرمایا کہ صاحب قبر پر عذاب ہو رہا ہے تو آپ نے اس پر کھجور کی ٹہنی گاڑی اور کہا جب تک یہ شک نہ ہو تو اس وقت تک اس سے عذاب کم ہو جائے گا اس سے استدلال کرتے ہیں کہ قبر پر پھول چڑھانا جائز ہے

لیکن اس میں یہ باتیں دیکھنے کی ہے، کہ حضورؐ نے صرف ایک مرتبہ ایسا کیا، اس لئے ممکن ہے کہ یہ آپ کی برکت سے عذاب کم ہوا ہو، اس لئے کیا ضروری ہے کہ ہمارے گاؤں سے بھی عذاب کم ہو جائے حضورؐ نے کھجور کی ٹہنی ڈالی ہے، ہم پھول ڈالتے ہیں، اور پھول ڈالنا ہندوؤں کا طریقہ ہے وہ بھی اپنے بتوں پر پھول ڈالتے ہیں، اس لئے اس سے پرہیز بہتر ہے

آج کل قبروں پر ایک پھول نہیں ڈالا جاتا، بلکہ یہ مجاوروں کی بزلس بن گئی ہے، اس سے کتنے لوگ تجارت کر رہے ہیں، دیکھیں کہ تباہ افرق ہے

## غراہب کا فتویٰ

کچھ حضرات یہ فتویٰ پیش کرتے ہیں، لیکن اس فتوے کا اعتبار اس لئے نہیں ہے کہ فتاویٰ ہندیہ والوں نے، غراہب، کوئی کتاب ہے وہاں سے فتویٰ نقل کیا گیا ہے، اور اس پر کوئی حدیث بھی پیش نہیں کی ہے

**غراہب کا فتویٰ یہ ہے**

وضع الورد و الریاحین علی القبور حسن و ان تصدق بقيمة الورد کان احسن کذا فی الغرائب۔ (فتاویٰ ہندیہ، کتاب الکراہیۃ، الباب سادس عشر، فی زیارة القبور، ج ۵، ص ۳۵)

ترجمہ۔ قبر پر گلب کا پھول، یا خوبصور کھے تو بہتر ہے، اور اس کی قیمت صدقہ کر دے تو اور زیادہ بہتر ہے

غراہب کی کتاب میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے

اس عبارت میں دیکھیں کہ کوئی حدیث پیش نہیں کی، اور نہ کسی اہم کتاب کا حوالہ دیا ہے، یہ تو غراہب کی ایک عبارت ہے اس لئے یہ فتویٰ ٹھیک نہیں ہے، خصوصاً جبکہ آج کل یہ ایک بہت بڑی تجارت بن گئی ہو

## قبر پر لکھنا بھی اچھا نہیں ہے

30۔ عن جابر قال نهى رسول الله ﷺ ان يكتب على القبر شيء - (ابن ماجة شریف،  
باب ماجاء في النهي عن البناء على القبور وآلة تابة عليهما، ص ۲۲۲، نمبر ۱۵۶۳)

ترجمہ۔ حضورؐ نے قبر پر کوئی چیز لکھنے سے منع فرمایا ہے

اس حدیث میں ہے کہ قبر پر لکھنے سے منع کیا ہے

## قبر پر پتھر کی علامت رکھنا جائز ہے

قبر پر کوئی علامت کی چیز رکھ دے جس سے پتہ چلے کہ یہ فلاں کی قبر ہے تو اس کی تھوڑی سی گنجائش ہے  
لیکن اس کا عام رواج نہ بنالے۔

اس کی دلیل یہ حدیث ہے

31۔ عن انس بن مالک ان رسول الله أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة - (ابن  
ماجة شریف، باب ماجاء في العلامة في القبر، ص ۲۲۲، نمبر ۱۵۶۱)

ترجمہ۔ حضورؐ نے عثمان بن مظعون کی قبر پر چٹان رکھ کر نشان لگائی۔

## قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں

قبر کی طرف رخ کر کے نماز بھی پڑھنا جائز نہیں ہے تو اس کے سامنے مسجدہ کرنا کیسے جائز ہوگا!

حدیث یہ ہے

32۔ عن ابی مرسد الغنوی قال قال رسول الله ﷺ لا تجلسوا علی القبور ، و لا  
تصلوا علیہا۔ (مسلم شریف، کتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس علی القبر والصلوة علیہ، ص ۳۹۰، نمبر  
(۲۲۵۰/۹۷۲)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا قبر پر مت بیٹھو، اور اس کی طرف رخ کر کے نماز بھی نہ پڑھو  
اس حدیث سے ثابت ہوا کہ قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ  
صاحب قبر کی عبادت کر رہا ہے

## قبر پر بیٹھنا مکروہ ہے

قبر پر بیٹھنے سے صاحب قبر کی توہین ہوگی اس لئے قبر پر بیٹھنا مکروہ ہے  
اس کے لئے حدیث یہ ہے

33۔ حدیث یہ ہے۔ عن ابی مرسد الغنوی قال قال رسول الله ﷺ لا تجلسوا علی  
القبور ، و لا تصلوا علیہا۔ (مسلم شریف، کتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس علی القبر والصلوة  
علیہ، ص ۳۹۰، نمبر (۲۲۵۰/۹۷۲)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا قبر پر مت بیٹھو، اور اس کی طرف رخ کر کے نماز بھی نہ پڑھو۔

34۔ عن جابر نبی رسول اللہ ﷺ ان یجھص القبر ، و ان یقعد علیه ، و ان یبینی علیہا۔ (مسلم شریف، کتاب الجنائز، باب انہی عن تجھیس القبر والبناء علیہ، ص ۳۹۰، نمبر ۲۲۲۵/۹۷۰)

ترجمہ۔ حضورؐ نے قبر کو پختہ بنانے سے منع فرمایا ہے، اور اس پر بیٹھنے سے، اور اس پر عمارت تغیر کرنے سے منع فرمایا ہے

## قبور و ندنا مکروہ ہے

35۔ عن جابر قال نبی رسول اللہ ﷺ ان تجھص القبور و ان یکتب علیہا ، و ان یبینی علیہا و ان تؤططاً۔ (ترمذی شریف، کتاب الجنائز، باب ماجاء فی کراہیۃ تجھیس القبور والکتابۃ علیہا، ص ۲۵۲، نمبر ۱۰۵۲، ابن ماجہ شریف، باب ماجاء فی انہی عن البناء علی القبور والکتابۃ علیہا، ص ۲۲۲، نمبر ۱۵۶۲)

ترجمہ۔ حضورؐ نے قبروں کو پختہ بنانے سے منع کیا، اور اس پر لکھنے سے منع کیا، اور اس پر عمارت بنانے سے منع کیا، اور اس کو روشن نہ سے منع کیا۔

قبروں کے درمیان گزرنے کی ضرورت پڑ جائے تو جوتا نکال کر چلے  
قبروں کے درمیان گزرنے کی ضرورت پڑ جائے تو جوتا نکال کر چلے تاکہ قبر کی توہین نہ ہو، لیکن اگر  
وہاں گھاس وغیرہ کی وجہ سے چلتا ممکن نہ ہو تو چپل پہن سکتا ہے،

اس کے لئے حدیث یہ ہے

36- ان بشیر ابن الخصاچیہ قال كنت امشی مع رسول الله ﷺ فمر على قبور المسلمين فقال : لقد سبق هؤلاء شرا كثيرا ، ثم مر على قبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا ، فحانست منه التفاتة فرأى رجلا يمشي بين القبور في نعليه فقال يا صاحب السبتيتين القهما - (نسائی شریف، کتاب الجنائز، باب کراہیۃ المشی بین القبور فی العال البتیة، ص ۲۸۷، نمبر ۲۰۵۰)

ترجمہ - بشیر ابن خصاچیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضورؐ کے ساتھ مسلمان کی قبروں کے درمیان سے چل رہے تھے، تو حضورؐ نے فرمایا کہ یہ لوگ شرکی بہت ساری چیزوں کو پار کر گئے، پھر ہم مشرکین کی قبروں سے گزرے تو حضورؐ نے فرمایا کہ، یہ لوگ بہت سارے خیر کو چھوڑ آئے ہیں، اس درمیان آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ جوتا پہن کر قبروں کے درمیان چل رہا ہے تو آپ نے فرمایا، آئے جو تے والے اس کونکال لو۔

اس حدیث نے حضورؐ نے فرمایا کہ چڑے کے جوتے کو نکال کر قبروں کے درمیان میں چلو۔

لغت: سبتویہ چڑے کا جوتا

جن کے یہاں موت ہوئی ہے  
انکے یہاں کھانا بنا کر بھیجنा سنت ہے

اس کے لئے حدیث یہ ہے

37- عن عبد الله بن جعفر قال لما جاء نعي جعفر قال رسول الله ﷺ اصنعوا الآل  
جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم او امر يشغلهم - (ابن ماجہ شریف، باب فی الطعام یبعث  
الى اہل لمیت، ص ۲۲۹، نمبر ۱۶۱۰)

ترجمہ۔ حضرت بد بن جعفرؑ فرماتے ہیں کہ جب حضرت جعفرؑ کی موت کی خبر آئی تو حضورؐ نے فرمایا کہ  
حضرت جعفرؑ کے رشتہ داروں کے لئے کھانا بناؤ، کیونکہ انکے پاس ایسی خبر آئی ہے، جس کی وجہ سے انکو  
مشغولیت ہو گئی ہے، یا یوں فرمایا کہ، ایسا معاملہ آگیا ہے، جس میں وہ لوگ مشغول ہیں [یعنی غمی کی وجہ  
سے کھانا بنانے کی فرصت نہیں ہے]۔

اس حدیث میں ہے کہ میت کے گھر میں کھانا بھیجننا چاہئے۔

لیکن اس وقت کی صورت حال یہ ہے کہ جنکے یہاں وفات ہوئی ہو تو اس کے یہاں کھانا کہاں بھیجتے  
ہیں، بلکہ انکے یہاں رشتہ دار اور عوامل کرتا تکھاتے ہیں کہ گھروالے لگن آ جاتے ہیں

جنکے یہاں موت ہوئی ہے اُنکے یہاں کھانا کھانا مکروہ ہے

آج کل ایصال ثواب کے نام پر اتنا خرچ کرواتے ہیں کہ وارثین تنگ آ جاتے ہیں حالانکہ ایصال ثواب کرنا ایک مستحب کام ہے، اور وہ وارثین کی اپنی مرضی کی چیز ہے، کہ جب چاہے اپنی خوشی سے کچھ غرباء کو چپکے سے کھانا کھلادے، یا کپڑا پہنادے، اور اس کا ثواب میت کو پہنچا دے، یہی ثواب میت کو پہنچتا ہے اس کے لئے نہ وقت متعین کرنے کی ضرورت ہے اور نہ اعلان کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ چپکے سے غرباء کو کھلانا ہے لیکن میں نے دیکھا کہی غریب کی والدہ کا انتقال ہوا تو کچھ ذہین لوگوں نے اتنا مجبور کیا کہ وہ بیویوں سے کئی بزرار و پیہ سودی قرض لا کر لوگوں کو کھانا کھلایا تب اس کی جان چھوٹی اس کے لئے صحابی کا قول یہ ہے

38- عن جریر بن عبد الله بِ جَلْعَى قَالَ كَنَا نَرِى الْاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيْتِ وَ صَنْعَةِ الطَّعَامِ مِنَ النِّيَاحَةِ - (ابن ماجہ شریف، باب ماجاء فی النَّهْیِ الْاجْتِمَاعِ إِلَى أَهْلِ الْمَيْتِ وَ صَنْعَةِ الطَّعَامِ، ص ۲۳۰، نمبر ۱۶۱۲، مسنون احمد، مسنون عبد اللہ بن عمر و بن العاص، جلد ا، ص ۵۰۵، نمبر ۲۲۷۹)

ترجمہ۔ جریر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ ہم، میت والوں کے پاس جمع ہونا، اور ان سے کھانا بخوانا نوحہ کرنے کے قسم سے سمجھتے تھے اس حدیث میں ہے کہ جس طرح نوحہ کرنا ناجائز سمجھتے تھے اسی طرح میت والوں کے یہاں کھانا بھی ناجائز سمجھتے ہیں۔

## میت کے لئے بہت زیادہ اعلان کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے

میت کے لئے بہت زیادہ اعلان کریں گے تو اس کے یہاں بھیڑ ہو جائے گی اور اس کو سنبھالنا مشکل ہو گا، اس لئے شریعت نے یہ معیار مقرر کیا ہے کہ مرنے والوں کے یہاں بہت بھیڑ جمع نہ ہو جائے

اس کے لئے حدیث یہ ہے

39. عن عبد الله عن النبي ﷺ قال اياكم و النعى فان النعى من عمل الجahليه ،  
قال عبد الله و النعى اذان با لميت . (ترمذی شریف، کتاب الجنائز، باب ما جاء في کرامۃ النعی  
، ص ۲۳۹، نمبر ۹۸۲ / ابن ماجہ شریف، کتاب الجنائز، باب ما جاء في انحصار عن النعی ، ص ۲۱۱، نمبر  
(۱۲۷۶)

ترجمہ۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان موت کے اعلان سے بچا کرو، اس لئے کہ یہ چالبیت کا عمل ہے، حضرت عبداللہ ؓ نے فرمایا کہ نبی کا ترجمہ ہے لوگوں کے درمیان موت کا اعلان کرنا۔  
اس حدیث میں اہتمام کے ساتھ لوگوں میں میت کی موت کے اعلان کرنے سے منع کیا ہے، ہاں تھوڑا  
بہت جنائز کی اطلاع دے اس کی گنجائش ہے، لیکن جم گھٹا کرنا صحیح نہیں ہے،

اس وقت کا عالم یہ ہے کہ جنکے یہاں موت ہو جائے وہاں مہینوں لوگ جمع ہوتے رہتے ہیں، اور گھر  
والوں کو کوئی کام کرنا مشکل ہوتا ہے، اور بے پناہ خرچ ہو جاتا ہے

## تین دن سے زیادہ سوگ نہ منائے

بیوی تو چار مہینے دس روز تک سوگ منائے گی۔ اس کے علاوہ کے لوگ تین دن سے زیادہ سوگ نہ منائے، حدیث میں اس کو منع فرمایا ہے، یہ جو لوگ چالیس دن تک سوگ مناتے رہتے ہیں یا ہر سال سوگ مناتے ہیں، اور پورا ہنگامہ کرتے ہیں یہ حدیث کے اعتبار سے غلط ہے اس کے لئے یہ حدیث ہے

40۔ عن ام عطیۃ قالـت کـنا نـهـیـ انـحـدـ عـلـیـ الـمـیـتـ فـوـقـ ثـلـاثـ الـاـ عـلـیـ زـوـجـ اـرـبـعـةـ اـشـہـرـ وـ عـشـرـاـ۔ (بخاری شریف، کتاب الحیض، باب الطیب للمرأۃ عند غسلها من الحیض، ص ۵۲، نمبر ۳۱۳) مسلم شریف، کتاب الطلاق، باب وجوب الاحداد فی عدہ الوفاة و تحریمه فی غیر ذالک، الاشارة، ایام، ص ۲۲۲، نمبر ۱۲۸۶، نمبر ۳۷۲۵)

ترجمہ۔ حضرت ام عطیہؓ فرماتی ہیں کہ، تین دن سے زیادہ میت پر سوگ منانے سے ہم کو روکا جاتا تھا، سوائے شوہر کے کہ اس پر چار مہینے دس دن بیوی سوگ منائے اس حدیث میں ہے کہ تین دن سے زیادہ سوگ نہ منائے۔

## قبر میں گناہ گاروں کو عذاب ہوتا ہے

قبر کا عذاب حق ہے، اور ان کی زندگی بزرخی زندگی ہے

اس کی دلیل یہ آیتیں ہیں

20۔ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتَ قَالَ رَبِّ أَرْجِعُونَ لِعَلَىٰ أَعْمَلٍ صَالِحٍ فِيمَا تَرَكَ  
كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَاتِلُهَا وَ مِنْ وَرَائِهِمْ بَرُزَخٌ إِلَيْ يَوْمٍ يُعَثُّونَ۔ (آیت ۱۰۰ سورت المؤمنون)  
(۲۳)

ترجمہ۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آ کھڑی ہوگی تو وہ کہے گا کہ، میرے رب مجھے واپس بچھج دیجئے، تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں جا کر نیک عمل کروں، ہرگز نہیں! یہ تو ایک بات ہی بات ہے جو وہ زبان سے کہہ رہا ہے، اور ان مرنے والوں کے سامنے برش کی آڑ ہے جو اس وقت تک قائم رہے گی جب تک انکو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔

21۔ وَ حَاقَ بِالِّفِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ، الْنَّارُ يُعَرَضُونَ عَلَيْهَا غُدَوًا وَ عَشِيًّا وَ يَوْمَ تَقُومُ  
السَّاعَةُ أَذْخُلُوا إِلَيْ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ (آیت ۲۵۔ ۲۶، سورۃ غافر)

ترجمہ۔ اور فرعون کے لوگوں کو بدترین عذاب نے آ گھیرا، آگ ہے جس کے سامنے ان کو صح شام پیش کیا جاتا ہے، اور جب قیامت آئے گی تو حکم ہو گا کہ اس کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو

22۔ وَ لَوْ تَرَىٰ إِذَا الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَ الْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا  
أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُحْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ۔ (آیت ۹۳، سورۃ الانعام)

ترجمہ۔ اگر تم وہ وقت دیکھو جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں گرفتار ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہہ رہے ہوں گے کہ اپنی جانیں نکالا وج تھمیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا ان تین آیتوں میں اشارۃ قبر کے عذاب کا تذکرہ ہے

41- عن ابی ایوب <sup>ؐ</sup> قال خرج النبی ﷺ و قد وجبت الشمس ، فسمع صوتا فقال  
يهود يعذب في قبورها۔ (بخاری شریف، کتاب الجنازہ، باب التوعذ من عذاب القبر، ص ۲۲۰، نمبر ۱۳۷۵)

ترجمہ۔ سورج ڈوبتے وقت حضور ﷺ نکلے تو ایک آواز سنی تو آپ نے فرمایا، یہود کو اپنی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔

42- عن عائشة <sup>ؓ</sup> .... قالت عائشة <sup>ؓ</sup> فما رأيت رسول الله ﷺ بعد صلی صلاة إلا  
تعوذ من عذاب القبر ، و زاد غندر ، عذاب القبر حق۔ (بخاری شریف، کتاب الجنازہ،  
باب ماجاء في عذاب القبر، ص ۲۲۰، نمبر ۱۳۷۲)

ترجمہ۔ حضرت عائشہ <sup>ؓ</sup> فرماتی ہیں کہ ہر نماز کے بعد میں حضور <sup>ؐ</sup> کو دیکھا کہ وہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے، حضرت غندر <sup>ؓ</sup> نے یہ بھی فرمایا کہ قبر کا عذاب حق ہے۔

43- حدثى ابنة خالد بن سعيد ابن العاصى انها سمعت النبى ﷺ و هو يتعدى من  
عذاب القبر - (بخاری شریف، کتاب الجنازہ، باب التوعذ من عذاب القبر، ص ۲۲۱، نمبر ۱۳۷۶)  
ترجمہ۔ حضرت سعید بن عاص <sup>ؓ</sup> فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ حضور <sup>ؐ</sup> قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے

اس حدیث میں ہے کہ حضور قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے، اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ حیات برزخی ہے۔

44- عن البراء بن عازب قال خرجنا مع النبي ﷺ في جنازة ..... قال فتعاد روحه في جسده ، فياتيه ملکان فيجلسان فيقولا له من ربک فيقول ربى الله ..... فتعاد روحه و ياتيه ملکان فيجلسانه فيقولان من ربک ؟ فيقول ها ها لا ادرى . (مسند احمد، حدیث البراء بن عاذب، ج ۵، ص ۳۶۲، نمبر ۱۸۰۲۳ / ابو داود شریف، باب المسألة في القبر و عذاب القبر، نمبر ۲۷۲، نمبر ۲۷۵۳)

ترجمہ۔ ہم حضورؐ کے ساتھ ایک جنائزے میں نکلے۔۔۔ فرمایا کہ اس کی روح کو جسم میں لائی جاتی ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بیٹھاتے ہیں، اور پوچھتے ہیں تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ مسلمان کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔۔۔ کافر کی روح کو لوٹائی جاتی ہے، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بیٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے، ہاہ ہا مجھے معلوم نہیں ہے ان احادیث میں ہے کہ انسان کو قبر میں عذاب ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کی یہ زندگی برزخی ہے

اس عقیدے کے بارے میں 22 آیتیں اور 44 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں۔

## ۳۸۔ قبر پر عرس جائز نہیں ہے

اس عقیدے کے بارے میں 2 آیتیں اور 10 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں۔

قبر پر عرس کرنے سے عید کی شکل بنتی ہے، اور حضورؐ نے قبر پر عید کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لئے یہ بھی جائز نہیں ہے  
اس کی دلیل یہ حدیث ہے۔

1 - عن ابی هریرۃ قال قال رسول الله ﷺ لا تجعلوا بیوتکم قبورا ، و لا تجعلوا قبری عیدا ، و صلوا علی فان صلاتکم تبلغنی حیث کنتم۔ (ابوداؤد شریف، کتاب المنسک، باب زیارت القبور، ص ۲۹۶، نمبر ۲۰۲۲) اس حدیث میں ہے کہ میری قبر کو میلے کی جگہ نہ بناؤ، ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبر کی طرح مت بناؤ [اس میں نماز پڑھتے رہو] اور میری قبر کو عید کی طرح مت بناؤ، مجھ پر درود بھیجتے رہو، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔

اس حدیث میں ہے کہ قبر پر عید کی شکل مت بناؤ، اور عرس میں عید کی شکل ہوتی ہے اس لئے یہ جائز نہیں ہے

## اس حدیث سے عرس پر استدلال کرنا صحیح نہیں ہے

بعض حضرات نے اس حدیث سے عرس کے جائز ہونے پر استدلال کیا ہے

2- عن محمد بن ابراهیم التیمی قال کان النبی ﷺ یاتی قبور الشهداء عند رأس الاحول ، فيقول السلام عليکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار ، قال و کان ابو بکر ، و عمر و عثمان یفعلون ذالک - (مصنف عبدالرازاق، باب زیارت القبور، جلد ۲، ص ۵۷۳، نمبر ۶۷۱۶)

ترجمہ۔ محمد بن ابراهیم تھی فرماتے ہیں کہ حضور مسیح سال کے شروع میں شہداء کی قبر پر آیا کرتے تھے اس حدیث میں ہے کہ سال کے شروع میں حضور شہداء احادیث کی قبروں پر جایا کرتے تھے، فيقول السلام عليکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار ، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمانؓ بھی ایسا کرتے تھے۔

اس حدیث میں ہے کہ حضور ہر سال کے شروع میں شہداء احادیث کے پاس تشریف لایا کرتے تھے اس سے بعض حضرات نے استدلال کیا ہے کہ ہر سال میں ایک مرتبہ عرس کرنا جائز ہے

لیکن اس میں یہ 4 خامیاں ہیں  
 [۱] پہلی بات یہ ہے کہ حضور مسیح کسی اعلان کے جایا کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ کسی کو خبر ہوئی کسی کو خبر نہیں ہوئی، یہی وجہ ہے کہ یہ حدیث کہ، ہر سال کے شروع میں جایا کرتے تھے، صحاح ستہ کی کسی کتاب میں نہیں ہے، اور اس کے اساتذہ کی بھی کسی کتاب میں نہیں ہے، صرف مصنف عبدالرازاق والے نے

اس کا ذکر کیا ہے۔

اس حدیث کے مطابق اگر کوئی آدمی کبھی بھار قبر وستان چلا جائے اور صرف، السلام علیکم بما صبر تم فنعم عقبی الدار ، پڑھ کرو اپس چلا آئے تو کسی کواشاکال نہیں ہے، لیکن یہاں ہو یہ رہا ہے کہ تاریخ متعین کی جاتی ہے، عرس کے نام پر لاکھوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، مہینوں سے اس کا اعلان ہوتا ہے، بے پناہ لوگوں کو بلا یا جاتا ہے اور وہ دھماں ہوتا ہے کہ ہندوؤں کا میلہ شرماجائے، اس کی گنجائش کیسے دی جاسکتی ہے

[۲] دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث میں تابعی نے حضورؐ کا عمل نقل کیا ہے، اور نیچ میں صحابی کا نام چھوڑ دیا ہے [کیونکہ محمد بن ابراہیم ایکمی، تابعی ہیں]، اس لئے یہ حدیث مرفوع نہیں ہے حدیث مرسل ہے، اس لئے اس کی حیثیت کم ہے

[۳] عرس میں عید کا سما ہوتا ہے، اور بھی اوپر گزر اکہ قبرستان پر عید کا سما کرنے سے حضورؐ نے منع فرمایا ہے تو عرس کی اجازت کیسے دی جاسکتی ہے

[۴] کبھی بھی کسی صحابی یا تابعی نے عرس نہیں کیا ہے تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے، بلکہ اوپر کی احادیث کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کی باتوں سے حضورؐ نے منع فرمایا ہے، تاکہ رفتہ رفتہ لوگ شرک میں بمتلاعنة ہو جائے۔

[۵] اصل بات یہ ہے کہ ذہین لوگوں کے کھانے پینے کا اور سال بھر کے خرچ جمع کرنے کا ایک دھندا ہے۔ آپ خود بھی اس پر غور کر لیں

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضورؐ کبھی بھی شہداء کی قبر پر آیا کرتے تھے، اس میں تاریخ متعین نہیں تھی

3- سمعت طلحہ بن عبید اللہ یحدث ... قال خرجنا مع رسول اللہ ﷺ نرید قبور الشہداء حتی ادا اشرفنا علی حرۃ واقم فلما تدلینا منها فاذا قبور بمحنیہ قال قلنا يا رسول اللہ ! قبور اخواننا هذه ؟ قال قبور اصحابنا فلما جئنا قبور الشہداء قال هذه قبور اخواننا - (ابوداؤد شریف، کتاب المنسک، باب زیارت القبور ص ۲۹۶، نمبر ۲۰۳۳)

ترجمہ۔ فرمایا کہ ہم حضور ﷺ کے ساتھ نکلے، شہداء کی قبر پر جانے کا ارادہ تھا، ہم جب حرا واقم [مقام آئے، ہم جب آگے بڑھے تو محنیہ میں قبر تھی، تو ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ ہمارے بھائیوں کی قبریں، تو حضور ﷺ نے فرمایا یہ ہمارے ساتھیوں کی قبریں ہیں، پھر جب ہم شہداء احمد کی قبر کے پاس آئے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہمارے بھائیوں کی قبریں ہیں

اس حدیث سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ کبھی کبھار شہداء احمد کی قبروں پر جایا کرتے تھے

کچھ حضرات نے 1100 اگیارہ سو سال بعد والے بزرگوں کے اقوال اور انکے اعمال سے عرس، چہلم  
وغیرہ کے جواز کا ثبوت پیش کرتے ہیں

[۱] لیکن یہ اس لئے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ بہت بعد کے بزرگوں کے عمل سے اعتقادی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، اس کے ثابت کرنے کے لئے صریح آیت، یا کمی حدیث چاہئے

[۲] اس کے خلاف کئی حدیثیں پیش کی جا چکی ہیں

[۳] اب یہ چیزیں آخرت کی یاد، اور دنیا کی بے رقبتی کی چیزیں نہیں رہیں، بلکہ صرف تفریح، کھلیل، اور مذہب کے نام پر لوٹ کھسوٹ کا ذریعہ بنالیا ہے

## گانا اور ڈھولک، طبلہ بجانا حرام ہے

تحوڑا بہت نظم، یا نعت پڑھ لینا جائز ہے، اس میں شرط یہ ہے کہ ڈھول، طبلہ، ہار موئیم، اور بجانے سے سازنے ہوں، اگر بجانے کے ساز ہوں تو کوئی بھی گیت جائز نہیں ہے  
اس کے لئے آیتیں یہ ہیں

۱- وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُو الْحَدِيثُشْ لِيُضَلِّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَخَذَهَا هُرُواً أُولُئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِمِّنٌ۔ (آیت ۶۔ سورۃ المنان ۳۱)

ترجمہ۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی باتوں کے خریدار بنتے ہیں، تاکہ ان کے ذریعہ لوگوں کو بے سمجھے بوجھے اللہ کے راستے سے بھٹکائیں اور اس کا مذاق اڑا کیں، ان لوگوں کو وہ عذاب ہو گا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا

اس آیت میں غافل کرنے والی باتوں سے نفرت کا اظہار کیا گیا ہے۔

۲- وَ مَا كَانَ صَلُوتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءٌ وَ تَصْدِيَةٌ فَذُو قُوَّا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُّرُونَ۔ (آیت ۳۵، سورۃ الانفال ۸)

ترجمہ۔ اور بیت کے پاس ان کی نماز سیٹیاں بجانے اور تالیاں پینٹنے کے سوا کچھ بھی نہیں اس لئے جو کافرانہ باتیں تم کرتے رہے ہو ان کی وجہ سے اب عذاب کامرا چکھو کافر لوگ بیت اللہ کے پاس تالیاں اور سیٹی بجا کرتے تھے، اللہ نے اس سے نفرت کا اظہار کیا، اور قوالی میں یہی کچھ ہوتا ہے، اس لئے اس سے بھی رکنا چاہئے۔

اس کے لئے احادیث یہ ہیں

4- حدثني أبو عامر ... و الله ما كذبني : سمع النبي ﷺ يقول ليكونن من امتى يستحلون الحر ، والحرير ، والخمر ، والمعازف - (بخاري شریف، کتاب الاشربة، باب ماجاءني من تحل الحمر و يسميه بغراسمه، ص ۹۹۲، نمبر ۵۵۹۰)

ترجمہ۔ خدا کی فتنم مجھ سے جھوٹ نہیں بولا، میں نے حضور ﷺ سے سنا ہے کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو زنا کو، رشیم کو، شراب کو اور بجانے کی چیز کو حلال کر لیں گے

5- عن أبي إمامية عن النبي ﷺ قال إن الله بعثني رحمة للعالمين و أمرني أن أمحق المزامير والكتارات ، يعني برابط و المعازف والآواثان التي كانت تعبد في الجاهلية۔ (مندرجات، حدیث ابی امامۃ بالحلی الصدی، جلد ۳۶، ص ۵۱، نمبر ۲۲۲۱۸، نمبر ۲۲۳۰۷)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ مجھ کو اللہ نے دنیا کے لئے رحمت بنا کر بھیجا، اور اس بات کا حکم دیا کہ، بانسی ڈھول، باجہ، بجانے کی چیز، اور بتول کو مٹا دوں، زمانہ جاہلیت میں جس کی عبادت کی جاتی تھی

ان احادیث میں ہے کہ مزامیر اور ڈھولک حرام ہیں تو پھر عرس میں یہ گانے اور قولیاں، اور یہ دھماں کیسے جائز ہوں گے

## گنگنا کر گیت گانا بھی مکروہ ہے

کھلیل کوڈ اور لہب ولعب کے وقت جو گنگنا کر گیت گاتے ہیں، حدیث میں اس کو بھی منع کیا ہے  
اس کے لئے حدیث یہ ہے

6۔ عن عبد الرحمن بن عوف ... و لكنى نهيت عن صوتين احمدقين فاجرين ،صوت  
عند نغمة لهو و لعب و مزامير الشيطان - (متدرک للحاکم،کتاب معرفة الصحابة،باب ذكر  
سراری رسول اللہ ﷺ فاولھن ماریۃ القبطیۃ ابراہیم،جلد ۲،ص ۲۳،نمبر ۲۸۲۵)

ترجمہ۔ مجھ کو دو حق آواز جو فاجر ہیں ان سے منع کیا گیا ہے لہو و لعب کے وقت میں گنگنا نے کی آواز، اور  
شیطان کی بانسری کی آواز۔

اس حدیث میں ہے کہ لہو لعب کے وقت گنگنا کر گانا بھی ٹھیک نہیں ہے

7- عن جابر بن عبد الله ... قال : لا ، و لكن نهيت عن صوتين احمدقين فاجرين  
صوت عند مصيبة خمس و جوه وشق جيوب و رنة شيطان - (ترمذی شریف،کتاب  
الجنازہ،باب ماجاء فی الرخصة فی البکاء علی المیت،ص ۲۲۳،نمبر ۱۰۰۵)

ترجمہ۔ ہم کو دو حق فاجر آواز سے روکا گیا ہے، ایک ایسی عورت جس نے مصیبت کے وقت چہرہ زخمی کر  
لیا ہو، کپڑے پھاڑ لیا ہو اس عورت کی آواز، اور دوسرا شیطان کا گنگنا۔

ان دونوں حدیثوں میں ہے کہ گانے کے طور پر گانا حدیث میں ممنوع ہے  
اس لئے مزاروں پر ڈھول اور طبلے کے ساتھ جو گاتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے  
اب تو عرس میں اڑکیاں بھی قوالی گانے کے لئے آنے لگی ہیں

## ان احادیث سے کچھ حضرات قوالي کے جواز پر استدلال کرتے ہیں

کچھ حضرات نیچے والی حدیث کی وجہ سے قوالي کے جواز پر استدلال کرتے ہیں  
 یہ استدلال اس لئے ٹھیک نہیں ہے کہ اس میں صرف نظم اور نعت کی شکل ہے، اور اس میں ڈھول، طبلہ، سارنگی بالکل نہیں تھے، اور قوالي میں یہ سارے دھماں ہوتے ہیں تو وہ کیسے جائز ہو جائے گی  
 حدیث یہ ہے

8- عن سعید بن المسمیب قال: مر عمر فی المسجد و حسان ینشد فقال كنت  
 انشد فیه و فیه من هو خیر منك ثم التفت الی ابی هریرة فقال انشدك بالله  
 أسمعت رسول الله ﷺ يقول ، اجب عنی اللهم ایدہ بروح القدس؟ قال نعم . ( )  
 بخاری شریف، کتاب بداء اخلاق، باب ذکر الملائكة صلوات اللہ علیہم - ص ۵۳۷، نمبر ۳۲۱۲ مسلم شریف  
 ، کتاب فضائل صحابة، باب فضائل حسان بن ثابت، ص ۱۰۹۲، نمبر ۲۲۸۵ ( )  
 ترجمہ - حضرت عمرؓ مسجد سے گزرے، اور حضرت حسان بن ثابتؓ شعر کہہ رہے تھے [شايد حضرت  
 عمر کو یہ ناگوار گزرا] تو حضرت حسان نے فرمایا کہ، تم سے جو بہتر تھے یعنی حضورؐ ان کے سامنے میں شعر  
 پڑھتا رہوں، پھر حضرت ابو ہریرہؓ کی طرف متوجہ ہوئے، اور کہا کہ میں تم کو اللہ کی قدم دیکر کہتا ہوں کہ  
 کیا تم نے حضورؐ سے یہ فرماتے سن تھا کہ، میری جانب سے قریش کو جواب دو، آے اللہ حضرت جریلؓ  
 کے ذریعہ سے ان کی [یعنی حسان] کی مدد کر، تو حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ، ہاں میں نے حضورؐ سے  
 سن تھا۔

اس حدیث میں نظم پڑھنے کا ذکر تو ہے، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمرؓ نے اس کو ناپسند فرمایا، اسی  
 وجہ سے حضرت حسانؓ کو حضرت ابو ہریرہؓ کی گواہی لئی پڑی، اس لئے نظم پڑھنا اتنا چھانبھیں ہے

9- عن عائشة قالت : قال حسان يا رسول الله ﷺ ائذن لى فى ابى سفيان ، قال  
كيف بقرباتى منه ؟ قال و الذى اكرمك لاسلنك منهم كما تسل الشعراة من  
الخمير فقال حسان

ع و ان سلام المجد من آل هاشم - اخ

(مسلم شریف، کتاب فضائل صحابۃ، باب فضائل حسان بن ثابت، ص ۱۰۹۵، نمبر ۲۸۹، نمبر ۲۳۹۳) ترجمہ۔ حضرت حسانؓ نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ ابوسفیانؓ کی ہجوکرنے کی مجھے اجازت دیجئے؟ تو حضورؐ نے فرمایا کہ وہ تو میرے رشتہ دار ہیں تو اس کی ہجو کیسے کریں گے، تو حضرت حسانؓ نے فرمایا کہ، جس خدا نے آپؐ کو عزت دی ہے، جس طرح آئے سے بال کو نکالتے ہیں اس طرح میں آپؐ کو ان کی ہجو سے نکال دوں گا، پھر آگے لمبا قصیدہ پڑھا جس کا ایک مصر یہ ہے

ع و ان سلام المجد من آل هاشم - اخ

اس حدیث میں حضرت حسانؓ و حضورؐ نے نظم پڑھنے کی اجازت دی ہے

10- عن عائشة ان ابا ابو بکر دخل عليها و عندها جاريتان في ايام مني تدفقان و تضربان ، و النبى ﷺ متغش بشوبه فانتهرهما ابو بکر فكشف النبى ﷺ عن وجهه و قال دعهما يا ابا بکر فانها ايام عيد ، و تلك الايام ايام مني - (بخاری شریف، کتاب العیدین، باب اذا فات العيد يصلی رکعتین، ص ۱۵۹، نمبر ۹۸۷ مسلم شریف، کتاب صلاة العيد، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في ايام العيد، ص ۳۵۶، نمبر ۸۹۲، نمبر ۲۰۶۱)

ترجمہ۔ حضرت ابو بکرؓ داخل ہوئے، یمنی کا زمانہ تھا، اس وقت دلوڑ کیاں دف بجارتی تھیں، اور حضورؐ پر کپڑا ڈھکا ہوا تھا، تو حضرت ابو بکرؓ نے ان دونوں لڑکیوں کو ڈالنا، تو حضورؐ نے چہرے سے کپڑا اہٹایا اور

فرمایا: ابو بکر انکو چھوڑ دو، یہ عید کا دن ہے، اور یہ زمانہ منی کا زمانہ تھا ان احادیث میں ہے کہ کچھ اشعار بھی پڑھ سکتے ہیں اور بغیر جلا جل کے دف بھی بجا سکتے ہیں لیکن حدیث میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کو اتنا بھی پسند نہیں تھا، اسی لئے حضرت ابو بکرؓ نے روکا، لیکن چونکہ عید کا دن تھا، اور چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں تو حضورؐ نے تھوڑی سی گنجائش دے دی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علماء کے جلوسوں میں طلبہ نظم پڑھتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، اور اس میں کوئی دف وغیرہ نہیں ہوتا نہ تالی بجائی جاتی ہے، نہ جھومنا ہوتا ہے، تو اتنا سادھیت سے جائز ہے بزرگان دین اور مشائخ بھی ذکروا ذکار کر کے تھک جاتے تھے تو تفریح کے لئے کبھی کبھار نظم سن لیتے تھے جو حدیث کے مطابق جائز ہے بعد کے لوگوں نے اپنی روزی کمانے کے لئے اسی کو سماع بنایا، اسی کو قولی بنائی، اور پھر اس میں سارنگی ڈھول، طبلہ سب کچھ ورنے لگا جکو حدیث اور آیت میں سختی سے منع کیا تھا پھر وہ سارے دھماں کئے جس سے ہندوؤں کے میلے شرماگئے، فیا للاسف۔

ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ حدیث میں جو تھوڑی بہت گیت تھی وہ خوشی کے موقع پر گائی گئی تھی، یا بزرگوں نے جو سماع کیا تھا وہ اپنی خانقاہوں میں کی تھی، اور قولی تو ڈھول اور طبلہ پر گائی جاتی ہے، حالانکہ یہ جگہ غم کرنے کی ہے، اور آخرت کو یاد کرنے کی جگہ ہے، یہاں گیت اور قولی کو گانے کا جوڑ بالکل سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو من دروں میں مرتبیوں کے سامنے بھجن گانے جیسا ہو گیا۔

آپ اس نکتہ پر غور کر کر یہ

اس عقیدے کے بارے میں 2 آیتیں اور 10 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں۔

**ہندو اپنے بزرگوں کی مندروں کے پاس میلہ لگاتے ہیں**

ہندو لوگ ہر سال اپنے بزرگوں کی مندروں کے پاس میلہ لگاتے ہیں، اس پر گاتے اور بجاتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، ان کے سامنے ماتھا ٹکتے ہیں، اور سجدہ کرتے ہیں، جو شرک ہے

قبر پر عرس اسی کی مشابہ ہے، اس لئے اس کو نہیں کرنا چاہئے۔

اس نکتہ پر غور کریں

## ۳۹۔ فیض حاصل کرنا

التساب فیض، یعنی کسی سے فیض حاصل کرنا، اس دور میں ایک الجھا ہوا مسئلہ بن گیا ہے

اس عقیدے کے بارے میں 3 آیتیں اور 4 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں۔

### فیض حاصل کرنے کی دو صورتیں

[۱] زندوں سے فیض حاصل کرنا

[۲] مردوں سے فیض حاصل کرنا

## زندوں سے کون سا فیض حاصل ہوتا ہے

استاذ، یا پیر میں یہ 3 صفات ہوں تو اس سے فیض حاصل ہوتا ہے

[۱] پہلی صفت یہ ہے کہ۔ استاذ یا پیر غلص ہوں ان کا ایک ہی مقصد ہو کہ لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، اور ان کو دین پر لانا ہے اور اس معاملے میں لگن کے ساتھ کام کرے، پسیہ کمانے کے لئے پیری مریدی نہ کرتا ہو، ان کا مقصد یہ نہ ہو کہ اکتساب فیض کے نام پر پورے سال کا خرچ جمع کر لیا جائے، اور ساری فیملی کا خرچ حاصل کر لیا جائے، یا خانقاہ کے نام پر اپنا گھر بنالیا جائے اگر اس مقصد سے پیری مریدی کرتا ہے تو ان سے کوئی اکتساب فیض نہیں ہوگا

[۲] استاذ یا پیر، خود بھی شریعت کا پابند ہوں، اگر وہ خود ہی فرض نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے تو آپ کو وہ کیا فیض دے گا، اسکے پاس تو خود بھی کچھ نہیں ہے

[۳] ان میں ریا اور نمودنہ ہو، وہ یہ کام شہرت اور دکھلوادے کے لئے نہ کرتا ہو۔ کیونکہ اگر وہ ٹیلی ویز ن پر، اور یو ٹیوب - you tube پر آنے کے لئے یہ کر رہا ہے تو یہ شہرت کے لئے ہے، اس میں کیا فیض حاصل ہوگا

یا ان کا مقصد اپنی فیملی کے لئے خرچ جمع کرنا ہو تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا

اس لئے پیر کا انتخاب سوچ سمجھ کر اور دیکھ بھال کر کیا کریں، میرا یہ مختصانہ مشورہ ہے

## قرآن پاک میں چار قسم کے فیض کا ذکر ہے

- [۱] پیر صاحب مریدوں کے سامنے قرآن پڑھتے ہیں اور ان کا قرآن درست کرواتے ہیں ،
- [۲] انکو قرآن کا معنی سکھلاتے ہیں ،
- [۳] قرآن میں جو حکمت ہے، لعن حلال و حرام کے جواہکامات ہیں ان کو سکھاتے ہیں
- [۴] اور دل کا تزکیہ کرتے ہیں یعنی شرک وغیرہ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔

اس کے لئے یہ آئیں ہیں

۱- رَبَّنَا وَ ابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيْهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ (آیت ۱۲۹، سورت البرقة)

ترجمہ۔ آئے ہمارے رب ان میں ایک ایسا رسول بھیج جو انہیں میں سے ہو، جو ان کے سامنے تیری آئیوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب کی تعلیم دے، اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان کو پاکیزہ بنائے، صرف تیری ہی ذات ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے

اس آیت میں ہے کہ حضور چار کام کے لئے مبعوث ہوئے

۲- لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفْتِ ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ (آیت ۱۲۳، سورت آل عمران)

ترجمہ۔ یقیناً اللہ نے مومنو پر بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہیں میں سے ایک رسول بھیجا، جوان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں پاک صاف بنائے، اور انہیں کتاب کی تعلیم دے، اور حکمت کی تعلیم دے، جب کہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں بٹلاتھے۔

3۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتَلَوَّ عَلَيْكُمْ أَيَّاتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُوْنَ۔ (آیت ۱۵، سورہ البقرۃ ۲)

ترجمہ۔ جیسے ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا تھا جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے، اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باقیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے ہو۔

آن آیتوں سے پتہ چلا کہ استاذ یا پیر مخلص ہوں تو ان سے یہ چار قسم کے فیض حاصل ہوتے ہیں  
 [۱] پیر صاحب مریدوں کے سامنے قرآن پڑھتے ہیں اور ان کا قرآن درست کرواتے ہیں ،  
 [۲] انکو قرآن کا معنی سکھلاتے ہیں ،

[۳] قرآن میں جو حکمت ہے، یعنی حلال و حرام کے جواہکامات ہیں ان کو سکھاتے ہیں  
 [۴] اور دل کا ترزیکیہ کرتے ہیں یعنی شرک و غیرہ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔

پیر اچھا ہو اور مرید بھی لگن سے فیض حاصل کرے تو مریدوں کو یہ چار قسم کے فیض حاصل ہوتے ہیں،  
 قرآن میں انہیں کا تذکرہ ہے

کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پیر صاحب کوئی خاص معنوی چیز مرید کو دے دیتے ہیں، اور مرید اس کے حاصل کرنے کے لئے برسوں پیر کی خدمت کرتا رہتا ہے، لیکن حدیث اور آیت سے ایسا معلوم نہیں ہوتا، بلکہ وہی چار باتیں جو اور پر ذکر کی وہی حاصل ہوتی ہیں

## بیز کیکم کی تفسیر

بعض لوگ یہ بحثتے ہیں کہ پیر صاحب اپنے مرید کو کوئی معنوی چیز دے دیتے ہیں، اور وہ حضرات اس آیت سے استدلال کرتے ہیں

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتَلَوَّ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُوْنَ۔ (آیت ۱۵، سورہ البقرۃ ۲)

اس آیت میں، ویز کیکم، رسول تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، سے استدلال کرتے ہیں لیکن تفسیر ابن عباس سے پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں کوئی معنوی معنی دینا نہیں ہے بلکہ یز کیکم کا معنی یہ ہے کہ توحد سکھلا کر، زکوٰۃ دلوا کر اور صدقہ دلوا کر تم کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں تفسیر ابن عباس میں، بیز کیکم، کا ترجمہ کیا ہے [یطہر کم بالتوحید، والذکاة، والصدقة]

من الذنوب ]

ترجمہ: تم کو تو حید سکھلا کر، زکوٰۃ دلوا کر، اور صدقہ دلوا کر پاک کرتے ہیں اس لئے کچھ لوگ جو، بیز کیکم، کا معنی بتاتے ہیں کہ پیر صاحب دل کا ترکیہ کر دیتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی ہے کہ شریعت میں جو حلال، اور حرام کے احکامات ہیں پیر صاحب وہ بتاتے ہیں، جیسے استاد بتاتے ہیں

## پیر صاحب خدا ترس ہو تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے

پیر صاحب خدا ترس ہو، اور لگن سے کام کرے، اور مرید بھی لگن سے محنت کرے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے

اس کے لئے یہ حدیث ہے

1- ان اسماء بنت یزید انها سمعت رسول اللہ ﷺ يقول : الا ینبأ کم بخیار کم ؟  
قالوا بلى یا رسول اللہ قال خیار کم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ عز و جل - (ابن ماجہ  
شریف، کتاب الزہد، باب من لا یؤبه، ص ۲۰۱، نمبر ۳۱۹)

ترجمہ۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ میں نے حضورؐ کو کہتے ہوئے سنائے، تم میں سے اچھے کون ہیں اس کی خبر دوں؟ لوگوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ! آپؐ نے فرمایا، تم میں سے اچھے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو دیکھو تو خدا یاد آجائے

اس حدیث میں ہے کہ جسے دیکھ کر خدا یاد آئے، وہ اچھے لوگ ہیں، اس لئے پیر ایسا اللہ والا ہو جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے۔

یہ چاروں فائدے اس وقت ہوں گے جب پیر صاحب زندہ ہوں، اور آپ ان سے بالمشافہ درس حاصل کریں۔ لیکن کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ یہ فیض نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ مرنے کے بعد اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، حدیث میں یہی ہے، اس لئے اب وہ یہ فیض نہیں دے سکتا۔

## قبروں اور مردوں سے کون سا فیض حاصل ہوتا ہے

بہت سے لوگ میت سے اور مزار سے بہت سے فیوض بتاتے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ

قبر پر جانے سے یہ ۳ فیض حاصل ہوتے ہیں  
[۱] آخرت یاد آنے لگے

[۲] دنیا سے دل اچاٹ ہونے لگے

[۳] موت یاد آنے لگے۔ یعنی یہ سوچنے لگے کہ جس طرح یہ بڑے لوگ دنیا سے چلے گئے، کچھ دنوں کے بعد مجھے بھی یہ سب چھوڑ کر جانا ہے، اس لئے دنیا کامال جمع کر کے کیا فائدہ ہوگا، یا اس کی شہرت حاصل کر کے کیا کروں گا

اگر قبرستان پر جانے کے بعد یہ تین باتیں پیدا ہوتی ہوں تو بہتر ہے، اور اگر قبر چمک دک والی ہے، اور اس پر دنیا کی سارے کھیل تماشے ہیں، اور آخرت کی یاد آنے کے بجائے تفریح ہوتی ہو، دنیا کی آشائش ہوتی ہو، بلکہ مزار مال بٹورنے کا ذریعہ ہو، اور کھیل تماشے کا ذریعہ ہو تو یہ قبر کا فیض نہیں ہے بلکہ الٹا اس کا نقصان ہے

ان احادیث میں قبر کی زیارت کے فوائد بتائے گئے ہیں

3۔ عن ابن مسعود ان رسول اللہ ﷺ قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة۔ (ابن ماجہ شریف، باب ماجاء في زيارة القبور، ص ۲۲۳، نمبر ۱۵۷)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو قبر کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، اب اس کی زیارت کیا کرو، اس لئے کہ اس سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، اور آخرت یاد آنے لگتی ہے

4۔ عن ابی هریرۃ قال زار النبی ﷺ قبر امہ فبکی و ابکی من حوله فقال استاذنت ربی فی ان أستغفر لها فلم يأذن لي، و استاذنت ربی ان اзор قبرها فأذن لي ، فزوروها القبور ، فانها تذكركم الموت۔ (ابن ماجہ شریف، باب ماجاء في زيارة قبور المشرکین، ص ۲۲۳، نمبر ۱۵۷)

ترجمہ۔ حضورؐ نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی، خود بھی روئے اور اپنے قریب والوں کو بھی رلائے، پھر فرمایا کہ، میں نے اپنے رب سے اپنی ماں کے استغفار کی اجازت مانگی، تو مجھے اجازت نہیں ملی، اور اپنے رب سے اس کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو مجھ کو اجازت مل گئی، اس لئے قبر کی زیارت کیا کرو، اس لئے کہ اس سے تم کو موت یاد آنے لگے گی

ان احادیث میں تین فوائد ذکر کئے گئے ہیں

[۱] دنیا میں زہد پیدا ہو جائے، یعنی قبر دیکھ کر دل دنیا سے اچھا ہونے لگے

[۲] آخرت یاد آنے لگے

[۳] قبر دیکھ کر اپنی موت یاد آنے لگے، کہ مجھے بھی اسی قبر میں آنا ہے

یہ ہیں مزار پر جانے کے فیض  
 اگر قبر پر جانے سے یہ تین فائدے حاصل ہوتے ہوں تو بہتر ہے، لیکن اگر وہاں جانے سے آپ کی  
 تفریح ہوتی ہے، دنیا میں خود جی لگتا ہے، اور آپ عیش کے لئے جاتے ہیں تو قبر کا فیض نہیں ہے، یہ اثاثا  
 اثر ہے، اس لئے قبر کی زیارت کی رخصت نہیں ہے

لیکن کیا کیا جائے کچھ لوگوں نے پیسہ بٹونے کے لئے اور اپنی شہرت کے لئے عجیب عجیب فیض کا ذکر کیا  
 ہے، کہ ولیوں سے یوں فیض ہوگا، اور یہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے

## پیر صاحب آپ کو کوئی معنوی فیض دے دیں گے ایسا نہیں

بعض پیر حضرات یہ تأثر دیتے رہتے ہیں کہ میری خدمت کرو گے تو میں تمہیں کوئی معنوی فیض دے دوں گا اور مرید اس کے حاصل کرنے کے لئے برسوں خدمت میں لگا رہتا ہے اور وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ یہ معنوی چیز دینے کا واقعہ حدیث میں صرف ایک مرتبہ ہے جو مجذہ کے طور پر تھا، اس کے بعد پھر صادر نہیں ہوا۔ حدیث یہ ہے

عن ابی هریرۃ ... و قال النبی ﷺ یوماً لَن یسْطِ احْدَنَکُمْ ثُوبَهُ حَتَّیٰ اقْضَى  
مقالاتی هذہ ثم یجمعہ الی صدرہ فینسى من مقالاتی شیئا ابدا ، فبسطت نمرة لیس  
علی ثوب غیرہا ، حتیٰ قضی النبی ﷺ مقالته ثم جمعتها الی صدری فوالذی بعشه  
بالحق ما نسيت من مقالاته تلک الی یومی هذا - (بخاری شریف، کتاب الحرش والمراء  
، باب ماجاء فی الغرس، ص ۲۷، نمبر ۲۳۵۰)

ترجمہ۔ حضور پاک ﷺ نے ایک دن فرمایا کہ، کوئی اپنا کپڑا پھیلائے تاکہ اس میں اپنی کوئی بات کہہ دوں اور اس کو اپنے سے لگائے تو کبھی وہ میری بات نہیں بھولے گا، پس میں نے اپنی ایک چادر پھیلا دی، میرے پاس اس کے علاوہ تھی بھی نہیں، حضور ﷺ نے اپنی بات اس میں کہی، پھر اس چادر کو اپنے سینے پر چکالیا، پس قسم اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث کیا، آپ کی کوئی بات ابھی تک نہیں بھولی۔

یہ حدیث مجذہ کے طور پر ہے، ہمیشہ یہ بات نہیں تھی، اسی لئے حضرت ابو ہریرہؓ کو صرف ایک مرتبہ یہ مقالہ دیا اس کے بعد کسی کو دینے کا ذکر حدیث میں نہیں ہے

## مستحب کام میں تشدید

اس دور میں یہ بھی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ایک چیز حدیث سے ثابت ہے، لیکن اس کام کو کبھی کبھار حضور نے کیا ہے، اس میں کسی کو بلا یا بھی نہیں، بلکہ جو لوگ وہاں حاضر تھے انہوں نے ہی کر لیا مثلاً: صحابہ کرام کبھی کبھار مل گئے اور اس میں اللہ کا ذکر کر لیا، تو یہ حدیث سے ثابت ہے، اور اتنا سا کر لینا جائز ہے، لیکن اب بعض جگہ دیکھا گیا ہے [الحمد لله سب جگہ یہ بات نہیں ہے] کہ ذکر کے نام پر مہینوں سے اشتہار دیا جاتا ہے، لوگوں کو بلا یا جاتا ہے، اس کے لئے خوب چندہ کیا جاتا ہے، اور بے پناہ خرچ کیا جاتا ہے، اور جھوم جھوم کر اس طرح ذکر کریا جاتا ہے، کہ جیسے وہ ناج رہے ہوں، اور یہ ناج گانے کی مغلل ہو۔ اور اس کو کچھ کہوتا وہ حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ وہ کبھی کبھار تھا، اور اپا نک تھا، اور آپ ذکر کے نام پر پورا ہنگامہ کر رہے ہیں، اور you tube یوٹیوب پر اس کی تیشیر کر رہے ہیں اور تحقیق کریں تو اندر خانے یہ محسوس ہوتا ہے کہ [وہ بولتے تو یہی ہے کہ ہم ذکر کرتے ہیں، یادِ دین کی خدمت کر رہے ہیں] لیکن اصل میں اس قسم کی حرکت کرنے والوں کو یہ تین چیزیں چاہئے

- [۱] عوام کے اندر اپنی شہرت حاصل کرنا، تاکہ زیادہ سے زیادہ عوام مجمع ہوں
- [۲] عوام کے اندر اپنار عرب بجانا
- [۳] اور اس بہانے سے اتنا روپیہ اکٹھا کر لے کہ، اس سے پورے سال کا خرچ چلے

اس لئے ایسے بہت سے مستحبات سے بچنے کی ضرورت ہے، جس میں تداعی ہو، یعنی لوگوں کو بلا بلا کر مجمع کیا ہو، کیونکہ درختار میں اکھا ہے کہ مستحب کام کے لئے تداعی، یعنی لوگوں کو بلا بلا کر مستحب کام کرنا مکروہ ہے، اور شریعت ایسی تداعی سے منع کرتی ہے، اس لئے اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے

زیارت قبور میں، موت کے موقع پر، اور شادی کے موقع پر دیکھا گیا ہے کہ بعض کام بنیادی طور پر مستحب ہوتا ہے، لیکن لوگ اس پر اتنا اشعد کرتے ہیں کہ وہ مداعی کے درجے میں آ جاتا ہے، بعض مرتبہ اس میں ریاض نمود ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ تو ایسے رواج میں اتنا خرچ کرواتے ہیں کہ آدمی تنگ آ جاتا ہے، اور بعض مرتبہ تو سودی قرض لیکر ان کا مول کو کرنا پڑتا ہے۔ اس لئے مستحب کام میں اتنا اشعد بالکل صحیح نہیں ہے

اس عقیدے کے بارے میں 3 آیتیں اور 4 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں۔

## ۳۰۔ قبر کے پاس ذبح کرنا ممنوع ہے

جانور ذبح کرنے کے مکین کو کھلانا صدقہ ہے، شریعت میں صدقہ کرنے کے اس کا ثواب میت کو پہنچانا جائز ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اللہ کے نام پر ذبح کیا ہو۔ اس میں بس اتنی سی بات ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے میت کا ثواب پہنچانا ہے، لیکن اب تو اس میں بے پناہ ریاضہ و داخل ہو گیا ہے

### ذبح کرنے کی چار صورتیں ہیں

اس کی تفصیل آگے دیکھیں

اس عقیدے کے بارے میں 4 آیتیں اور 3 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں۔

[ا] پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کے نام پر ذبح کرے

اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا، یا تو کسی کا نام لیا ہی نہیں، یا نام لیا لیکن اللہ کے علاوہ کا نام لیا تو یہ گوشت حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے  
اس کی دلیل یہ آیت ہے

۱- وَ لَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرْ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفَسقٌ۔ (آیت ۱۲۱، سورت الانعام ۶)

ترجمہ۔ اور جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اس میں سے مت کھاؤ، اور ایسا کرنا سخت گناہ ہے

۲- حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ مَا أَهَلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْحِنَّةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيْحَةُ وَ مَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَرْتُمْ وَ مَا ذُبْحَ عَلَى النَّصْبِ۔  
(آیت ۳، سورت المائدۃ ۵)

ترجمہ۔ تم پر مردار جانور، اور خون، اور سور کا گوشت، اور وہ جانور حرام کر دیا گیا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، اور وہ جو گلگھنے سے مرا ہو، اور جسے چوٹ مار کر ہلاک کیا گیا ہو، اور جو اپر سے گر کر مرا ہو، اور جسے کسی جانور نے سینگ مار کر ہلاک کیا ہو، اور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، مگر یہ کہ تم اس کے مرنسے سے پہلے اس کو ذبح کر چکے ہو، اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے بتوں کی قربانی گاہ پر ذبح کیا گیا ہو۔

ان آیتوں میں ہے کہ اللہ کا نام نہ لیا ہو تو اس کو مت کھاؤ کیونکہ وہ حلال ہی نہیں ہے

## [۲] دوسری صورت، قبر پر یا بتول پر ذنبح کرے

دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ مثلاً بات والوں کو یا قبر والوں کو خوش کرنے کے لئے بتول کے پاس یا قبر کے پاس ذنبح کرے، اس صورت میں اللہ کا نام لیکر ذنبح کیا ہوتا بھی حالانہیں ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کو خوش کرنے کے لئے ذنبح کیا ہے

اس کے لئے یہ آیت ہے

۳- حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ مَا أَهَلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْحِنَقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيْحَةُ وَ مَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَرْتُمْ وَ مَا ذُبِحَ عَلَى النَّصْبِ  
۔ (آیت ۳، سورت المائدۃ ۵)

ترجمہ۔ تم پر مردار جانور، اور خون، اور سور کا گوشت، اور وہ جانور حرام کر دیا گیا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، اور وہ جو گلگھنے سے مرا ہو، اور جسے چوٹ مار کر ہلاک کیا گیا ہو، اور جو اور پر سے گر کر مرا ہو، اور جسے کسی جانور نے سینگ مار کر ہلاک کیا ہو، اور جسے کسی درندے نے کھالیا ہو، مگر یہ کہ تم اس کے مرنسے سے پہلے اس کو ذنبح کر چکے ہو، اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے بتول کی قربانی گاہ پر ذنبح کیا گیا ہو۔

۴- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ . فَاجْتَبِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آیت ۹۰، سورت المائدۃ ۵)

ترجمہ۔ ائے ایمان والو! شراب، جوا، بتول کے تھان، اور جوئے کے تیریہ سب ناپاک شیطانی کام

ہیں لہذا ان سے بچوں کم کامیاب ہو جاؤ  
ان آئیوں میں ہے کہ بتوں پر ذبح کیا گیا ہو تو وہ گوشت حرام ہے

اس حدیث میں مجھی ہے کہ اللہ کے علاوہ کے لئے ذبح کیا گیا ہو تو وہ جائز نہیں ہے اس پر لعنت ہے  
۱- عن عامر بن واشلہ قال سأَلَ رجُلٌ عَلِيًّا هُلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَسِيرُ إِلَيْكُ

بشيء دون الناس فغضب على حتى احمر وجهه وقال ما كان يسر الى شيئا دون  
الناس غير انه حدثني باربع كلمات وانا و هو في البيت فقال لعن الله من لعن والده  
ولعن الله من ذبح لغير الله و لعن الله من اوى محدثا و لعن الله من غير منار

الارض - (نسائی شریف، کتاب الصحاۃ، باب من ذبح لغير الله عزوجل، ص ۲۱۲، نمبر ۸۳۲۷) ترجمہ۔ کسی آدمی نے حضرت علیؓ سے پوچھا کہ حضورؐ نے لوگوں کو چھوڑ کر آپ کو کوئی راز کی بات بتائی تھی، تو حضرت علیؓ کا چھرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور کہا کہ لوگوں کو چھوڑ کر مجھ سے کوئی راز کی بات نہیں کہی ہے، ہاں چار باتیں مجھے گھر میں کہی ہیں، جس نے والدین کو لعنت کی اللہ اس پر لعنت کرے، جس نے اللہ کے علاوہ کے لئے ذبح کیا اللہ اس پر لعنت کرے، جوئی چیز پیدا کرنے والا ہے اس کو جو پناہ دے اس پر اللہ لعنت کرے، جو زمین کی نشان کو بدل دے اللہ اس پر لعنت کرے [مجھے یہ چار باتیں خاص طور پر حضورؐ نے بتائی ہیں]

اس حدیث میں ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کے لئے ذبح کرے اس پر لعنت ہو۔

### [۳] تیسری صورت یہ ہے کہ قبر کے پاس ذبح کرے

[۳] تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ کے نام پر ذبح کرے لیکن قبر کے پاس کرے تو یہ بھی مکروہ ہے  
اس حدیث میں اس کا ذکر ہے

2- عن انس قال قال رسول الله ﷺ لا عقر فی الاسلام

قال عبد الرزاق : كانوا يعقرون عند القبر يعني ببقرة او بشيء۔ (ابوداود شریف، کتاب الجائز، باب کراہیۃ الذبح عند القبر، ص ۲۷۰، نمبر ۳۲۲۲، رمسنداحمد، مسنداً انس بن مالک، ج ۲، ص ۵۱، نمبر ۱۲۶۰)

ترجمہ۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام میں عقربنیں ہے  
عبد الرزاق نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ قبر کے پاس گائے وغیرہ ذبح کیا کرتے تھے  
اس حدیث میں ہے کہ اسلام میں عقربنیں ہے، یعنی قبر کے پاس ذبح کرنا جائز نہیں ہے

## قبر پر ذبح کرنے کا شائیبہ بھی ہوتا وہ بھی منع ہے

قبر کے پاس ذبح کر کے لوگ شرک میں مبتلا عنہ ہو جائیں، اس لئے اتنا منع کیا ہے کہ قبر پر ذبح کرنے کا شائیبہ بھی ہوتا وہ کو منع کرتے ہیں  
اس کے لئے حدیث یہ ہے

3۔ حدثی ثابت بن الصحاک قال نذر رجل علی عهد النبی و ان ينحر اbla بیوانة ،  
فقال النبي ﷺ هل کان فیها وثن من اوثان الجahلیة یعبد ؟ قالوا لا : قال هل کان فیها عید من اعیادهم ؟ قالوا لا : قال النبي ﷺ اوف بنذرک فانه لا وفاء لنذر فی معصیة الله ولا فیما لا یملک ابن آدم۔ (ابوداؤد شریف، کتاب الایمان والنذور، باب ما یومر بمن وفاء النذر، ص ۳۸۰، نمبر ۳۳۱۳)

ترجمہ۔ ایک آدمی نے حضور ﷺ کے زمانے میں بوانہ میں اونٹ ذبح کرنے کی نذر مانی، حضور ﷺ نے پوچھا زمانہ جاہلیت میں وہاں کوئی بت تو نہیں تھا جس کو لوگ پوچھتے ہوں؟ لوگوں نے کہا نہیں تھا، پھر حضور ﷺ نے پوچھا وہاں کوئی عید تو نہیں مانا جاتی تھی؟ لوگوں نے کہا نہیں مانا جاتی تھی، اس کے بعد نے فرمایا کہ اپنی نذر پوری کرو، کیونکہ اللہ کے گناہ میں نذر کو پوری کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور آدمی جس چیز کا مالک نہ ہوا س میں نذر پوری کرنا صحیح نہیں ہے

اس حدیث میں ہے کہ اگر وہاں جاہلیت میں عید بھی ہوتی تھی تب بھی وہاں جانور ذبح نہ کرو، کیونکہ اس طرح پھر بتوں کو پوچھے گا، قبروں کو پوچھے گا اور آہستہ آہستہ شرک میں مبتلا ہو جائے گا

اس وقت صورت حال یہ ہے کہ مجاور گوشت لینے کے لئے اور اس کے ساتھ روپیہ اور ہدیہ ہدا یا لینے کے

لئے اس کی پوری ترغیب دیتے ہیں کہ با واصاحب آپ کی مراد پوری کر دیں گے اس لئے وہ قبر کے پاس ہی جانور ذبح کرواتے ہیں اور ایک ناجائز کام میں لوگوں کو بنتائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عوام کو اس سے بچنا چاہئے

### [۳] چوتھی صورت، اللہ کے نام پر کرے اور قبر سے دور کرے

[۳] چوتھی صورت یہ ہے کہ اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے اور قبر سے دور کرے، اس میں قبر والے کو خوش کرنے کی بھی نیت نہ ہو، صرف یہ نیت ہو کہ یہ گوشت غریبوں کو کھلاؤں گا، تو چونکہ اس نے قبر کے پاس بھی ذبح نہیں کیا، اور ذبح کرتے وقت صرف اللہ کا نام بھی لیا ہے، اس لئے یہ گوشت حلال ہے، لیکن میت کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا گوشت غریب مسکین کو کھلانے گا

اس کا اصل طریقہ یہ ہے کہ قبر سے کافی دور جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت غریب اور مسکین میں تقسیم کرے، یا اس کو پکا کہ غریب اور مسکین کو کھلانے تو اس کھلانے کا ثواب میت کو پہنچے گا، یہی ایک صورت جائز ہے۔ اس میں ریاء نہود اور دکھاوا جتنا کم ہوگا اتنا زیادہ ثواب ملے گا، اور ریاء نہود جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی ثواب کم ملے گا، اور اگر صرف ریاء نہود ہو اور شہرت ہو تو کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا

لیکن آج کل یہ ہو رہا ہے کہ غریب کے بجائے مالدار اور رشتہ دار لوگ اس کو زیادہ کھاتے ہیں، یا مجاہد قوم کے لوگ لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، غریب کو تو بہت کم ملتا ہے۔ عوام کو اس سے پر ہیز کرنا چاہئے۔

اس حدیث میں ہے کہ خیرات کرنے کا ثواب میت کو ملتا ہے

4۔ اَنْبَانَا ابْنُ عَبَّاسٍ اَنَّ سَعْدَ بْنَ عَبَادَةً تَوْفِيتَ اَمَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

ان امی توفیت و انا غائب عنہا أینفعها شیء ان تصدقت به عنہا؟ قال نعم قال فانی أشهد ک ان حائطی المخraf صدقۃ علیہا۔ (بخاری شریف، باب اذا قال أرضی او بستانی صدقۃ اللذعن امی، ص ۲۵۶ مسلم شریف، باب وصول ثواب الصدقات الی الجیت، ص ۱۶۷، نمبر ۱۶۳۰ ) ( ۲۲۱۹ )

ترجمہ۔ حضرت سعد بن عبادہؓ نے فرمایا، کہ میں غائب تھا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، پھر پوچھا یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، اور میں غائب تھا، کیا ان کی جانب سے صدقہ کروں تو اس کو نفع ہو گا؟، آپؐ نے فرمایا کہ ہاں! سعدؓ نے فرمایا کہ میں آپؐ کو گواہ بناتا ہوں کہ محراف کا میر ابا غ میری ماں کے لئے صدقہ ہے

اس حدیث میں ہے کہ دوسرے کا صدقہ کیا ہوا میت کو ثواب ملتا ہے۔  
پوری تفصیل ایصال ثواب میں دیکھیں

اس عقیدے کے بارے میں 4 آیتیں اور 4 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں۔

## ۲۱۔ ماتم کرنا حرام ہے

اس عقیدے کے بارے میں 3 آیتیں اور 5 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں۔

اچانک غم آجائے اور آنسو نکل جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ایسے موقع پر زبان سے کوئی بات نہ لٹکے جو بے صبری ظاہر کرتی ہو، یا اللہ کو کوسنا ہو

اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں شور مچانا نہ ہو، کپڑا پھاڑانا نہ ہو، اس کو واپس لے کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے اور زمانہ دراز کے بعد بھی غم کو بار بار یاد کرنا، اور لوگوں کو بتانا کہ مجھے بہت غم ہے، اور پھر سینہ پیٹنا، اور شور مچانا یہ بھی جائز نہیں ہے

## مصیبت کے وقت قرآن نے صبر کرنے کو کہا ہے

اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ مصیبت پر شور مچائے اور واپس کرے، بلکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر مصیبت آجائے تو اس پر صبر کرے اور اللہ سے عافیت مانگ۔

اس کے لئے یہ آیتیں ہیں

۱- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلَواتِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ، وَ لَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْياءٌ وَ لَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَ لَنَبُونُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الشَّمْرَاتِ وَ بَشَرِ الصَّابِرِينَ ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ - (آیت ۱۵۳۔ ۷۷، سورت البقرۃ ۲)

ترجمہ۔ اے ایمان والو! صبراً نماز سے مدد حاصل کرو، بیشک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے ان کو مردہ نہ کہو، دراصل وہ زندہ ہیں مگر تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں ہوتا، اور دیکھو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی بھوک سے، اور کبھی ماں و جان اور پھلوں کی کمی کر کے، اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لیں ان کو خوشخبری سناؤ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ، ہم سب اللہ ہی کے ہیں، اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ائمہ رب کی طرف سے خصوصی عنایتیں ہیں اور رحمت ہے اور یہی لوگ ہیں جو حدایت پر ہیں۔

اس آیت میں تین مرتبہ صبر کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ جو صبر کرتے ہیں ان پر صلوٰات اور حمتیں نازل کی جاتی ہیں اور وہی اصل میں ہدایت پر ہیں۔

2- وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلَاةِ وَ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاصِّيْعِيْنَ - (آیت ۲۵، سورت البقرۃ ۲)

ترجمہ۔ اور صبراً و نماز سے مدد حاصل کرو، نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع، یعنی دھیان اور عاجزی سے پڑھتے ہیں

3- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صَابِرُوا وَ رَابِطُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - (آیت ۲۰۰، سورت آل عمران ۳)

ترجمہ۔ اے ایمان والو! صبراً اختیار کرو، اور مقابلے کے وقت ثابت قدمی دکھاؤ، اور سرحدوں کی حفاظت کے لئے جمہر ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو

ان تینوں آیتوں میں صبر کرنے کی بار بار تلقین کی ہے، اسلئے واپس آ کرنا، اور شور مچانا بالکل ٹھیک نہیں ہے

## رشته دار کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے

اس حدیث میں ہے کہ رشته دار کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے، اس لئے بلا وجہ شور نہیں مچانا چاہئے اس کے لئے حدیث یہ ہے

1- فقال عبد الله بن عمر بن عثمان الا تنهى عن البكاء فان رسول الله ﷺ  
قال ان الميت ليذب بيكم اهلهـ (بخاري شریف، باب قول النبي ﷺ يذب بليت  
بعض بکاء اہلہ علیہ اذا کان النوح من سنۃ، ص ۲۰۶، نمبر ۱۲۸۶)

ترجمہ۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے عمر بن عثمان سے کہا آپ رونے سے نہیں روکتے! کیونکہ حضورؐ نے فرمایا کہ، گھروالے روتنے ہیں تو اس کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے اس حدیث میں ہے کہ گھروالے کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے، اس کے باوجود پیت نہیں بعض لوگ کیوں ہر سال سینہ پیٹ کروتے ہیں اور میت کو زیادہ عذاب ہونے میں اضافہ کرتے ہیں

## واویلاً کرنا ممنوع ہے

ایک ہے خود بخود آنسو آجائے یہ جائز ہے، کیونکہ آدمی اس میں مجبور ہے، اور دوسرا ہے کہ خواہ تجوہ شور مچا رہا ہے اور گلے پھاڑ رہا ہے یہ ناجائز ہے، ان آحادیث میں واویلاً کرنے سے منع کیا گیا ہے اس کے لئے حدیث یہ ہے

2- عن عبد الله <sup>صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام</sup> قال قال النبي ﷺ ليس منا من لطم الخدود و شق الجيوب و دعا بدعوى الجahiliyah .-(بخاری شریف، باب لیس منا من شق الجیوب، ص ۷، ۲۰، نمبر ۱۲۹۲ مسلم شریف، باب ضرب الخدود وشق الجیوب و دعا بدعوى الجahiliyah، ص ۵۸، نمبر ۱۰۳)

ترجمہ۔ حضور <sup>ﷺ</sup> نے فرمایا کہ، جو گال پر طما نچہ مارے، اور دامن پھاڑے، اور زمانہ جاہلیت میں جس قسم کبواس کرتے تھے اس قسم کے کبواس کرے، تو وہ مجھ میں سے نہیں ہیں، یعنی یہ کام مسلمانوں کا نہیں ہے

3- قال وقع ابو موسى ..... قال انی بری ممن بری منه محمد ﷺ ان رسول الله ﷺ بری من الصالقة و الحالقة و الشاققة .-(بخاری شریف، باب ما ينهى من أحلق عند المصيبة، ص ۷، نمبر ۱۲۹۶ مسلم شریف، باب ضرب الخدود وشق الجیوب و دعا بدعوى الجahiliyah، ص ۵۸، نمبر ۱۰۳)

ترجمہ۔ حضرت ابو موسی <sup>ؓ</sup> نے فرمایا۔۔۔ جس سے محمد ﷺ بری ہیں میں بھی اس سے بری ہوں، رسول اللہ ﷺ اس عورت سے جو چینے چلائے، بال نوچے، اور کپڑ اپھاڑے ان سے بری ہیں

## خود بخود آنسو نکل جائے تو یہ معاف ہے

اس کے لئے حدیث یہ ہے

4- قال انس لقد رأيته يكيد بنفسه بين يدي رسول الله ﷺ فدمعت عينا رسول الله ﷺ فقال تدمع العين و يحزن القلب ، و لا نقول الا ما يرضي ربنا ، انا بک يا ابراهيم لمحزونون - (ابوداود شریف، کتاب الجنائز، باب البرکاء علی لمیت، ص ۳۵۸، نمبر ۳۱۲۶) ترجمہ۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیمؑ دیکھا کہ حضورؐ کو دیکھیں اپنی جان اللہ کو سپرد کر رہے تھے، تو حضورؐ کی آنکھوں میں آنسو آگیا، [تو کسی نے کہا کہ حضورؐ پہ بھی روتے ہیں؟] تو آپ نے فرمایا کہ آنکھیں آنسو بہاری ہیں، دل مغموم ہے، لیکن جس سے میرا رب راضی ہو میں وہی کہتا ہوں، اے ابراہیمؑ میں تھاری وجہ سے غمگین ہوں  
اس حدیث میں دیکھیں کہ خود بخود آنسو نکل گیا تو یہ معاف ہے

5- حدثني اسامة بن زيد .... فرفع الى رسول الله الصبي و نفسه تتقدفع قال حسبت انه قال كانها شن فاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا ؟ فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده و انما يرحم الله من عباده الرحماء - (بخاري شریف، باب قول النبي ﷺ يعذ بلمیت بعض بکاء اہله عليه، ص ۲۰۵، نمبر ۱۲۸۲) ترجمہ۔ حضورؐ کے پاس بچی لائی گئی، وہ آخری سانس لے رہی تھی، راوی کہتے ہیں، میرا گمان ہے کہ وہ پرانے مشک کی طرح تھی، حضورؐ کی آنکھیں بہ پڑیں، حضرت سعدؓ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا

ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ رحمت ہے، اللہ نے اپنے بندے کے دل میں اس کو رکھا ہے، جو لوگ رحم کرنے والے ہیں اللہ ایسے بندوں پر رحم کرتا ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شدت غم کی وجہ سے خود خود آنسو نکل گیا، اور زبان سے کوئی غلط سلط جملہ نہیں نکلا تو اس میں کوئی حرخ نہیں ہے۔

اس عقیدے کے بارے میں 3 آیتیں اور 5 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں۔

## ۲۲۔ ایصال ثواب ایک مستحب کام ہے

کوئی نیک کام کر کے اس کا ثواب میت کو پہنچانے کو ایصال ثواب، کہتے ہیں

اس عقیدے کے بارے میں 11 آیتیں اور 14 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں۔

ایصال ثواب ایک مستحب کام ہے، کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور نہیں کرنا چاہے تو کوئی گناہ نہیں ہے

## اس کام کرنے میں یہ 5 باتیں ضروری ہیں

- 1۔ اس میں ریانمود، جس کو دھلاوا کہتے نہ ہو، اگر لوگوں کے دھلاوے کے لئے کیا تو چونکہ ثواب کے لئے نہیں کیا اس لئے ثواب نہیں ملے، اور جب کرنے والے کو ہی ثواب نہیں ملے گا، تو میت کو کیا ثواب پہنچائے گا، بلکہ بہتر یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو، اتنا چھپا کر کرے
- 2۔ رسم و رواج کی پابندی نہ ہو، یہ نہ ہو کہ چونکہ اس کام کی رسم بن گئی ہے اس لئے یہ کیا جا رہا ہے
- 3۔ مالی صدقہ کرنا ہو تو غربیوں کو دے، کیونکہ انہیں کا حق بتتا ہے، اور انہیں کو دینے سے ثواب زیادہ ملے گا
- 4۔ اس میں فضول خرچی نہ ہو
- 5۔ ایصال ثواب کرتے وقت لوگوں کو بلاانا اور جنم گھٹا کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ آدمی کی موت ہو چکی ہو تو اس کے لئے اعلان کرنا، اور لوگوں کو جمع کرنا بھی حدیث میں اچھا نہیں سمجھا گیا ہے تو ایصال ثواب کے لئے لوگوں کو جمع کرنا، ناقچ اور گانے کا سما بانا اور وہ سارے خرافات کرنا جو ہندوؤں کے میلوں میں ہوتے ہیں کیسے جائز ہو سکتے ہیں

اس کے لئے حدیث یہ ہے

- عن عبد الله عن النبي ﷺ قال اياكم و النعى فان النعى من عمل الجاهلية ، قال عبد الله و النعى اذان با لميت - (ترمذی شریف، کتاب الجنائز، باب ماجاء فی کراہیۃ النعی، ص ۲۳۹، نمبر ۹۸۷ رابن ماجیہ شریف، کتاب الجنائز، باب ماجاء فی النعی عن النعی، ص ۲۱۱، نمبر ۶۲۷)

ترجمہ۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان موت کے اعلان سے بچا کرو، اس لئے کہ یہ جاہلیت کا عمل ہے، حضرت عبداللہ ؓ نے فرمایا کہ نعم، کا ترجمہ ہے لوگوں کے درمیان موت کا اعلان کرنا۔

اس حدیث میں ہے کہ اہتمام کے ساتھ لوگوں میں موت کے اعلان کرنے سے منع کیا ہے، ہاں تھوڑا بہت جنازے کی اطلاع دے اس کی گنجائش ہے، لیکن جم گھٹا کرنا صحیح نہیں ہے،

یعنی کاموقع ہے، یہ اس کی آخری ملاقات ہے، اور اس پر نماز جنازہ بھی پڑھنا ہے اس کے باوجود بھی زیادہ جم گھٹا کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے تو ایصال ثواب جیسے چھپا کر کرنے کے کام میں آدمی دنیا کو جمع کرنا کیسے صحیح ہوگا۔ ہاں بغیر خرافات کے لوگ جمع ہو کر کچھ پڑھ کر میت کو بخش دیں تو علماء نے اس کی گنجائش دی ہے

## اس وقت کی افراتفری

لیکن اس وقت صورت حال یہ ہے کہ اس مستحب کام میں بہت افراتفری ہے ایک آدمی کے والد کا انتقال ہوا، اس میں چالیس روز تک لوگ آتے رہے، اور اس میں 40,000 چالیس ہزار پونڈ خرچ کروادیا، اور اس آدمی کا دیوالہ نکل گیا، کیا مستحب کام میں اتنی زیادتی جائز ہے

میرے گاؤں میں کئی آدمیوں کا انتقال ہوا، انکے وارث کے پاس کافن کا بھی پیسہ نہیں تھا، لیکن لوگوں نے سودی قرض لینے پر مجبور کیا، اور اس نے بنیوں سے تین ہزار روپیہ قرض لیکر لوگوں کو کھانا کھلایا ایسے موقع پر رشتہ دار لوگ پیچھے لگ جاتے ہیں، اور کچھ ذہین لوگ بھی ساتھ ہو جاتے ہیں، اور ایصال ثواب کے نام پر اتنا ٹنگ کرتے ہیں کہ غریب کی چڑی ادھیر لیتے ہیں،

فیا للأسف

## ایصال ثواب کی ۳ صورتیں ہیں

[۱] مالی صدقہ کر کے ثواب پہنچانا

مثلاً۔ مال خیرات کر کے ثواب پہنچانا

۔ کھانا کھلا کر ثواب پہنچانا

۔ غریبوں کو جانور صدقہ کر کے ثواب پہنچانا

۔ قربانی کر کے ثواب پہنچانا

[۲] بد فی اعمال کر کے ثواب پہنچانا

۔ مثلاً، حج کر کے اس کا ثواب میت کو پہنچانا

۔ روزہ رکھ کر اس کا ثواب میت کو پہنچانا

۔ نماز پڑھ کر اس کا ثواب میت کو پہنچانا

[۳] پڑھ کر ثواب پہنچانا

۔ مثلاً، حضور ﷺ کے لئے درود شریف پڑھنا

۔ قرآن پڑھ کر میت کو ثواب پہنچانا

۔ دعا کر کے کرمیت کو ثواب پہنچانا

## [ا] مال خیرات کر کے ثواب پہنچانے سے میت کو ثواب ملتا ہے

اس کے لئے عقیدۃ الطحاویۃ میں عبارت یہ ہے،

- وَ فِي دُعَاءِ الْأَحْيَاءِ وَ صَدَقَاتِهِمْ مِنْفَعَةٌ لِلَّامُواْتِ۔ (عقیدۃ الطحاویۃ، عقیدہ نمبر ۸۹، ص ۱۹)

ترجمہ۔ زندہ آدمی مردوں کے لئے دعا کرے، یا وہ صدقہ کرے اس سے مردوں کو فائدہ ہوتا ہے

- وَ مِنْهَا : أَنْ دُعَاءَ الْأَحْيَاءِ لِلَّامُواْتِ وَ صَدَقَاتِهِمْ عَنْهُ نَفْعٌ لَهُمْ فِي عُلُوِّ الْحَالَاتِ۔ (

شرح فقہ اکبر، مسئلہ فی ان۔ دعاء للہیت یتفق خلافاً للمعترضة، ص ۲۲۲)

ترجمہ۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ زندہ لوگ مردوں کے لئے دعا کرے، یا ان کی جانب سے صدقہ کرے تو حالات کی بلندی میں انکو نفع ہوتا ہے۔

اس عبارت میں ہے کہ میت کو مالی صدقات کا نفع ملتا ہے

اس کے لئے احادیث یہ ہیں

۱۔ أَبْنَانَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عَبَادَةً تَوْفِيتَ امَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

اَنَّ اُمِّي تَوْفِيتَ وَ اَنَا غَائِبٌ عَنْهَا أَيْنَفَعُهَا شَيْءٌ اَنْ تَصْدِقَتْ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَانِي

أَشْهَدُكَ أَنَّ حَائِطَى الْمَخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا۔ (بخاری شریف، باب اذا قال أرضی او بستانی

صدقۃ اللذعن امی، ص ۲۵۶ مسلم شریف، باب وصول ثواب الصدقات الی المیت، ص ۱۶۷، نمبر ۱۲۳۰)

( ۲۲۱۹ )

ترجمہ۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ سعد ابن عبادہ کی ماں کا انتقال ہوا، جبکہ سعد ابن عبادہ غائب تھے

انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں غائب تھا اس حال میں میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اگر میں ان کی جانب سے صدقہ کروں تو انکو نفع ہو گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، سعدؓ نے کہا کہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ مخraf میں جو میراباغ ہے، میں مان کے لئے اس کو صدقہ کرتا ہوں

2- عن سعد بن عبادة انه قال يا رسول الله ان ام سعد ماتت فأى الصدقة افضل ؟  
قال الماء قال فحفر بئرا او قال هذه لام سعد - (ابوداؤ شریف، کتاب الزکوة، باب فی فضل  
سقی الماء، ص ۲۳۹، نمبر ۱۶۸)

ترجمہ۔ حضرت سعدؓ نے کہا یا رسول اللہ ﷺ میری ماں کا انتقال ہو گیا تو کون سا صدقہ افضل ہے، آپ نے فرمایا، پانی، راوی کہتے ہیں حضرت سعدؓ نے کنوں کھودا، پھر یہ کہا کہ، یہ سعد کی ماں کے لئے صدقہ ہے

ان احادیث میں ہے کہ دوسرے نے صدقہ کیا تو اس کا ثواب میت کو ملتا ہے

3- عن عائشة ان رجلا اتى لنبى ﷺ فقال يا رسول الله ! ان امى افتلت نفسمها و  
لم توص ، و اظنها لو تكلمت تصدقت ، أفللها اجر ان تصدقت عنها ؟ قال نعم - (Muslim  
مسلم شریف، کتاب الزکوة، باب وصول ثواب الصدقۃ عن لمیت الیہ، ص ۲۰۶، نمبر ۱۰۰۷، نمبر ۲۳۲۶)

ترجمہ۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی حضورؐ کے پاس آیا، اور کہا یا رسول اللہ میری والدہ اچانک انتقال کر گئی ہیں اور وصیت نہیں کر پائیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہ بات کرتیں تو صدقہ ضرور کرتیں، اگر میں ان کی جانب سے صدقہ کروں تو انکو اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا! ہاں [ملے گا]

4- عن جابر بن عبد الله ... نزل من منبره و اتى بکبس فذبحه رسول الله بيده و قال بسم الله والله اكبر هذا عنى و عمن لم يضح من امتى - (ابوداودشریف، کتاب الصحايا، باب في الشاة يضحي بها عن جماعة، ص ۲۰۹، نمبر ۲۸۱۰)

ترجمہ۔ حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے روایت ہے۔۔۔ حضورؐ منبر سے نیچے اترے، آپ کے سامنے ایک مینڈھالا یا گیا، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کیا، اور فرمایا، بسم الله والله اکبر۔ یہ میری جانب سے ہے، اور میری امت میں جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ان کی جانب سے ہے

5- قال رأيت علياً يضحي بكبشين فقلت له ما هذا؟ فقال ان رسول الله عليه السلام او صانى ان اضحي عنه فانا اضحي عنه - (ابوداودشریف، کتاب الصحايا، باب الاخحية عن لميٰت، ص ۲۷۰، نمبر ۲۷۹۰)

ترجمہ۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علیؓ کو دیکھا کہ وہ مینڈھا [بکرا] ذبح کر رہے تھے، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ، مجھے حضورؐ نے وصیت کی ہے کہ میں حضورؐ کی جانب سے قربانی کیا کروں، تو میں یہ انکی جانب سے قربانی کر رہا ہوں۔

ان 5 احادیث سے ثابت ہوا کہ مالی صدقات کرے تو اس کا ثواب، میت کو پہنچتا ہے البتہ اس میں شہرت، ریانمود، دوسروں کو چڑانامہ ہوا ورنہ ہی رسم و رواج کی پابندی کی وجہ سے کرے اور نہ فضول خرچ کرے۔  
یہ کام کبھی کھار کر لے، اور اس کا ثواب میت کو پہنچادے، کیونکہ یہ صرف مستحب ہے۔

## [۲] بدّنِ عمل کر کے میت کو ثواب پہنچا سکتے ہیں

اس کے لئے حدیث یہ ہے

6- عن ابن عباس <sup>رض</sup> قال جاء رجل الى النبي ﷺ فقال أحج عن ابى قال نعم حج عن ابيك - (ابن ماجة شریف، کتاب المنسک، باب الحج عن لمیت، ج ۲۲۰، نمبر ۲۹۰۷)

ترجمہ۔ ایک آدمی حضور <sup>صلی اللہ علیہ وساتھی</sup> کے پاس آیا، اور پوچھا کہ میں اپنے باپ کی جانب سے حج کروں؟، آپ نے فرمایا ہاں! اپنے باپ کی جانب سے حج کرو۔

7- عن ابى الغوث بن حصین . رجل من الفروع . انه استفتى النبي ﷺ عن حجة كانت على ابيه مات ولم يحج ، قال النبي ﷺ حج عن ابيك ، وقال النبي و كذلك الصيام في النذر يقضى عنه - (ابن ماجة شریف، کتاب المنسک، باب الحج عن لمیت، ج ۲۲۰، نمبر ۲۹۰۵)

ترجمہ۔ ابی غوث بن حصین سے روایت ہے کہ، باپ پر ایک حج تھا، اور انہوں نے حج نہیں کیا تھا، اور ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس کے بارے میں فتویٰ پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے باپ کی جانب سے حج کرو۔ حضور <sup>صلی اللہ علیہ وساتھی</sup> کہ نذر کا روزہ باقی ہو تو انکی جانب سے قضا کر سکتے ہو۔

حج کرنا، اور روزہ رکھنا بدّنِ عبادتیں ہیں، اس لئے ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ بدّنِ عبادت کر کے میت کو ثواب پہنچا سکتے ہیں

### [۳] قرآن پڑھ کر اور دعا کر کے میت کو ثواب پہنچا سکتے ہیں

لیکن اس کے لئے وقت متعین کرنا، جس میں زمانے کا دھماں ہو، ویڈیو بنایا جائے، ناج اور گانے بھی ہوں، طبلہ اور ڈھولکی تو ہوں ہی، اور اس پر نئے انداز کا ڈانس بھی ہوتا کہ زمانے تک اس کی یاد یو ٹیوب پر اور انٹرنیٹ پر رہے، یہ سب کہاں تک جائز ہیں، آپ خود ہی فتوی دے لیں، you tube

اس کی دلیل یہ آیتیں ہیں

۱- وَ الَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا وَ لَا حَوْا إِنَّا اللَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ -  
(آیت ۱۰، سورت الحشر ۵۹)

- ترجمہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بھی مغفرت فرمائیے، اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں

۲- رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ لِوَالِدَيَ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ لِلْمُؤْمِنَاتِ - (آیت ۲۸، سورت نوح ۱۷)

- ترجمہ۔ میرے رب میری بھی بخشش فرمادیجئے، میرے والدین کی بھی، اور ہر اس شخص کی بھی جو میرے گھر میں ایمان کے ساتھ حالت میں داخل ہوا، اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کی بھی [ بخشش کر دیجئے ]

۳- إِنَّ اللَّهَ وَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلِّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيْمًا - (آیت ۵۶، سورت الاحزاب ۳۳)

۔ ترجمہ۔ بیشک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، ائے ایمان والو! تم بھی ان پر درود بھیجو، اور خود سلام بھیجا کرو۔

اس آیت میں ہے کہ اللہ اور فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں اس لئے مومنوں کو بھی حکم دیا گیا کہ حضور پر خود درود بھیجیں، اس لئے حضور پر خود درود بھیجنا چاہئے، پڑھنے میں یہ سب سے بڑی عبادت ہے اس آیت میں حضور پر درود بھیجنے کے حکم دیا گیا ہے، اگر اس کا ثواب نہیں ملتا تو درود بھیجنے کا حکم کیوں دیتے!۔

پڑھ کر بخشنے کے لئے احادیث یہ ہیں

8۔ عن ابی هریرة ان رسول الله ﷺ قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعوا له۔ (مسلم شریف، باب ما ينفع الانسان من الشواب بعد وفاته، ص ۱۶، نمبر ۱۲۳۱) (۷۲۲۳/۱۲۳)

ترجمہ۔ حضور نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، مگر تین عمل کا ثواب ملتا رہتا ہے [۱] صدقہ جاریہ کا ثواب، [۲] ایسا علم چھوڑا جس سے لوگ نفع اٹھاتے ہوں [۳] تیک اولاً جو اس کے لئے دعا کرتی ہوا اس کا ثواب، مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے

9۔ عن معقل بن بیسار قال قال رسول الله ﷺ أقرؤ (یس) علی موتا کم۔ (ابوداود شریف، باب القراءة عند الیت، ص ۲۵۷، نمبر ۳۱۲۱)

ترجمہ۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اپنی میت پر یہ شریف پڑھا کرو

۱۰- عن عثمان بن عفان قال كان النبي ﷺ اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفرو لاخيكم و اسألوا الله بالتشييت فانه الانسان يسأل - (ابوداود شریف، باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف، ص ۲۷۰، نمبر ۳۲۲۱)

ترجمہ۔ حضرت عثمان بن عفانؓ فرماتے ہیں کہ جب حضور میت کو دفن کرنے سے فارغ ہوتے تو قبر پر کھڑے رہتے اور کہتے، اپنے بھائی کے لئے استغفار کرو، اور ان کے لئے جواب دینے میں ثابت قدم رہنے کی دعا مانگو! اس لئے کہ ابھی فرشتے ان سے سوال کریں گے۔

۱۱- عن ابی هریرةؓ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول اذا صلیتم على الميت فاخلصوا له الدعاء۔ (ابوداود شریف، باب الدعاء للميت، ص ۲۶۷، نمبر ۳۱۹۹)

ترجمہ۔ حضورؐ فرماتے ہیں کہ میت پر نماز جنازہ پڑھو تو ان کے لئے اخلاص کے ساتھ دعا کرو

۱۲- حدثنا صفوان حدثني المشيخة انهم حضروا غضيف بن الحارث الشمالي حين اشتد سوقه فقال هل منكم احد يقراء يسناً .... فكانت المشيخة يقولون اذا قرئت عند الميت خفف عنه بها - (مندرجات، مندرجات غضيف بن الحارثؓ، ج ۵، ص ۲۵، نمبر ۱۶۵۲)

ترجمہ۔ غضیف بن الحارث الشمالي کی موت کا وقت آیا تو کہنے لگتے تھے میں سے کوئی یسین شریف پڑھ سکتا ہے۔۔۔ اس لئے کہ بڑھے لوگ کہتے ہیں کہ اگر میت کے پاس یسین شریف پڑھی جائے تو اس کی برکت سے موت کی سختی کم ہو جاتی ہے۔

اس قول تابعی میں ہے کہ یسین شریف پڑھنے سے موت کی سختی کم ہو جاتی ہے۔

13- عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه انه قال لبنيه : اذا دخلت مني قبرى فضعوني في اللحد و قولوا باسم الله و على سنة رسول الله ﷺ و سنوا على التراب سنا و اقرأوا عند رأسي اول البقرة و خاتمتها فانى رأيت ابن عمر يستحبها ذالك - (سنن بیہقی، کتاب الجنائز، باب ما ورد في قراءة القرآن عند القبر، ج ۳، ص ۹۳، نمبر ۷۰۶۸)

ترجمہ۔ ابن لجلجؒ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جب مجھے قبر میں اتار دو اور مجھے لحد میں رکھ دو تو بسم اللہ علی سنت رسول اللہ، کہو، اور میرے اوپر مٹی ڈال دو پھر میرے سر کے پاس سورہ بقرہ کا شروع اور اس کا آخر حصہ پڑھو، اس لئے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر اس عمل کو مستحب کہتے تھے۔  
اس تابعی کے عمل سے معلوم ہوا کہ میت کے سراہا نے میں سورہ بقرہ پڑھی جائے

ان 13 احادیث اور 3 آئینوں سے پتہ چلتا ہے کہ خیرات کا ثواب اور دعا اور استغفار کا ثواب میت کو ملتا ہے

ان میں سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دعا اور درود کا اہتمام ہمیشہ کرے، اور باقی عمل کبھی کبھار کرے

لیکن ان میں یہی ہے کہ دن متعین نہ ہو، رسم و رواج نہ ہو، ریا اور نمودنہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، اجتماع، ڈھول، طبلہ، ناج، گانا اور وہ خرافات نہ ہوں جس سے ہندوؤں کا میلہ شرماجائے مالی صدقات غریبوں کو دیا جائے، لیبروں کو اور ذہین قوم کے مکاروں کو ہرگز نہ دیں۔

## کچھ حضرات کی رائے ہے کہ ثواب نہیں پہنچا سکتے

اور کچھ حضرات کہتے ہیں کہ دعا کا ثواب تو پہنچتا ہے، کیونکہ یہ حدیث سے ثابت ہے  
مالی صدقات کا ثواب نہیں پہنچتا

ان کی دلیل یہ ہے کہ ایک کا گناہ دوسرے کو نہیں پہنچتا  
اس کے لئے یہ آیتیں ہیں

4- أَنْ لَا تَزِرُوا زِرَةً وَ زِرَةٍ أُخْرَى وَ أَنْ لَيْسَ لِلنِّسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (آیت ۳۹، بُنْجَمٰ) ۴-  
ترجمہ۔ یعنی یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور یہ کہ انسان کو خود اپنی کوشش کوشش کے سوا کسی اور چیز کا بدلہ لینے کا حق پہنچتا۔

5- وَلَا تَكُسِبُ كُلَّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةً وَ زِرَةٍ أُخْرَى۔ (آیت ۱۶۲، الانعام)  
(۶)

ترجمہ۔ اور جو کوئی شخص کوئی کمائی کرتا ہے اس کا نفع اور نقصان کسی اور پر نہیں خود اسی پر پڑتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا

6- كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتِ رَهِينَةٌ۔ (آیت ۳۸، سورت المدثر ۷۷)

ترجمہ۔ ہر شخص اپنے کرتوت کی وجہ سے گروئی رکھا ہوا ہے

7- لَهَا مَا كَسَبَتِ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ۔ (آیت ۲۸۲، سورت الہیرۃ ۲)

ترجمہ۔ اس کو فائدہ بھی اسی کام سے ہو گا جو اس نے اپنے ارادے سے کرے، اور نقصان بھی اسی کام

سے ہوگا جو اپنے ارادے سے کرے

8۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ۔ (آیت ۱۳۱، سورت البقرۃ ۲)

9۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ۔ (آیت ۱۳۲، سورت البقرۃ ۲)

ترجمہ۔ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے

10۔ ثُمَّ تُوْفَى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ (آیت ۲۸۱، سورت البقرۃ ۲)

ترجمہ۔ پھر ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا ہے پورا پورا دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہو گا

ان 7 آیتوں میں ہے کہ آدمی خود جو کام کرتا ہے اسی کا اس کو ثواب ملتا ہے،

اس سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ میت کو دوسروں کے ایصال ثواب کرنے سے مالی ثواب نہیں ملتا ہے،

بس جو اس نے اپنی زندگی میں کیا اسی کا ثواب اور عذاب ملے گا

## ان تین وجہ سے جمہور ایصال ثواب کے قائل ہوئے

ان تین 3 وجہ سے جمہور اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ میت کو مالی اور قرأت کا ثواب ملتا ہے

1۔ اوپر 13 احادیث، اور 3 آیتیں گزریں جن سے پتہ چلتا ہے کہ میت کو بھیجا ہوا ثواب ملتا ہے، اگر

یہ حدیثیں اور آیتیں نہ ہوتیں تو ہم بھی اس بات کے قائل ہوتے کہ میت کو ثواب نہیں ملتا ہے

2۔ اوپر کی آیتوں سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ کسی کا گناہ دوسرے کو نہیں ملے گا، کیونکہ انصاف کا تقاضہ یہی ہے،

لیکن دوسرے کا بھیجا ہوا ثواب بھی نہیں ملتا ہے، اس کا انکار اوپر کی آیت میں نہیں ہے، اس لئے ثواب

مل سکتا ہے

3۔ جمہور نے دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ مرنے والا اپنا دوست بناتا ہے، یا اپنا رشتہ دار ہوتا ہے یا اپنی

اولاد کی تربیت کرتا ہے، یہ دوست بنانا، اور اولاد کی تربیت کرنا بھی ایک قسم کی نیکیاں کمانے کا سبب

ہے اس لئے اس سبب بنانے کی وجہ سے اس کو ثواب ملے گا۔

اور سبب بننے کا گناہ ہوگا، اس کی دلیل یہ آیت ہے

11۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يَضْلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا

سَاءَ مَا يَرِوْنَ - (آیت ۲۵، سورت الحج)۔ ترجمہ۔ ان باتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ قیامت کے

دن خود اپنے گناہوں کے پورے پورے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان لوگوں کے بوجھ کا ایک حصہ بھی

جنہیں یہ کسی کے علم کے بغیر گمراہ کر رہے تھے، یاد رکھو کہ بہت بڑا بوجھ ہے جو یہ لادر ہے ہیں

14۔ عن أبي هريرة ان رسول الله ﷺ قال من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل

اجور من تبعه لا ينقص ذالك من اجرورهم شيئاً، و من دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذالك من آثامهم شيئاً۔ (ابوداودشریف، باب من دعا الى السنة، ص ۲۵۲، نمبر ۳۶۰۹)

ترجمہ۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی حدایت کی طرف بلائے تو جس نے اس کی اتباع کی اس کا اجر بھی اس کو ملے گا، اتباع کرنے والوں کے اجر میں سے کچھ کم نہیں ہوگا۔ اور کسی نے گمراہی کی طرف بلایا، تو اس کا بھی گناہ ہو گا جس نے اس کی اتباع کی، اتباع کرنے والوں کا گناہ کچھ کم نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں ہے کہ آپ کی رہنمائی کرنے سے کوئی کام کرے گا تو کرنے والے کا ثواب رہنمائی کرنے والے کو ملے گا۔ اسی طرح آپ کے گمراہ کرنے سے کوئی گناہ کرے گا تو اس کے گناہ کا عذاب گمراہ کرنے والے کو بھی ملے گا، کیونکہ یہ گمراہ کرنے کا سبب بناتے ہیں۔

اس آیت اور حدیث میں ہے کہ کوئی سبب بتتا ہے تو سبب بننے کی وجہ سے سبب بننے والوں کو اس کا ثواب، یا عذاب ملتا ہے، اور چونکہ ایمان لانے والا ایمان کے سبب سے ثواب کا مستحق بناتے ہیں، اس لئے جو ثواب پہنچائے گا، اس کا ثواب میت کو ملے گا۔

## قبیر پر خرافات سے ثواب نہیں ملتا ہے

قبیر پر جتنی نذر و نیاز چڑھاتے ہیں، یا اذن کرتے ہیں، یا بدیدیتے ہیں ان میں سے کسی کا ثبوت حدیث میں نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف میں احادیث ہیں، اور نہ اس کا ثواب ملتا ہے، بلکہ شریعت کے مطابق ایصال ثواب کر دے اتنے ہی کا ثواب میت کو ملتا ہے، اور وہی کرنا چاہئے۔

اس عقیدے کے بارے میں 11 آیتیں اور 14 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

## بعض مجاوروں کی دکانیں

جتنی احادیث پیش کی جاتیں ہیں ان سے اتنا ثابت ہوتا ہے کہ قبروں پر جا کرمیت کے لئے دعا کرے، اور کبھی بھارچپکے سے غربیوں پر صدقہ کر دے، اور ایسا کرنا مستحب ہے لیکن اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ ان قبوروں کی آڑ میں بعض مجاوروں نے بڑے بڑے قبے بنائے چمک دمک بلب لگائے، اور ہر آنے والوں کو یہ ترغیب دیتے ہیں کہ یہ بزرگ آپ کی ہر مرادیں پوری کر دیں گے، اور اس سے اتنا فیض ہو گا کہ آپ کی زندگی سنور جائے گی، اور اس جھانے میں آنے والوں سے بڑی بڑی رقمیں وصول کرتے ہیں اور ان کی جیب خالی کر دیتے ہیں، اور جو اس چکر میں پڑتا ہے اس کو غریب بنا دیتے ہیں، کہاں ہے کبھی بھار قبر کی زیارت، اور کہاں یہ لوٹیوں کا کھیل، پھر وہ اتنے ہی پر بس نہیں کرتے، ہر جمعرات کو قبر پر حاضری، عرس اور مختلف حیلوں سے لوگوں کو آنے کی دعوت دیتے ہیں، پھر عرس کے نام پر میلہ لگتا ہے، قوالی ہوتی ہے، رنڈیاں ناچتی ہیں، اور پوری رات وہ دھماں ہوتا ہے کہ ہندوؤں کے میلے بھی اس کے مقابلے میں ماند ہیں کچھ لوگوں نے اتنی گنجائش دی تھی کہ قربستان سے فضح حاصل ہو گا، اور حدیث میں وہ خاص فیض یہ ہے کہ قبر کو اور اس کی دیریانی کو دیکھ کر آخترت یاد آئے گی، دنیا سے دل اچاٹ ہو جائے گا، اور یہاں یہ ہے کہ دنیا بالکل نیکی ہو کر سامنے آتی ہے، بلکہ مذہب کے نام پر اتنے اچھے انداز میں دنیا اور اس کی رونقیں پیش کرتے ہیں کہ آخرت اور بھول جاتا ہے، اور ابھی تو یہ ہو رہا ہے کہ قوالي کی ناقچ، اور اس کی ساری بے شرمی کو یو ٹیوب پر ڈالتے ہیں، اور اس کی خوب تشبیر کرتے ہیں، کہاں تھی قبر کو دیکھ کر آخترت کی یاد، اور کہاں یہ بے شرمی اور بے حیائی کی اشاعت۔ فیا للاسف

## ۳۲۳۔ میت کا سننا

اس عقیدے کے بارے میں 4 آیتیں اور 7 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

مردے سنتے ہیں یا نہیں، یہ مسئلہ ایک دلدل ہے، یہاں مردے کے سنتے کے مسلسلے میں تین مسلک ہیں، اور تینوں کے پاس آیت اور حدیث کی دلائل ہیں

[۱]۔۔۔ ایک رائے یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے

[۲]۔۔۔ دوسری رائے یہ ہے کہ مردے سنتے ہیں

[۳]۔۔۔ اور تیسرا رائے یہ ہے کہ ہر بات کو تو نہیں سنتے، ہاں اللہ جس بات کو سنانا چاہتے ہیں وہ فرشتوں کے ذریعہ، یا کسی اور ذریعہ سے سنواد دیتے ہیں۔

نوٹ : جب میت کے سنتے میں ہی اختلاف ہے، تو اس کی کیسے اجازت دی جاسکتی ہے کہ آدمی نبیوں اور ولیوں سے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے کہے، اور انکو حاجت روکہ کر پکارے !

## [۱]- جو حضرات کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے ہیں

اس کے لئے آیتیں یہ ہیں

۱- إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَ الْدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُذْبِرِينَ (آیت ۸۰، سورت انمل ۲۷)

-ترجمہ۔ یقیناً تم مردوں کو اپنی بات نہیں سناسکتے، اور نہ تم بھروں کو اپنی پکار سناسکتے ہو، جب وہ پیٹھ پھیر کر چل کھڑے ہوں

۲- فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَ الْدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُذْبِرِينَ (آیت ۵۲، سورت الروم ۳۰)

-ترجمہ۔ اے پیغمبر! تم مردوں کو اپنی بات نہیں سناسکتے، اور نہ تم بھروں کو اپنی پکار سناسکتے ہو، جب وہ پیٹھ پھیر کر چل کھڑے ہوں۔

۳- وَ مَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَ مَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مِّنْ فِي الْقُبُورِ۔ (آیت ۲۲، سورت فاطر ۳۵)

-ترجمہ۔ زندہ لوگ اور مردے برا بر نہیں ہو سکتے، اور اللہ تو جسکو چاہتا ہے بات سنادیتا ہے، اور تم ان کو بات نہیں سناسکتے جو قبروں میں پڑے ہیں

ان ۳ آیتوں میں حضورؐ سے یہ کہا کہ آپ مردے کو نہیں سناسکتے، ہاں اللہ جس کو چاہے سناسکتے ہیں اس آیت، نمبر ۳۵، ۲۲ سے ایک بزرگ نے یہ استدلال کیا ہے کہ تم مردے کو نہیں سناسکتے، ہاں اللہ جسکو چاہے سناسکتے ہیں

حضرت عائشہؓ اسی بات کی قائل تھیں کہ مردے نہیں سنتے، اور حضورؐ نے جو سنایا تھا وہ مجرہ کے طور پر صرف اسی وقت سنایا تھا، ہمیشہ نہیں سن سکتا، اسی لئے اس حدیث میں، یسمع الان، یعنی ابھی وہ سن رہے ہیں کا الفاظ موجود ہے، چنانچہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ مردے نہیں سنتے ہیں، اور اس کے لئے ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ والی آیت پڑھی۔

حدیث یہ ہے۔

1- عن ابن عمر قال وقف النبي ﷺ على قليب بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ؟ ثم قال انهم الان يسمعون ما اقول ، فذكر لعائشة فقالت انما قال النبي ﷺ لهم الان ليعلموا ان الذى كتب اقول لهم هو الحق ، ثم قرأت ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ (آیت ۸۰، سورت انمل ۲۷) حتى قرأت الآیة۔ (بخاری شریف، کتاب المغازی، باب قتل ابی جہل، ص ۱۷۶، نمبر ۳۹۸۱/۳۹۸۰)

ترجمہ۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ حضورؐ بدر کے کنویں پر کھڑے ہوئے، اور کفار مکہ سے یہ کہا کہ تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا، کیوں تم نے اس کو حق پایا؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ابھی میری بات سن رہے ہیں، اس کا تذکرہ حضرت عائشہؓ کے سامنے ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ، حضورؐ نے فرمایا کہ ابھی جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ ابھی جانتے ہیں کہ میں جو کچھ کہہ رہا تھا وہ حق ہے۔ پھر حضرت عائشہؓ نے استدلال کے طور پر ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى﴾، والی آیت پڑھی جس میں ہے کہ آپ مردے کو نہیں سن سکتے۔

اس حدیث میں حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہے کہ مردے سنتے ہیں، بلکہ حضورؐ نے یوں فرمایا کہ میں جو کچھ میں کہتا تھا، بدر کے کنویں والے ابھی یقین کر رہے ہیں کہ میں بھی کہتا تھا۔

اس کی تائید حضرت قادہؓ کی اس تاویل سے بھی ہوتی ہے۔

2- عن ابی طلحہ ان نبی اللہ ﷺ امر یوم بدر ... ف قد فوا فی طوی من اطواء بدر  
... ف جعل يناديهم باسمائهم و اسماء آباهم .... ف قال عمر يا رسول اللہ ما تكلم من  
اجساد لا ارواح لها ، ف قال رسول اللہ ﷺ و الذی نفس محمد بیده ما انتم  
بأسمع لما اقول منهم .

قال قاتادة أحياءهم الله حتى اسمعهم قوله توبيخا و تصغيرا و نعمة و حسرة و ندما -  
(بخاری شریف، کتاب المغازی، باب قتل ابی جہل، ص ۱۷۶، نمبر ۳۹۷)

ترجمہ۔ حضورؐ نے جنگ بدر کے دن۔۔۔ کفار مکہ کے مردوں کو نویں میں ڈلا دیا۔۔۔ آپؐ نے اس  
کا اور اس کے باپ کاظم لیکر پکارا۔۔۔ تو حضرت عمرؓ فرمانے لگے جس جسم میں روح نہیں ہے، حضورؐ  
آپؐ اس سے بات کر رہے ہیں؟ تو آپؐ نے فرمایا کہ جس کے قبضے میں محمدؐ کی جان ہے، جو کچھ میں  
کہہ رہا ہوں تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو۔

حضرت قادہؓ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان مردوں کو زندہ کیا تاکہ حضورؐ کی بات کو سن لے، ڈانٹنے کے طور پر،  
حیر کرنے کے طور پر، سزادینے کے طور پر، اور شرمندہ کرنے کے طور پر  
حضرت قادہؓ کی تاویل سے لگتا ہے کہ مردے تو سننے نہیں ہیں، لیکن کفار قریش کو اللہ نے زندہ کیا اور انکو  
شرمندہ کرنے کے لئے حضورؐ کی بات کو سنایا، اس لئے یہ حضورؐ کا ایک مجرہ ہے، عام حالات میں  
مردے نہیں سنتے۔

ان 3 آیت اور 2 حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مردے نہیں سننے ہیں

## [۲]- جو لوگ کہتے ہیں کہ قبر والے سنتے ہیں

انکی دلیل یا احادیث ہیں

3- ان ابن عمر اخبوہ قال اطلع النبی ﷺ علی اهل القلیب فقال : وجدتم ما وعد ربکم حقا ؟ فقيل له أتدعون أمواتا ، فقال ما انتم باسمع منهم و لكن لا يجيرون - (بخاری شریف، باب ماجاء فی عذاب القبر، ج ۲۰، نمبر ۱۳۷۰)

ترجمہ۔ حضورؐ بدر کے کنوں والوں کے پاس تشریف لائے اور کہا: تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا تھا، کیوں تم نے اس کو حق پایا؟، آپؐ سے لوگوں نے پوچھا، کہ کیا آپ مردوں کو پکار طریقے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم بھی اس سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، لیکن وہ اب جواب نہیں دے سکتے۔  
اس حدیث میں ہے کہ مردے سنتے ہیں۔

4- عن انسُ عن النبِيِّ ﷺ قال العبد اذا وضع في قبره وتولى وذهب اصحابه حتى انه ليسمع قرع نعاله اتاه ملکان فأقعدهانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد ﷺ فيقول أشهد انه عبد الله ورسوله - (بخاری شریف، باب لمیت یسمیع حق النعال، ج ۲۳، نمبر ۱۳۳۸)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ بندہ جب قبر میں لٹایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھی واپس آ جاتے ہیں یہاں تک کہ جب مردہ جوتے کی آواز سنتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اور اس کو بیٹھاتے ہیں، اور پوچھتے ہیں کہ اس آدمی محمد ﷺ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا

ہوں کہ یہ اللہ کا بندہ اور رسول ہیں۔

اس حدیث میں ہے کہ مردہ جوتے کی آواز سنتا ہے ،

5- عن ابی هریرة قال : قال رسول الله ﷺ من صلی علی عند قبری وكل بهما ملک یبلغنی و کفی بهما امر دنیاہ و آخرتہ و كنت له شهیدا او شفیعا ، هذا اللفظ حديث الاصمعی ، و في رواية الحنفی قال : عن النبی ﷺ قال من صلی علی عند قبری سمعته و من صلی علی نائیا ابلغته - (بیہقی [متوفی ۳۵۸] فی شعب الایمان، باب فی تعظیم النبی ﷺ و اجلاله و توقیره، ج ثانی، ص ۲۱۸، نمبر ۱۵۸۳)

ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا، جو میری قبر کے پاس درود بھیجتا ہے تو اس پر اللہ فرشتے کو مقرر کرتے ہیں جو مجھے وہ درود پہنچادے، اس کے لئے دنیا اور آخرت کی بھلانی کافی ہو جاتی ہے، اور میں اس کے لئے لواد ہوں گا اور شفارسی ہوں گا،

حدیث کے جملے حضرت صمعیؓ سے منقول ہیں

، اور حضرت حنفیؓ کی روایت میں یوں ہے۔ حضورؐ نے فرمایا۔ کہ کوئی میری قبر کے پاس درود بھیجتا ہے تو میں اس کو سنتا ہوں، اور جو دور سے درود بھیجے تو وہ مجھکو پہنچادیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ میری قبر کے پاس درود بھیجے تو میں اس کو سنتا ہوں، اور دور سے درود بھیجے تو مجھے پہنچایا جاتا ہے۔

میں نے مکتبہ شاملہ سے بہت تلاش کی، کسی کتاب میں، عند قبری سمعته، کا لفظ نہیں ملا، اور کئی محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے

[۳]- جو لوگ کہتے ہیں کہ خود تو نہیں سنتے

لیکن اللہ جتنا چاہے تو سنا دیتے ہیں

ان کے دلائل یہ ہیں

۴۔ وَ مَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَ لَا الْأَمْوَاتِ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَ مَا أَنْتَ بِمُسْمَعٍ مِّنْ فِي الْقُبُوْرِ۔ (آیت ۲۲، سورت فاطر ۳۵)

- ترجمہ۔ زندہ لوگ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ تو جسکو چاہتا ہے بات سنا دیتا ہے، اور تم ان کو بات نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہیں  
اس آیت میں ہے کہ قبروں میں جو لوگ ہیں ان کو اللہ چاہے تو سنا دیتے ہیں، حضور آپ نہیں سنا سکتے

6- عن اوس ابن اوس قال قال النبي ﷺ ان من افضل ایامکم يوم الجمعة فاکثروا على من الصلوة فيه فان صلوتكم معروضة على ، قال فقالوا يا رسول الله او كيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارمتك؟ قال يقولون بليت . قال ان الله حرم على الارض أجساد الانبياء ﷺ - (ابوداود شریف، باب فی الاستغفار، ص ۲۲۶، نمبر ۱۵۳، ابن ماجہ شریف، باب فی فضل الجمعة، ص ۱۵۲، نمبر ۱۰۸۵)

- ترجمہ۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا سب سے اچھا دن جمعہ کا دن ہے، اس لئے اس دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو، اس لئے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو بوسیدہ ہو چکے ہوں گے آپ پر ہمارا درود کیسے پیش کیا جائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ شاید بليت، کا الفاظ

کہا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسم کو حرام کر دیا [زمین انبیاء کے جسم کو نہیں کھا سکتی] اس حدیث میں ہے کہ حضور پروردش ریف پیش کیا جاتا ہے، وہ دور سے نہیں سنتے، بلکہ سنایا جاتا ہے۔

7- عن ابی هریرة قال قال رسول الله ﷺ لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا و صلوا على فان صلوتكم تبلغني حيث كنتم۔ (ابوداودشریف، باب زیارة القبور، ص ۲۹۶، نمبر ۲۰۳۲)

ترجمہ۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبر کی طرح مت بناؤ، اور میری قبر کو عید کی طرح مت بناؤ، ہاں مجھ پر درود بھیجا کرو، اس لئے کہ تم کہیں بھی ہو تمہارا درود مجھ کو پہنچایا جاتا ہے۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور بر ا راست نہیں سنتے، بلکہ انکو سنایا جاتا ہے، اور ان پر درود پیش کیا جاتا ہے۔

## ایک استاذ کی رائے

میرے ایک استاذ یہ فرماتے تھے کہ دونوں حدیثوں اور آیتوں کو ملانے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مردہ خود تو نہیں سنتا، البتہ اللہ جس چیز کو سنانا چاہتا ہے، اس کو سنایا جاتا ہے۔ یہ اسلام طریقہ ہے، اور دونوں فرم کی آیتوں کو جامع ہے۔ واللہ اعلم۔

اس عقیدے کے بارے میں 4 آیتیں اور 7 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

## ۲۳۔ یہ دس چیزیں علامت قیامت میں سے ہیں

اس عقیدے کے بارے میں 3 آیتیں اور 16 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

- [۱] دھواں
- [۲] دجال کا نکلنا
- [۳] زمین سے جانور نکلے گا جو انسانوں سے بات کرے گا
- [۴] سورج مغرب سے نکلے گا
- [۵] حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر اتریں گے
- [۶] یاجوج ماوجون ایک قوم ہو گی جو نکلے گی اور پوری دنیا کو ہس کر دے گی
- [۷۔ ۸۔ ۹] تین جگہ سے زمین کا دھنسنا ہو گا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور تیسرا جزیرہ عرب میں
- [۱۰] ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو مختبر کے لے جائے گی۔
- [۱۱] کچھ علامات قیامت اور بھی ہیں

## ہم ان علامات قیامت پر ایمان رکھتے ہیں

کیونکہ ان کا ثبوت آیت اور پکی حدیث میں ہے ان دس علامات کی دلیل یہ حدیث ہے۔

۱- عن حذیفة بن اسید الغفاری قال اطلع النبي ﷺ علينا و نحن نتذاکر فقال ما تذاکرون؟ قالوا نذکر الساعة قال انها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات ، فذكر الدخان ، والدجال ، والدابة ، و طلوع الشمس من مغربها ، و نزول عیسیٰ ابن مریم ﷺ ، وياجوج و ماجوج ، و ثلاثة خسوف ، خسف بالشرق ، و خشف بالمغرب ، و خشف بجزيرة العرب ، و آخر ذالك نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشرهم - (مسلم شریف، کتاب الفتن، باب فی الآیات الی تکون قبل الساعة، ص ۱۲۵۶، نمبر ۲۸۵/۲۹۰) / ابو داود شریف، کتاب الملاحم، باب امارات الساعة، ص ۲۰۵، نمبر ۱۱۳۲)

ترجمہ۔ حضرت حذیفہ بن اسیدؓ فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے حضورؐ تشریف لائے، ہم کسی چیز کا ذکر کر رہے تھے، حضورؐ نے پوچھا کہ کس چیز کا ذکر کر رہے ہو، لوگوں نے کہا قیامت کا ذکر کر رہے ہیں، تو حضورؐ نے فرمایا، جب تک تم اس سے پہلے دس نشانیاں نہ دیکھ لو گے، قیامت ہرگز نہیں آئے گی۔ آگے آپؐ نے بیان فرمایا، دھواں، دجال، ایک جانور نکلے گا، مغرب سے سورج نکلے گا، حضرت عیسیٰ ابن مریمؓ آسمان سے اتریں گے، یا جوج ماجوج کا خروج، اور تین جگہ زمین دھنسے گی، ایک مشرق میں، دوسری مغرب میں، اور تیسرا جزیرہ العرب میں، اور آخری میں یمن سے آگ نکلے گی، جو لوگوں کو محشر تک دھکیل کر لے جائے گی۔

قیامت سے پہلے یہ دس بڑی بڑی نشانیاں ہوں گی

## حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر اتریں گے

کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ نہیں آئیں گے، یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ کبی اور صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر اٹھا لئے گئے ہیں، اور وہ دوبارہ زمین پر اتریں گے، اور حضورؐ کی شریعت کے مطابق شریعت نافذ کریں گے، اس وقت انکی اپنی شریعت نہیں ہو گی، حضرت عیسیٰ حضورؐ کے امتی بن کر آئیں گے، کیونکہ حضورؐ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، جواب نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے کچھ لوگوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، لیکن یہ دعویٰ بالکل غلط ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ بالکل آخر میں ہوں گے، اور اپنے ہاتھوں سے دجال کو قتل کریں گے، اور جو دعویٰ کرنے والے ہیں انہوں نے کبھی دجال کو نہ دیکھا ہے، اور نہ قتل کیا ہے، اس لئے اس دعویٰ بالکل غلط ہے

حضرت عیسیٰ کے اترنے کی دلیل یہ آیت ہے

۱- وَ مَا قُتِلُواْ يَقِيْنًا ، بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَ كَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ، وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۔ (آیت ۱۵۹، سورت النساء )

ترجمہ۔ یہ بالکل یقینی بات ہے کہ وہ [عیسیٰ] قتل کرنے والے [عیسیٰ علیہ السلام] قتل نہیں کر پائے، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھایا تھا، اور اللہ بڑا اقتدار والا، حکمت والا ہے، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی موت سے پہلے ضرور بالضرور عیسیٰ پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن وہ ان

لوگوں کے خلاف گواہ بنیں گے۔

تفسیر ابن عباس کے مطابق۔۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ حضرت عیسیٰ زمین پر اتریں گے، اور تمام اہل کتاب ایمان لا سکیں گے، جس سے دوبارہ اترنے کا اشارہ اس آیت میں ملتا ہے اس حدیث میں ہے

2- عن ابی هریرة ان رسول اللہ ﷺ قال ..... فبینا هم يعدون للقتال يسرون الصفوف اذا قيمت الصلاة فينزل عيسى ابْنَ مُرِيمَ فَامْهُمْ فَإِذَا رَأَاهُ عَدُوُّ اللَّهِ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمَلْحَ فِي الْمَاءِ، فَلَوْ تَرَكَهُ لَانذابَ حَتَّى يَهْلِكَ، وَ لَكِنْ يَقْتَلُهُ اللَّهُ بِيدهِ فَيَرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبِهِ - (مسلم شریف، کتاب الفتن، باب فتح قسطنطینیہ و خروج الدجال، و نزول عیسیٰ ابْنَ مُرِيمَ، ص ۱۲۵۳، نمبر ۲۸۹/۲۸۷)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا۔۔ قیامت کے قریب لوگ ایک جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے، اور صرفیں سیدھی کی جا چکی ہوں گی، اور نماز کی اقامت کہی ہو گی، کہ حضرت عیسیٰ نیچے اتریں گے، اور لوگوں کی امامت کریں گے، جب اللہ کا دشمن دجال دیکھے گا تو جیسے پانی میں نمک پکھلاتا ہے، اسی طرح وہ پکھنے کی کوشش کرے گا، اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے تو وہ پکھل جاتا، اور مر جاتا، لیکن اللہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھ سے اس کو قتل کرائے گا، پھر حضرت عیسیٰ [لوگوں کو یقین کرانے کے لئے] اپنے نیزے پر دجال کا خون دکھلائیں گے۔

3- سمع ابا هریرة يقول قال رسول الله ﷺ وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! ليوش肯 ان ينزل فيكم ابن مريم حکماً مقوسطاً ، فيكثُر الصليب ، ويقتل الخنزير ، ويضع الجزية ، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد - (مسلم شریف، کتاب الایمان، باب نزول عیسیٰ ابْنَ مُرِيمَ حاکماً

بشریتہ نبینا محمد، ص ۷، نمبر ۱۵۵، نمبر (۳۸۹)

ترجمہ حضور<sup>ؐ</sup> نے فرمایا کہ، جس ذات کے قبضے میں میری جان ہے اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کہ حضرت عیسیٰ تمہارے درمیان ضرور اتریں گے، وہ انصاف کرنے والا حاکم ہوں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، سو رکن قتل کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں [یعنی تمام لوگوں کو ایمان ہی لانا ہوگا، تاکہ کوئی جزیہ نہ دے] اور ان کے زمانے میں مال اتنا بہہ پڑے گا کہ اس کو کوئی لینے والا نہیں ہوگا

4۔ ان ابا هریرۃ قال قال رسول الله ﷺ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم۔ (مسلم شریف، کتاب الایمان، باب نزول عیسیٰ ابن مریم حاکماً بشریتہ نبینا محمد، ص ۷، نمبر ۱۵۵، نمبر (۳۹۲)

ترجمہ۔ حضور<sup>ؐ</sup> نے فرمایا کہ، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ تمہارے درمیان حضرت عیسیٰ اتریں گے، اور اس وقت امام تمہارے میں سے ہوگا [یعنی حضرت محدث علیہ السلام امام ہوں گے] اور حضرت عیسیٰ ائمکہ تابع ہوں گے۔

5۔ عن ابی هریرہ ... قال ابن ابی ذئب : تدری ما امکم منکم ؟ قلت : تخبرنی قال فامکم بكتاب ربکم عزو جل و سنته نبیکم۔ (مسلم شریف، کتاب الایمان، باب نزول عیسیٰ ابن مریم حاکماً بشریتہ نبینا محمد، ص ۸، نمبر ۱۵۵، نمبر (۳۹۲)

ترجمہ۔ ابن ابی ذئب نے کہا، امکم منکم، کامن تم کو پتہ ہے؟ میں نے کہا آپ بتائے تو انہوں نے کہا کہ، قرآن کے ذریعہ اور حضور کی سنت کے مطابق حضرت عیسیٰ تمہاری امامت کریں گے ان احادیث سے پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ زمین پر اتریں گے، اور وہ حضور کی شریعت کے تابع ہوں گے، اور ان کے امتی بن کر تشریف لا سیں

## حضرت امام مہدی علیہ السلام

یہ بھی قیامت کے علامات میں سے ہیں

حضرت مہدی علیہ السلام کا نام حضور کے نام پر محمد، ہوگا، اور اس کے باپ کا نام حضور کے باپ کے نام پر عبد اللہ، ہوگا، اور یہ حضرت فاطمہؑ کی اولاد میں ہوگا، اور حضرت حسنؑ کی اولاد میں ہوگا قیامت کے قریب لوگ انکے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور یہ آخری خلیفہ ہوں گے، یہ نماز پڑھار ہے ہوں گے، کہ حضرت عیسیٰ آسمان سے اتریں گے، اور ان کی امامت میں نماز پڑھیں گے، پھر یہ دنون مل کر دجال سے جنگ کریں گے، اور حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے۔  
اس کے لئے احادیث یہ ہیں

6- عن ام سلمة زوج النبى ﷺ عن النبى ﷺ قال يكُون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هارباً إلى مكة فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيأياعونه بين الركين والمقام ... يلقى الإسلام بجرانه إلى الأرض، فيلبيث سبع سنين، ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمين - (ابوداود شریف، کتاب الملاحم، باب اول کتاب الحمدی، ص ۶۰۲، نمبر ۷۲۸۶)

ترجمہ۔ حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ، ایک خلیفہ کی موت پر لوگوں میں اختلاف ہوگا، ایک آدمی [حضرت مہدیؑ] مدینہ سے بھاگ کر مکہ آئیں گے، ان کے پاس مکہ مکرمہ کے لوگ آئیں گے، اور مہدیؑ کو لوگوں کے سامنے لا کیں گے، حالانکہ وہ خلیفہ بننا نہیں چاہیں گے، رکن یمانی، اور مقام ابراہیم کے درمیان ان سے بیعت کریں گے۔۔۔ اس وقت اسلام زمین پر جڑ کپڑے لے گا، حضرت مہدی اس کے

بعد سال تک زندہ رہیں گے، پھر ان کا وصال ہوگا، اور مسلمان ان پر نماز پڑھیں گے

7- عن عبد الله قال قال رسول الله ﷺ : لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب  
رجل من أهل بيتي يواطى اسمه اسمى۔ (ترمذی شریف، کتاب الفتن، باب ماجاء فی الحمدی،  
رجل من اہل بیتی یواطی اسمہ اسمی۔) (ترمذی شریف، کتاب الفتن، باب ماجاء فی الحمدی،  
ص ۵۱۲، نمبر ۲۲۳۰)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ دنیا ختم نہیں ہوگی، یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی عرب کا  
مالک بنے گا، ان کا نام میرے نام پر، محمد، ہوگا

8- عن أبي سعيد الخدري قال خشينا ان يكون بعد نبينا حديث ، فسألنا نبى الله  
عليه السلام ، فقال ؟ ان فى امتى المهدى يخرج يعيش خمسا او سبعا او تسعـا... قال  
فيجيء اليه الرجل فيقول يا مهدى اعطنى اعطنى قال فيحشى له في ثوبه ما استطاع  
ان يحمله۔ (ترمذی شریف، کتاب الفتن، باب فی عیش الحمدی وعطاۃ، ص ۵۱۲، نمبر ۲۲۳۲)

ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ، ہمیں ڈر ہوا کہ حضورؐ کے بعد کوئی واقعہ نہ پیش آجائے، تو  
ہم نے حضورؐ سے پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ، میری امت میں مهدی، ہوں گے، وہ پانچ سال، سات  
سال، یا نو سال زندہ رہیں گے۔۔۔ ان کے پاس لوگ آئیں گے اور کہیں گے اے مهدی مجھے دو، مجھے  
دو، راوی کہتے ہیں کہ آدمی جتنا اٹھا سکے گا، اس کے کپڑے میں اتنا ڈال دیں گے [یعنی مال کی کثرت  
اتی ہو جائے گی کہ حضرت مہدیؑ لوگوں کو بے حساب مال دیں گے]

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ حضرت مہدیؑ قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، وہ خلیفہ بنیں گے،  
اور ان کے زمانے میں فتوحات بہت ہوں گی، اور مال کی کثرت ہوگی۔

## دجال کا بیان

دجال انسان ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اتنی طاقت دیں گے کہ لوگوں کو گمراہ کر سکے  
دجال آئے گا، وہ کافر ہوگا، اور لوگوں کو اپنے کفر کی طرف بلائے گا  
اس کے لئے احادیث یہ ہیں

9- ان ابا سعید الخدری قال حدثنا رسول الله ﷺ حدیثا طویلا عن الدجال  
... فيقول الدجال أرأيت ان قتلت هذا ثم احييته ، هل تشكون في الامر ؟ فيقولون ،  
لا ، فيقتله ثم يحييه ، فيقول حين يحييه ، و الله ما كنت قط اشد بصيرة مني اليوم ،  
فيقول الدجال أقتله ، فلا يسلط عليه - (بخاری شریف، کتاب فضائل المدینة، باب لا يدخل  
الدجال المدینة، ج ۳۰۳، نمبر ۱۸۸۲)

ترجمہ۔ حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ، دجال کے بارے میں حضورؐ نے لمبی حدیث بیان کی  
--- دجال لوگوں سے کہے گا، اگر میں اس آدمی کو قتل کر دوں، اور پھر اس کو زندہ کر دوں تو میرے  
معاملے میں کوئی شک رہے گا، لوگ کہیں گے، نہیں، دجال اس کو قتل کرے گا پھر اس کو زندہ کرے گا،  
جب اس کو زندہ کر دے گا، تو وہ آدمی کہے گا، آج جس طرح یقین ہوا [کتم دجال ہو] خدا کی قسم اس  
سے پہلے نہیں ہوا تھا، اب دجال کہے گا کیا اس کو قتل نہ کر دوں، لیکن اللہ اس قتل کرنے پر قدرت نہیں  
دے گا۔

10- ان عبد الله بن عمر قال قام رسول الله ﷺ في الناس فاثنى على الله بما هو

اہلہ شم ذکر الدجال فقال انى لاندر کموه و ما من نبی الا قد اندر ه قومه و لکنی سأقول لكم فيه قوله لم يقله نبی لقومه ، انه اعور ، و ان الله ليس باعور ۔ (بخاری شریف، باب ذکر الدجال، ص ۱۲۲۷، نمبر ۱۲۲۷ مسلم شریف، کتاب الفتن، باب ذکر الدجال، ص ۱۲۶۹، نمبر ۲۹۳۲، نمبر ۳۶۱)

ترجمہ۔ حضور<sup>ؐ</sup> لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے، اللہ کی مناسب تعریف کی، پھر دجال کا ذکر کیا، اور فرمایا، ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے، اور میں بھی تم کو اس کے فتنے سے ڈراتا ہوں، لیکن میں ایسی بات کہہ رہا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں کی، کہ دجال کا نا نہیں ہے، اور خدا ہر گز کا نا نہیں ہے

11- عن حذيفة عن النبي ﷺ قال في الدجال ، ان معه ماء ، و نار ، فناره ماء بارد و مائه نار ۔ (بخاری شریف، باب ذکر الدجال، ص ۱۲۲۸، نمبر ۱۳۰)

ترجمہ۔ حضور<sup>ؐ</sup> نے دجال کے بارے میں فرمایا، دجال کے ساتھ پانی اور آگ چلے گی، جو اس کی آگ ہے وہ حقیقت میں ٹھنڈا پانی ہے، اور جو پانی نظر آئے گا وہ حقیقت میں آگ ہے

12- ان عائشة<sup>ؓ</sup> قالت سمعت رسول الله ﷺ يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال ۔ (بخاری شریف نمبر ۱۲۹)

ترجمہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا کہ حضور<sup>ؐ</sup> اپنی نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے دجال ایک بڑا فتنہ ہو گا اس سے پناہ مانگنا چاہئے۔، یہ بھی علامت قیامت میں سے ہے

## یا جوں ماجون نکلیں گے

یا جوں ماجون ایک بہت بڑی قوم ہے، جو قیامت کے قریب نکلے گی، اور پوری دنیا میں بڑی ادھم مچائے گی، حضورؐ نے اس کی خبر دی ہے  
اس کے لئے آیت یہ ہے

2- حُتَّى إِذَا فُتَحَتْ يَأْجُوجُ وَ مَاجُوجُ وَ هُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَ اقْتَرَبَ الْوَعْدُ  
الْحَقُّ۔ (آیت ۹۶، سورت الانبیاء ۲۱)

ترجمہ۔ یہاں تک کہ جب یا جوں ماجون کو کھول دیا جائے گا، اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے نظر آئیں گے،  
اور سچا وعدہ [یعنی قیامت] پورا ہونے کا وقت قریب آجائے گا  
حدیث یہ ہے

13- عن زینب بنت جحش ان النبي ﷺ استيقظ من نومه و هو يقول: لا اله الا  
الله ، ويل للعرب من شر قد قترب ، فتح اليوم من ردم يا جوج و ما جوج مثل هذه و  
عقد سفيان بيده عشرة - (مسلم شریف، کتاب الفتن، باب اقتراباً للفتن واشراط الساعة، ص  
۱۲۳۶، نمبر ۲۸۸۰/ ۲۳۵)

ترجمہ۔ حضور نبیؐ سے بیدار ہوئے، لا اله الا الله، کہہ رہے تھے، عربوں کے لئے ہلاکت ہو شر، بہت  
قریب آچکا ہے، اور آج یا جوں ماجون کا سوراخ اتنا کھول دیا گیا ہے، حضرت سفیان نے انگلیوں کا  
گول حلقة بنایا کہ اتنا سا کھولا گیا

اس آیت اور حدیث سے پتہ چلا کہ قیامت میں یا جوں ماجون کھولے جائیں گے

## سورج مغرب سے نکلے گا

اس کی دلیل یہ حدیث ہے

14- حدثنا ابو ہریرۃؓ قال قال رسول اللہ ﷺ لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فاذا راها الناس آمن من عليها فذالک حين ﴿لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل﴾ (آیت ۱۵۸، سورۃ الانعام ۶) (بخاری شریف، کتاب التفسیر، باب لا یعنی نفسا ایمانا خا، ص ۹۳۷، نمبر ۳۶۳۵) ترجمہ حضورؐ نے فرمایا کہ جب تک مغرب سے سورج نہیں نکلے گا قیامت قائم نہیں ہوگی، جب اس کو نکلتا دیکھیں گے تو سب لوگ ایمان لے آئیں گے [لیکن اس وقت یہ ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، اس آیت، لا ینفع نفساً، میں اس کا ذکر ہے

## جانور نکلے گا

قیامت کے قریب ایک عجیب جانور نکلے گا جو انسانوں سے با تیس کرے گا، اور اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ جانور نکلنے کی دلیل یہ آیت ہے

3- إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ ذَآبَةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِإِيمَانٍ لَا يُوقِنُونَ - (آیت ۸۲، سورۃ النمل ۲۷)

ترجمہ۔ اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان لوگوں پر آپنچے گا، تو ہم ان کے لئے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا، کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے

## کچھ اور چیزیں بھی علامت قیامت میں سے ہیں

قیامت کے قریب زناعام ہو جائے گا، گانے عام ہو جائیں گے، شراب پیناعام ہو گا، دین سے جہالت عام ہو جائے گی، اور والدین کے ساتھ بچوں کا رویہ آقا جیسا ہو گا، اور بچے ماں باپ کا کوئی احترام نہیں کریں گے، اور نیچے قسم کے لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں بنالیں گے  
ان احادیث میں اس کا تذکرہ ہے

15- عن ابی هریرۃ ... و سأخبرك عن اشراطها اذا ولدت الامة ربها ، و اذا  
تطاول رعاة الابل البهم فی البیان - (بخاری شریف، کتاب لايمان، باب سؤوال جریل النبی  
صلی اللہ علیہ وسلم عن الايمان، ص ۱۲، نمبر ۵۰)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا، میں قیامت آنے کی علامت بتاتا ہوں، جب عورتیں اپنے آقا کو جنم دینے لگیں، کالے اونٹوں کو چرانے والے لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں میں ڈینگیں مارتے لگیں

16- عن انس بن مالک ... ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم و یظہر الجهل و  
یفسوّل الزنا ، و یشرب الخمر ، و یذهب الرجال و یبقى النساء حتی یکون لخمسین  
امرأة قیم واحد۔ (ابن ماجہ شریف، کتاب الفتن، باب اشراط الساعۃ، ص ۵۸۲ نمبر ۲۰۲۵)

ترجمہ۔ حضورؐ نے فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہیں، علم دین اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، زناعام ہو جائے گا، شراب خوب پی جائے گی، مردکم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ پچاس عورتوں کے لئے ایک ہی ذمہ دار ہو گا۔

اس عقیدے کے بارے میں 3 آیتیں اور 16 حدیثیں ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں

تمت بالخير

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، و الصلوة و السلام على رسوله الكريم و

على الله و اصحابه اجمعين الى يوم الدين -

الحمد لله آج یہ کتاب پوری ہوئی، جو میری زندگی کی ایک اہم کتاب ہے۔

احقر ثمیر الدین قاسمی غفرلہ، مانچسٹر، 2 / 2 / 2018

### مؤلف کا پتہ

Maulana Samiruddin Qasmi

70 Stamford Street , Old trafford

Manchester,England -M16 9LL

E samiruddinqasmi@gmail.com

M (00 44 ) 07459131157

website samiruddinbooks.co.uk